

أَلْحَبْلُ الْمَتِينُ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ



رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ

كا طريقه نماز



مؤلف

حضرت مولانا ابو حفص عمر رضا عثمان صاحب از احمد شرفی غفلة

فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
(بخاری)

الْحَبْلُ الْمَتِينُ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ

المسمى به

رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كا طريقه نماز

تالیف

مولانا ابو حفص اعجاز احمد اشرفی حفظہ اللہ

دارالنعیم

عنوان: سن سٹریٹ، جینڈر سٹریٹ، لاہور

0301-4441805

daarunaem@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں)

نام کتاب	الْحَبْلُ الْمَتِينُ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ﷺ كَأَطْرُقِهِ نَمَاز
مصنف	مولانا ابو حفص اعجاز احمد اشرفی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
صفحات	672
طبع اول	جمادی الاول ۱۴۳۶ھ بہ مطابق مارچ ۲۰۱۵ء
طبع دوم	رمضان ۱۴۴۰ھ، مئی ۲۰۱۹ء
باہتمام	اعجاز احمد اشرفی

ملنے کا پتہ

مکتبہ نعمانیہ، اردو بازار، گوجرانوالہ

فون: 055-4235072; 0321-7475072

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انتساب

پیرِ طریقت، رہبرِ شریعت، امامِ اہل سنت، مُحْيِ السُّنَّةِ

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا

محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ

(المتوفی ۱۴۳۰ھ)

کے نام
اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ان کے بلندی درجات کا باعث بنائے۔ آمین!
اعجاز احمد اشرفی

نماز کے بارے میں چھ (6) مفید کتابیں

1 ایضاح المرام فی ترک القراءۃ خلف الامام (ترک قراءت مقتدی)
اس کتاب میں قرآن و حدیث اور تعامل خیر القرون سے ثابت کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے
مقتدی کی قراءت درست نہیں ہے۔ حضور ﷺ کی آخری نماز میں بھی آپ ﷺ کا عمل
بھی ترک قراءت مقتدی ہی ہے۔ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی مسلک
ہے۔ طبع ثانی۔ صفحات 480

2 رَاحَةُ الْعَيْنَيْنِ فِي تَرْكِ رَفْعِ اليَدَيْنِ (ترک رفع یدین)
تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین نہ کرنا سنت مستمرہ ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا آخری
عمل صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ہے۔ ترک رفع یدین قرآن پاک کی چار
آیات، جناب رسول اللہ ﷺ کی 145 احادیث مبارکہ جو 22 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے
مرفوعاً اور 3 تابعین رضی اللہ عنہم سے مرسلأ مروی ہیں۔ نیز 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقوفاً عمل 26
احادیث مبارکہ سے بیان کیا گیا ہے۔ طبع ثانی صفحات: 608

3 اَلدُّ الثَّمِينُ فِي الْاِخْفَاءِ بِاَمِينٍ (اخفاء آمین)
اخفاء آمین سنت مستمرہ ہے۔ آمین کا آہستہ کہنا جناب رسول اللہ ﷺ، خلفائے
راشدین رضی اللہ عنہم، جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے بطریق صحیح ثابت ہے۔ صفحات: 240

4 اَلسُّنَّةُ الْغُرَّةُ فِي وَضْعِ اليَدَيْنِ تَحْتَ الشُّرَّةِ: نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ
نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے۔ اس بارے میں مرفوع، موقوف اور مرسل
احادیث موجود ہیں۔ مردوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح احادیث اور تعامل امت
کے خلاف ہے۔ صفحات: 272

5 خواتین کا مسنون طریقہ نماز
اس کتاب میں خواتین کی نماز کا طریقہ بالخصوص مردوں کی نماز کے اختلافات کو بیان کیا گیا
ہے۔ صفحات: 160

6 اَنْوَارُ الْمَصَابِيحِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ (نماز تراویح)
رمضان میں حضور ﷺ، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام رضی اللہ عنہم،
ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم، جمہور امت کا تعامل بیس (20) رکعات تراویح کا رہا ہے۔ صفحات: 496

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
13	حضرت مولانا مفتی واجد حسین <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	تقریظ
14	پیش لفظ	
34	نماز پڑھنے کا اجمالی طریقہ	مقدمہ
39	رحمۃ للعالمین ﷺ کے طریقہ نماز کے بارے میں جامع احادیث	باب 1
39	منفرد کے لیے نماز سکھانے والی قولی احادیث	1.1
39	حدیث حضرت ابو ہریرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.1.1
42	حدیث حضرت رفاعہ بن راس <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.1.2
51	حدیث حضرت عبداللہ بن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.1.3
53	حدیث حضرت عبداللہ بن عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.1.4
59	حدیث حضرت ابوسعید خدری <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.1.5
60	حدیث حضرت انس بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.1.6
69	حدیث حضرت حکم بن عمیر شمالی <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.1.7
70	حدیث حضرت وائل بن حجر <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.1.8
72	نماز باجماعت کا طریقہ سکھانے والی قولی حدیث	1.2
72	حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.2.1
78	نماز باجماعت کا طریقہ سکھانے والی فعلی احادیث	1.3
78	حدیث حضرت ابو مالک اشعری <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.3.1
82	حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.3.2
85	حدیث حضرت عمران بن حصین <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.3.3
86	جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان کرنے والی احادیث	1.4
86	حدیث حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	1.4.1

90	حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	1.4.2
93	حدیث حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ	1.4.3
96	حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ	1.4.4
106	حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ	1.4.5
108	حدیث حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ	1.4.6
109	حدیث حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ	1.4.7
111	حدیث حضرت عبدالرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ	1.4.8
112	حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ	1.4.9
116	حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ	1.4.10
117	نماز میں قیام کا مسنون طریقہ	باب 2
117	قیام	2.1
118	صف کی درستگی	2.2
130	ٹخنے، پاؤں، گردن اور صفوں کے ملانے سے کیا مراد ہے؟	2.2.1
131	علمائے کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال	2.2.2
135	تسویہ صفوف کا معنی اور مراد	2.2.3
135	نماز میں پاؤں زیادہ پھیلانے کی مذمت	2.2.4
136	حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ کی تحقیق	2.2.5
138	نیت	2.3
140	تکبیر تحریمہ	2.4
141	تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کی کیفیت	2.5
151	نماز میں ہاتھ باندھنا	2.6
176	اسنادیث پر عمل کی عمدہ تطبیق	2.6.1
177	نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے	2.7
189	محدث حضرت اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ کی تصریح	2.7.1
190	ثناء پڑھنا	2.8

199	تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھیں	2.9
204	قراءت قرآن	2.10
212	ترک قراءت خلف الامام	باب 3
212	نماز میں قراءت قرآن کے وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے	3.1
212	وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (الاعراف: 212)	آیت 1
	(۲۰۴)	
213	رسول اللہ ﷺ سے آیت کریمہ کی تفسیر	3.1.1
214	تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ	3.1.2
217	تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ	3.1.3
219	احادیث مرفوعہ	حصہ اول
219	حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ	3.2
229	حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ	3.3
232	امام مسلم عنہ کی حدیث: ”وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا“ کی تصحیح	1
233	علامہ البانی عنہ غیر مقلد کی حدیث ”وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا“ کی تحسین	2
237	حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ	3.4
237	حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ	3.5
254	حدیث حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ	3
255	علامہ بدرالدین عینی عنہ کی حدیث ”مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةٌ الإمام له قراءة“ کی تصحیح	4
258	علامہ البانی عنہ غیر مقلد کی حدیث ”مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قراءة“ کی تحسین	5
261	حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ	3.6
262	حدیث حضرت ابو دردائہ رضی اللہ عنہ	3.7
264	حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ	3.8
277	”فَانْتَهَى النَّاسُ الْخ“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہی ہے	6

282	حدیث حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ	3.9
287	حدیث حضرت عبداللہ بن بختیہ رضی اللہ عنہ	3.10
289	حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ	3.11
291	حدیث حضرت بلال رضی اللہ عنہ	3.12
292	حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ	3.13
293	حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	3.14
294	حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ	3.15
294	حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ	3.16
295	حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ	3.17
296	آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	حصہ دوم
296	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آثار	3.18
298	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آثار	3.19
299	حضرات ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے آثار	3.20
301	اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کے آثار	3.21
302	حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اثر	3.22
302	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار	3.23
306	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آثار	3.24
310	حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آثار	3.25
312	حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آثار	3.26
314	حضرات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آثار	3.27
315	حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آثار	3.28
317	حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے آثار	3.29
320	آمین آہستہ کہنا	باب 4
320	احادیث مرفوعہ	حصہ اول

320	حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ	4.1
328	حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ	4.2
329	طریق حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ	4.3
339	آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم	حصہ دوم
339	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل	4.4
343	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل	4.5
346	علامہ نیموی رضی اللہ عنہ کا فرمان	1
346	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل	4.6
347	حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ تابعی کا فرمان و عمل	4.7
352	رکوع اور مدرک رکوع	باب 5
352	کیفیت رکوع	5.1
358	مدرک رکوع	5.2
358	حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ	5.2.1
361	شرح حدیث کے حوالے	5.2.1.1
365	امام بیہقی رضی اللہ عنہ کا استدلال	5.2.1.2
366	علامہ ناصر الدین البانی رضی اللہ عنہ کی توضیح	5.2.1.3
367	حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ	5.2.2
369	حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ	5.2.3
372	حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ	5.2.4
373	حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ	5.2.5
374	حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ	5.2.6
376	حدیث شیخ من الانصار رضی اللہ عنہ	5.2.7
378	حدیث حضرت ابوقناد رضی اللہ عنہ	5.2.8
380	حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار	5.3
384	قومہ	5.4

386	رکوع و سجود کے وقت تکبیرات ہیں، رفع یدین نہیں	5.5
386	حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ	5.5.1
387	حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ	5.5.2
393	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اثر	5.5.3
395	حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اثر	5.5.4
386	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر	5.5.5
397	ترک رفع یدین	باب 6
397	احادیث مرفوعہ	حصہ اول
397	حدیث حضرت جابر بن سمرقہ رضی اللہ عنہ	6.1
404	حدیث حضرت جابر بن سمرقہ رضی اللہ عنہ پر محدثانہ بحث	6.1.1
416	حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ	6.2
427	سنن ترمذی میں ”حسن صحیح“ کا ثبوت	6.2.1
428	امام ترمذی رضی اللہ عنہ کی تصحیح کے بارے علامہ عینی رضی اللہ عنہ کی تحقیق	1
428	حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تصحیح	6.2.2
431	علامہ البانی رضی اللہ عنہ غیر مقلد کی تصحیح	2
435	حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں ”ثم لا يعود“ مدرج نہیں ہے	6.2.3
437	امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کا حدیث کی تصحیح کرنا	3
438	سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی متابعت	4
438	حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ	6.3
439	مسند ابی عوانہ کی روایت کی تحقیق	6.3.1
445	حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ کا مدونہ الکبریٰ سے استدلال	6.3.2
445	حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ	6.4
447	حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر تحقیقی بحث	6.4.1
447	تعدیل و توثیق محمد بن جابر یماوی رضی اللہ عنہ اور تصحیح حدیث	6.4.2
457	حدیث خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ	6.5

- 459 حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مؤیدات 6.5.1
- 461 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 6.6
- 464 حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ 6.7
- 465 حضرت یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ سے قدیم السماع شاگردوں کی روایات 6.7.1
- 484 یزید بن ابی زیاد الکوفی رضی اللہ عنہ کے متابعات 6.7.2
- 491 حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت 6.7.3
- 492 یزید بن ابی زیاد الکوفی رضی اللہ عنہ کی توثیق 6.7.4
- 510 "ثم لا يعود" کی زیادت صحیح ہے 6.7.5
- 513 حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 6.8
- 517 حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 6.9
- 521 حضرت محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کی توثیق 5
- 525 **ترک رفع یدین آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روشنی میں** حصہ دوم
- 525 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آثار 6.9
- 526 حضرت امام طحاوی رضی اللہ عنہ کی تحقیق 6.9.1
- 528 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آثار 6.10
- 534 حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ اور امام طحاوی رضی اللہ عنہ کی تحقیق 6.10.1
- 536 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار 6.11
- 537 حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی رضی اللہ عنہ کی تحقیق 6.11.1
- 539 حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر اعتراض کا جواب 6.11.2
- 545 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آثار 6.12
- 548 حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اہمیت 6.12.1
- 549 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر 6.13
- 551 **سجدہ اور طاق رکعت کے بعد قیام کا طریقہ** باب 7
- 551 سجدہ میں جانے کا مسنون طریقہ 7.1
- 558 اعضائے سجدہ اور کیفیت سجدہ 7.2

561	طاق رکعت کے بعد قیام کا طریقہ	7.3
571	جلسہ استراحت مسنون نہیں ہے	7.4
579	معذور کے لیے جلسہ استراحت بھی جائز ہے	7.5
580	حضرت امام بیہقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے فہم حدیث سے اختلاف	7.6
586	تشریح حدیث اور عمل بالحدیث میں فقہاء <small>رحمۃ اللہ علیہم</small> کا اعتبار ہے	7.7
592	دوسری رکعت	7.8
593	قعدہ، کیفیت قعدہ، تشہد اور سلام	باب 8
593	قعدہ اولیٰ	8.1
597	کیفیت قعدہ	8.2
603	قابل غور امور	1
607	تشہد	8.3
612	رفع سبابہ	8.4
627	قعدہ اولیٰ میں اختصار اور عجلت	8.5
630	قعدہ اخیرہ	8.6
632	درود شریف کی حکمت	8.6.1
633	درود و سلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے	8.6.2
633	درود شریف میں ”آل“ کا مطلب	8.6.3
641	نماز کے بعد دعا و اذکار	باب 9
641	نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا	9.1
659	دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث معنی کے لحاظ سے متواتر ہیں	9.2
661	حافظ ابن حجر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تحقیق	9.3
666	علامہ انور شاہ کشمیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تحقیق	9.4
666	نماز کے بعد ذکر اللہ بھی مستحب ہے	9.5
670	مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق	ضمیمہ

حضرت مولانا مفتی واجد حسین حفظہ اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ بعد الحمد والصلوة۔

نماز دین کا ستون اور اہم رکن ہونے کے ساتھ افضل ترین عبادت بھی ہے جس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ شریعت کے دیگر اعمال و احکام زمین پر فرض ہوئے ہیں جب کہ نماز شب معراج آسمانوں پر فرض ہوئی ہے۔ نیز قرآن و حدیث میں سینکڑوں مرتبہ نماز پڑھنے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ کہیں ترہیب کے انداز میں ترک نماز اور تکاہل نماز سے روکا گیا ہے۔ تو کہیں تبشیر کے انداز میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ تمام بشارتیں اور فضائل انسان کو اسی وقت ملیں گے جب وہ نماز قرآن و حدیث کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ادا کرے گا اور اس کی نماز حضور نبی کریم ﷺ کی سنت کے مطابق ہوگی۔

زیر نظر کتاب: **الْحَبْلُ الْمَتِينُ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَحْمَةِ لِّلْعَالَمِينَ** (رحمۃ للعالمین ﷺ کا طریقہ نماز) میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ کی نماز کا سنت طریقہ بیان کیا گیا ہے تاکہ قاری اس سے راہنمائی حاصل کر کے نماز سنت کے مطابق ادا کرے۔

اللہ رب العزت کتاب کے مؤلف محترم مولانا اعجاز احمد اشرفی مدظلہ (فاضل جامعہ اشرفیہ، لاہور) کی اس کاوش کو قبولیت سے نوازے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔

آمین! یارب العالمین

واجد حسین عفی عنہ

دارالافتاء، جامعہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ

۱۱، جمادی الاول ۱۴۳۶ھ، بہ مطابق ۳۔ مارچ ۲۰۱۵ء

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَمَّا بَعْدُ ! فَاَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. اقم الصلوة لذكرى (سورة طه) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. (سورة المؤمنون) قال رسول الله ﷺ واذا كبر وركع فكبروا واركعوا. (مسلم) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا لازوال شرف عطا فرمایا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کا شکر بجالانا چاہیں۔ تو یہ ایک ناممکن امر ہے، ہم اس کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ارشاد خداوندی ہے:

آیت 1:- وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (النحل: ۱۸)

ترجمہ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو، تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اپنے بندوں کی راہنمائی کے لیے دین اسلام کو کامل فرما دیا۔ اور قرآن پاک میں دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس

لیے عقائد کے بعد نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ ساری عبادتوں سے اس کا درجہ بلند ہے۔

حضرات انبیاء ﷺ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، کمالات و احسانات اور اس کی تقدیس و توحید کے بارے میں جو کچھ بتلاتے ہیں، اس کو مان لینے اور اس پر ایمان لے آنے کا پہلا قدرتی اور بالکل فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے حضور میں اپنی فدویت و بندگی، محبت و شیفگی اور محتاجی و در یوزہ گری کا اظہار کر کے اس کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی یاد سے اپنے قلب و روح کے لیے نور اور سرور کا سرمایہ حاصل کرے۔ نماز کا اصل موضوع تو یہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نماز اس مقصد کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔

عقائد کے بعد اسلام میں جس چیز کی بڑی اہمیت اور عام نبوتوں اور رسالتوں کا (جن میں فہرست نبوت محمدی۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے) جس پر بڑا زور اور جس کی تاکید کی ہے، وہ عبادات ہیں، جو انسانوں کی پیدائش کا اولین مقصد اور غرض و غایت ہیں۔

آیت 2:- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○ (الذاریات: ۵۶)

ترجمہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی (یعنی نہ صرف پرستش و بندگی بلکہ غلامی و اطاعت بھی) کریں۔

اسلام میں دین کا مفہوم دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں بہت وسیع ہے۔ ہر وہ مطلوب عمل جو رضائے الہی کے لئے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کیا جائے، دین کہلاتا ہے، خواہ اس عمل کا تعلق دنیوی امور، بشری حاجتوں یا معاشی ضرورتوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ لیکن خاص مشروع عبادات اور ارکان و فرائض دین جیسے نماز زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ایک بلند مقام اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے مقام و اہمیت کو کم کرنا اور ان اعمال اور دوسرے ان تمام اعمال کو جن کے ذریعہ انسان اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے، برابر قرار دینا دین میں تحریف و الحاد کا دروازہ کھولنا ہے۔

تمام آسمانی شریعتوں نے ان کو مشروع قرار دیا ہے، اور تمام آسمانی مذاہب نے اپنے اپنے دور میں ان کی دعوت دی ہے، اور شریعت اسلامی نے سب سے زیادہ کامل و مکمل شکل میں ان کو پیش کیا ہے، اور رسول اللہ ﷺ کو ان کا ایسا اہتمام، اور ان سے ایسا عشق و شغف تھا، جو احاطہ بیان سے باہر ہے۔ بیسیوں آیتیں، اور سینکڑوں احادیث ان کے بارے میں ترغیب و تحریض، اور ان کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں مسابقت و تنافس اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان کی کثرت کرنے والوں، اور ان کا اہتمام رکھنے والوں کا مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان سے غفلت برتنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔

قرآن کریم جہاد و حکومت کو وسیلہ اور اقامتِ صلوة کو مقصد و نتیجہ قرار دیتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

آیت 3:- الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ (سورۃ الحج: ۴۱)

ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

قرآن کریم پر ایک نظر ڈالنے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ عبودیت و بندگی، اور عبادات معینہ (ارکانِ اربعہ: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج) بندہ سے اس طرح مطلوب و مقصد ہیں کہ انہیں کے متعلق قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اور ان کا ترک، اور ان سے تغافل موجب وبال و نکال ہے۔ ایک جگہ ان لوگوں سے سوال و جواب کے موقع پر جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہوئے، ارشاد ہے:

آیت 4:- مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُبْتَلِينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُنْطَعِمُ الْمُسْكِينَ ۝ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاطِبِينَ ۝ وَكُنَّا نُكذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ۝ (المدثر: ۴۲ تا ۴۷)

ترجمہ ”تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟“۔ وہ کہیں گے: ”ہم نماز پڑھنے والوں میں سے

نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روزِ جزاء کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اُس یقینی چیز سے سابقہ پیش آگیا۔
دوسری جگہ کفار کے تذکرہ میں ارشاد ہے:

آیت 5:- فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ
يَتَمَطَّى ۝ (القیامۃ: ۳۱ تا ۳۳)

ترجمہ مگر اُس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اُڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔

☆ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادات و ارکانِ دین کے پورے نظام میں بنیادی و مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن پر مواخذہ و محاسبہ ہوگا۔ باقی چیزیں (حکومت الہیہ کا قیام، اور انسانی تمدن کو خیر و فلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرنا) وسائل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور دین میں ان کا درجہ دوسرا ہے۔

ان عبادات میں اولین اور اہم رکن نماز ہے۔ یہ دین کا ستون ہے۔ اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آیت 6:- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (الروم: ۳۱)

ترجمہ اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔

حدیث 1:- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - أَوْ الشِّرْكِ - تَرْكُ الصَّلَاةِ».

تحقیق اسنادہ قوی علی شرط مسلم من أجل أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع. أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 256/8 من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 34/11، وعبد بن حميد (1022)، ومسلم (82)، والترمذي (2618) و(2619)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (886)، وأبو

يعلى (1953) و (2102)، وأبو عوانة 61/1 و 62، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3175)، وابن حبان (1453)، والطبراني في "الصغير" (799)، وابن منده في "الإيمان" (219)، والبيهقي 366-365/3، والخطيب في "تاريخه" 180/10 من طرق عن الأعمش، به. وصححه الترمذي.

وأخرجه المروزي (892)، وأبو يعلى (1783)، والأجري في "الشريعة" ص 133، والطبراني في "الصغير" (374)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (266)، والبيهقي 366/3 من طريق عمرو بن دينار، عن جابر.

وأخرجه أبو يعلى (2191) من طريق الحسن البصري، عن جابر.

وأخرجه المروزي (889) من طريق وهب بن منبه، عن جابر، وفيه قصة مطولة.

وأخرج المروزي أيضاً (892) من طريق مجاهد بن جبر، قال: قلت لجابر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: الصلاة.

وسياتي برقم (15183) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وفي الباب عن بريدة، وسياتي 346/5.

وعن أنس عند ابن ماجه (1080) وفي إسنادة يزيد بن أبان الرقاشي، وهو متروك.

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي - وهو تابعي - عند الترمذي (2622) أنه قال: كان أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ورجاله ثقات.

قال ابن حبان في "صحيحه" 324/4: أطلق المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسم الكفر على تارك الصلاة. إذ تَرَكَ الصلاة أول بداية الكفر. لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده، ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض. أداه ذلك إلى الجحد. فأطلق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسم النهاية التي هي آخر شُعب الكفر على البداية التي هي أول شُعبها. وهي ترك الصلاة.

وقال البغوي في "شرح السنة" 179/2: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً. فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره ... وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر. وحملوا الحديث على ترك الجحود وعلى الزجر

والوعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين. وقال الزهري: وبه قال أصحاب الرأي: لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي، كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. وقال السندي: قوله: "بين العبد المؤمن وبين الكفر". كما أن المانع يوصف بأنه بين الشئيين لكونه يمنع أحدهما عن الآخر، كذلك الوسيلة الموصلة أحدهما إلى الآخر يوصف بأنه بينهما، فيقال: بيني وبين السلطان الوزير، وبيني وبين مرادى الاجتهاد، وليس المراد هاهنا المانع، بل الوسيلة، فكانه قيل: المعصية الموصلة للعبد إلى الكفر هي ترك الصلاة. والله تعالى أعلم.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 23 ص 228 رقم 14979. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بندہ اور کفر (شُرک) کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔“

ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے:

حدیث 2:- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ". (ترمذی رقم 2618) احکم الألبانی: صحیح

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کفر اور ایمان کے درمیان (حد فاصل) ترک نماز ہی ہے۔“

نماز نجات کی شرط اور ایمان کی محافظ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت و تقویٰ کی بنیادی شرط کے طور پر بیان کیا ہے۔ نماز ہر آزاد اور غلام، امیر اور غریب، بیمار اور تندرست، مسافر اور مقیم پر ہمیشہ کے لئے اور ہر حال میں فرض ہے۔ کسی بالغ انسان کو کسی حال میں اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا، بخلاف روزہ، حج اور زکوٰۃ کے جو مختلف شرائط و صفات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ان کے متعین اور محدود اوقات ہیں۔ نماز

میدان جنگ میں بھی فرض ہے، اور صلوٰۃ خوف کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، جو کسی نبی اور رسول سے بھی ساقط نہیں ہوتا، چہ جائیکہ کسی ولی اور عارف و مجاہد سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آیت 7:- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ○ (سورۃ الحج: ۹۹)

ترجمہ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہئے یہاں تک کہ آپ کو امر یقینی پیش آجائے۔ نماز مومن کے حق میں ایسی ہے، جیسے مچھلی کے لئے پانی۔ نماز مومن کی جائے پناہ اور جائے امن ہے۔ اور اگر نماز واقعی و حقیقی نماز ہو تو وہ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی غلامی، جاہلی زندگی اور اخلاق رذیلہ سے کوئی جوڑ نہیں کھاتی۔ اور دونوں میں کھلا ہوا تضاد ہے:

آیت 8:- إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ○ (سورۃ العنکبوت: ۴۵)

ترجمہ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔

نماز کوئی ایسا آہنی سانچہ یا چوب خشک کی طرح کوئی جامد اور محدود چیز نہیں ہے۔ جس میں سب نمازی یکساں ہوں اور ہر نمازی ایک سطح پر رہنے کے لئے مجبور اور اس سے آگے بڑھنے سے قاصر ہو وہ دراصل ایک بہت بڑا اور وسیع و عریض میدان ہے، جہاں نمازی ایک حال سے دوسرے حال تک، اور عروج سے کمال، اور کمال سے ان منزلوں تک پہنچتا ہے۔ جو اس کے تصور و خیال سے بھی ماوراء ہیں، نماز کو وصول الی اللہ تعلق مع اللہ اور تقریب و ولایت کے حصول میں جو کمال درجہ کی تاثیر اور غایت درجہ کی اہمیت حاصل ہے۔ وہ پورے نظام شریعت میں کسی اور چیز کو نہیں۔ اس کے ذریعہ اس امت کے محققین و مجاہدین ہر نسل اور ہر دور میں ایمان و یقین، علم و معرفت، روحانیت و للہیت، اور قرب و ولایت کے ان درجات تک پہنچ گئے، جہاں اہل ذہانت کی دقیقہ رسی اور حکماء و عقلاء کا تصور و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہر دور میں یہی حال رہا ہے، نماز نبوت کی میراث ہے، جو اپنے تمام اشکال و آداب، اور احکام و تفصیلات کے ساتھ بحفاظت ایک نسل سے دوسری نسل، اور ایک عہد سے دوسرے عہد تک منتقل ہوتی رہی۔

نماز رسول اللہ ﷺ کی محبوب و پسندیدہ عبادت تھی۔ اس سے آپ کو سکون و تسلی حاصل ہوتی تھی۔ آپ ﷺ فرماتے تھے:

حدیث 3:- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْقُومَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "... وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ".

(نسائی رقم 3939؛ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ رقم 1809؛ مختصر سلسلہ الاحادیث الصحیحہ: 614)

ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔“

حدیث 4:- حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بِلَالُ! أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ.

تحقیق رجالہ ثقات، لکن اختلاف علی سالم بن ابی الجعد فی إسنادہ، فمرة یرویه عن رجل من أسلم، عن النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما هنا، ومرة یرویه عن عبد الله بن محمد ابن الحنفیة، عن صهر له أنصاری، ومرة یرویه عن محمد ابن الحنفیة نفسه عن النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلأً كما سیأتی عند الروایة (23154). مسعر: هو ابن کدام.

وأخرجه أبو داود (4985)، والطبرانی فی "الکبیر" (6214) من طریق عیسی ابن یونس، والخطیب فی "تاریخ بغداد" 445.444/10 من طریق خلاد بن یحیی، کلاهما عن مسعر بن کدام، بهذا الإسناد، ووقع عند أبی داود أن الصحابی: رجل من خزاعة، ووقع عند الطبرانی ولعله تحریف: عن عمرو بن مرة، عن سلمان بن خالد - أراه من خزاعة.

وأخرجه مسدد فی "مسندہ" كما فی "إتحاف الخیرة" للبوصیری (1309)، ومن طریقہ الخطیب فی "تاریخہ" 444/10 من طریق أبی حمزة ثابت بن أبی صفیة الثمالی، عن سالم بن أبی الجعد، به، قلنا: وأبو حمزة ضعیف.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 249/2 من طريق سلمة بن الفضل عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن خارجة بن خزاعة، عن بلال، فجعله من حديث بلال، قلنا: وسلمة بن الفضل ضعيف.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 122/4، والخطيب في "تاريخه" 444/10 من طريق أبي حمزة الثمالي، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد ابن الحنفية، عن بلال، فجعله أيضاً من حديث بلال، قلنا: وإسناده تالف.

وسياتي الحديث من طريق سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن صهر له من الأنصار برقم (23154).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 38 ص 38، رقم 23088، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ) - المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضور اکرم ﷺ نے (اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے) فرمایا: "بلال! نماز کھڑی کرو، اور ہمیں اس سے آرام پہنچاؤ۔"

حدیث 5:- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، وَخَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا يَعْْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدُّوَلِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخُو حُذَيْفَةَ، قَالَ حُذَيْفَةُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى".

إسناده ضعيف، محمد بن عبد الله، ويقال: محمد بن عبيد أبو قدامة تفرد بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليمامي، ولم يوثقه أحد، فهو مجهول، وعبد العزيز أخو حذيفة رَجَّحَ الذهبي في "التجريد"، والحافظ في "الإصابة" 942/5 أنه ابن أخيه، كما وقع في رواية أبي داود وغيره، ونقل ذلك أيضاً عن أبي نعيم، قلنا: وعبد العزيز روى عنه اثنان من المجهولين، وقال الذهبي: لا يعرف، ومع ذلك وثقه العجلي وابن حبان! وقد اختلف في إسناده على عكرمة بن عمار كما سياتي.

أخرجه أبو داود (1319)، والطبري في "تفسيره" 260/1، والخطيب البغدادي في

تحقيق

تاریخہ 274/6 من طرق عن یحییٰ بن زکریا، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبری 260/1 من طریق وهب بن جرير، عن عكرمة، به.

وأخرجه أبو عوانة (6842)، والبيهقي في "الدلائل" 452-451/3 من طریق أبي

حذيفة موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار، عن محمد بن عبید ابی قدامة، عن

عبد العزيز ابن أخي حذيفة، قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فذكر قصة طويلة، هذا الحديث في أثنائها.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 189/2 من طریق سُريج بن يونس، عن يحيى

بن زكريا، عن عكرمة، عن محمد بن عبد الله، عن عبد العزيز أخي حذيفة عن النبي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يذكر فيه حذيفة.

وأخرجه كذلك ابن قانع 189/2 من طریق ابن جريج، عن عكرمة، عن محمد بن

عُبید بن أبی قدامة، عن عبد العزيز بن اليمان، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ ... فَذَكَرَهُ.

وفي حديث صهيب فيما حكاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نبي من الأنبياء

السابقين: فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصلاة. سلف في مسنده

بسند صحيح برقم (18937).

قوله: "حزبه" بموحدة في آخره، أي: نزل به أمر شديد.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 38 ص 330 رقم 23299 المؤلف: أبو عبد الله

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 231هـ) - المحقق:

شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن

التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "حضور اکرم ﷺ کو جب کوئی پریشانی کی بات

پیش آتی، فوراً نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔"

* جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز احسان کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ تھی۔

آپ ﷺ سے احسان کے معنی دریافت کئے گئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

حدیث 6: - أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. (بخاری رقم 50)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

یہی وہ نماز ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کی اقتداء و اتباع کا ہر مسلمان کو حکم ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

حدیث 7:- وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. (بخاری رقم 631، 6008، 7246)

ترجمہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔

حدیث 3:- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ

مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،

قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا

قَرِيبًا مِنْهُ، وَنَحْنُ نَسِيرُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي

الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ

عَلَى مَنْ يَشْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ،

وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى

أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ

النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.. قَالَ: ثُمَّ تَلَا «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ

عَنِ الْمَضَاجِعِ» (السجدة: ١٦)، حَتَّىٰ بَلَغَ (يَعْمَلُونَ) (السجدة: ١٤). ثُمَّ

قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَا

رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ

الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَا نَبِيَّ اللَّهِ!

فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ. قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ

بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؛ فَقَالَ: ثَكَلْتُكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. هَذَا حَدِيثٌ

حَسَنٌ صَحِيحٌ (ترمذی رقم ۲۶۱۶)

ترجمہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پھر ایک دن میں صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا جب کہ ہم سفر میں چل رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرادے اور دوزخ سے دور کرادے۔“ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو نے مجھ سے بڑی ہی عظیم بات کا سوال کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی آسان ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دے۔ (وہ کام یہ ہیں:) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلاؤں: روزہ ڈھال ہے۔ صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت فرمائی:

آیت 9:- تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ○ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (السجدة: ۱۶، ۱۷)

ترجمہ اُن کے پہلو (رات کے وقت) اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو ڈرا اور امید (کے ملے جذبات) کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اُن کو جو رزق دیا ہے، وہ اس میں سے (نیکی کے کاموں میں) خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اُن کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں اس امر کا سر یعنی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی کا نہ بتلا دوں؟“ میں نے عرض کیا: ”ضرور بتلائیے، اے اللہ کے

رسول!“۔ تو حضور اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”اس امر یعنی دین کی اصل اسلام یعنی ایمان ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔“ پھر آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کی روح نہ بتلا دوں؟“۔ میں نے عرض کیا: ”ضرور! اے اللہ کے رسول!“۔ تو حضور اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اور فرمایا: ”اپنے اوپر اس زبان کو روک لے۔“ میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے نبی! ہم سے کلام اور گفتگو کی وجہ سے بھی مواخذہ کیا جائے گا؟“۔ تو حضور اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”اے معاذ! تیری ماں تجھے روئے۔ دوزخ میں جو لوگ اپنے منہ اور نتھنوں کے بل ڈالے جائیں گے، وہ اسی زبان کے پھندے کی وجہ سے ہی جائیں گے۔“

قیامت کے دن تمام عبادتوں سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے:

حدیث 8: - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: «اللَّهُمَّ! يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا.» قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: «إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ.» فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْتَلَبُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.»

وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَالْمَشْهُورُ هُوَ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ. وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُو هَذَا (ترمذی رقم 413) احکم الألبانی : صحیح۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور اکرم ﷺ کا ارشاد فرمایا: ”قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی، تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد۔ اور اگر نماز بے کار ثابت ہوئی، تو وہ نامراد، خسارہ میں ہوگا۔ اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی، تو ارشاد خداوندی ہوگا: ”دیکھو! اس بندہ کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔“ اگر نکل آئیں، تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔“

حدیث 9: عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»

(رواه الطبرانی فی الاوسط رقم ۱۸۵۷؛ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۷ رقم ۱۶۰۸ طبع دار الکتب العلمیہ، بیروت؛ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: ۱۳۵۸؛ مختصر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ۵۹۸)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پہلی چیز جس کا بندہ سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک رہی، تو سارے اعمال ٹھیک ہوں گے اور اگر نماز خراب رہی، تو سارے عمل خراب ثابت ہوں گے۔“

سفر، حضر، امن و خوف ہر حالت میں نماز کی محافظت اور پابندی کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔

آیت 10: -حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ○ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○ (البقرہ: ۲۳۸، ۲۳۹)

ترجمہ محافظت کرو سب نمازوں کی اور (بالخصوص) درمیان والی نماز عصر کی اور (نماز میں)

کھڑے رہو ادب سے۔ پھر اگر تم کو خوف ہو (کسی دشمن وغیرہ کا) تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لو (یعنی اس حالت میں بھی نماز کی پابندی کرو اسے ترک نہ کرو)۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو خدا کی یاد (یعنی ادائے نماز) اسی طریقے سے کرو جس طرح تم کو سکھایا ہے جس کو تم جانتے نہ تھے۔

نماز میں کوتاہی کرنے والوں پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔

□

حدیث 10:- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ،

عَنْ عَيْسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: "مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ".

تحقیق

إسناده حسن، عيسى بن هلال: روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". 213/5، وذكره الفسوى في "تاريخه" 515/2 في ثقات التابعين من أهل مصر، وبأقرب رجاله ثقات رجال الشيخين غير كعب بن علقمة، فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد: هو ابن أبي أيوب.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (353)، والدارمي 302-301/2، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3181)، وابن حبان (1467) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1788) من طريق ابن ثوبان، عن سعيد بن أبي أيوب، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3180) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب، عن كعب، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 292/1، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أحمد ثقات.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 11 ص 132 رقم 6577، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن

محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ (التوفی ۲۴۱ھ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بارے میں فرمایا: ”جو شخص نماز پر مداومت اور ہمیشگی کرے گا۔ اس کے لئے نماز قیامت کے دن نور ایمان کی دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس پر مداومت نہیں کرے گا قیامت کے دن نہ اس کے لئے نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ نجات۔ اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف (جیسے کافروں) کے ساتھ ہوگا۔“

☆ دیگر ارکان کے مقابلے میں نماز کا ادا کرنا اکثر مسلمانوں پر فرض ہے۔ مجنون، نابالغ، اور حیض و نفاس میں مبتلا عورتوں کے علاوہ ترک نماز کا عذر کسی سے مسموع نہیں ہے۔ نمازی تو بہت ہیں لیکن اس کے احکام و مسائل سے اچھی طرح واقف کم ہی ہیں۔ جب کہ نماز کے احکام کا جاننا ہر بالغ مسلمان کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نماز صحیح اور مکمل طور پر ادا کر سکے، کیونکہ وہ نماز جس کے شرائط ارکان وغیرہ پورے نہ کئے گئے ہوں وہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اچھی طرح سے نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد فرمایا:

حدیث 11:- "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمَّا تَصَلِّ"۔ (بخاری رقم 757)

ترجمہ تو پھر جا اور نماز پڑھ۔ تم نے تو (شرعاً) نماز پڑھی ہی نہیں۔

اسی طرح ایک موقع پر ادائے نماز کے بعد ایک صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا:

حدیث 3:- "يَا فُلَانُ! أَلَا تُحَسِّنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟" (صحیح مسلم: رقم 108-423)

ترجمہ اے فلاں! اپنی نماز کو اچھی طرح کیوں نہیں ادا کرتا، نمازی ادائے نماز کے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟

☆ قرآن و حدیث کے ان محکم اور واضح فرمودات کے پیش نظر نماز کی فرضیت اور اس

کے اہم ترین عبادات ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ البتہ کیفیت ادا میں قدرے تنوع ہے یعنی نماز کے بعض افعال اور طریقے، نیز کچھ سنن و آداب کے بارے میں سنت رسول ﷺ کے دائرے میں رہتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام رضی اللہ عنہم، ائمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم اور اکابر محدثین رضی اللہ عنہم کا باہم اختلاف پایا جاتا ہے۔ اصل پر متفق رہتے ہوئے ہر ایک کو اصول و ضوابط کے مطابق اپنے طریقہ ہائے نماز کی فضیلت اور بہتری کے اظہار کا پورا حق ہے۔

مومن کے پاس اسلام اور ایمان سے بڑا سر بلندی کا کوئی ہتھیار نہیں اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا ہی مومن پستی کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے اور سلف سے بد اعتمادی ایمان کے لیے زہرِ قاتل ہے اور یہ مرض اس وقت زوروں پر ہے حتیٰ کہ دن رات میں پانچ وقت بطور فرض پڑھی جانے والی نماز کے بارہ میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ یہ وہ نماز نہیں جو حضور ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی تھی۔ دنیا و جہان میں پھیلنے والی نماز یہ اُمتیوں کی بنائی ہوئی نماز ہے۔ یہ کوئی نماز ہے، مکی، مدنی نماز نہیں۔ چند اجتہادی مسائل میں سے بعض شوافع اور حنابلہ کے دلائل چرا کر عوام کے سامنے پیش کرنے شروع کیے کہ دیکھو! حدیث یہ کہتی ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اس کے خلاف کہتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ امام کو ماننا ہے یا نبی ﷺ کو؟ تو نبی ﷺ کی محبت میں عوام ایسے شور کے پیچھے لگ کر بالآخر اپنا ایمان کھودیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ!

لیکن کسی عقل مند کو یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ اگر پانچ وقت پڑھی جانے والی نماز ہمارے اکابر رضی اللہ عنہم نے ہمیں غلط پہنچائی ہے تو باقی دین جو نماز سے کم درجہ کا متواتر ہے۔ اس کے بارہ میں کیا اعتماد رہے گا کہ وہ ہمیں صحیح دیا ہو۔ مثلاً قرآن مجید کا تواتر نماز سے کم ہے، کیونکہ پورا قرآن روزانہ کوئی نہیں پڑھتا۔ نماز روزانہ پانچ وقت بطور فرض پڑھی جاتی ہے اور نوافل پڑھنے والے بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہر شہر، ہر محلے بلکہ ہر گھر میں ایسے اشخاص مل جائیں گے۔

قرآن مجید ہر مسلمان کو زبانی یاد نہیں۔ نماز ہر مسلمان بچے تک کو یاد ہے۔ جن لوگوں

نے ہمیں یہ نماز دی ہے، انہوں نے قرآن دیا، انہوں نے ہی صحاح ستہ دی۔ اگر نماز غلط ہوگئی تو باقی صحاح ستہ اور قرآن کا کیا اعتبار؟ پھر اجتہادی مسائل میں شوافع اور حنابلہ کے بعض مستدلات پیش کرتے ہیں اور احناف کے مستدلات کا اولاً انکار کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور اگر وہ احادیث پیش کی جائیں تو فوراً ان کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اور اپنے پیچھے لگنے والے عوام کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا ہے۔ جب کہ یہ بات سو فیصد دھوکہ ہے اور مزاج شریعت کے خلاف ہے۔

اس گروہ کے یہاں سنت کا ایک خود ساختہ معیار ہے کہ جو کام وہ خود کریں اسے سنت کا عنوان دیتے ہیں اور ہر اس کام کو خلاف سنت گردانتے ہیں، جو ان کی مزعومہ سنت کے موافق نہ ہو، چاہے اس پر جمہور اہل اسلام عمل پیرا ہوں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تائید و تصویب بھی ہوتی ہو۔

اس گروہ کے مذہبی افکار کا خلاصہ نماز کے چند اختلافی مسائل کو ہوا دینا ہے۔ یہ لوگ کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو ورغلا تے پھرتے ہیں کہ ان کی نمازیں سنت کے خلاف ہیں۔ ان کا نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ ان لوگوں کے اس رویہ سے عوام اپنی نمازوں کے متعلق ذہنی انتشار میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور بعض تو اصل نماز ہی سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔

اس صورت حال کے پیش نظر اہل حق کے مسلک کو واضح کرنے کے لیے یہ کتاب:

الْحَبْلُ الْمَتِينُ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَحْمَةِ نَبِيِّ الْعَالَمِينَ

رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَطْرُقِهِ نَمَازٌ

ترتیب دی گئی ہے۔ اس کتاب میں نماز کے اہم بالخصوص مختلف فیہ مسائل مرتب کر دیئے گئے ہیں اور ہر مسئلہ کی دلیل قرآن و حدیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے پیش کر دی گئی ہے۔ یہ دلائل عام طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، مؤطا امام مالک، سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، شرح معانی الآثار (طحاوی) وغیرہ معروف و معتبر کتب حدیث سے نقل کئے گئے ہیں

اور بیشتر احادیث کے مرتبہ اور درجہ کو بھی حضرات محدثین رضی اللہ عنہم کے اصول و اقوال کی روشنی میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ کتاب کے مطالعہ کے دوران احادیث کے ثبوت و صحت کے سلسلے میں قاری کا ذہن مطمئن رہے اور ان لوگوں کے دام فریب میں نہ آئیں جو ہر اس حدیث کو جو ان کے مزعومہ موقف کے خلاف ہو، بلا تحقیق ضعیف کہہ دیا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کی نصیحت یہ ہے:

زاجتہادِ عالماں کو تاہ نظر اقتداء رفتگاں محفوظ تر

ترجمہ

ناقص علم والوں کے اجتہاد سے گزشتہ مجتہدین رضی اللہ عنہم کی اتباع میں دین و ایمان کی زیادہ حفاظت ہے۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ! کتاب کے مطالعہ سے عام مسلمانوں کے ذہن میں جو شبہات پیدا کر دیئے گئے ہیں وہ دور ہوں گے۔ علاوہ ازیں ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان دلائل سے واقف ہو جانے کے بعد یہ یقین مزید پختہ ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہیں۔ یقین کی اس پختگی سے نماز میں خشوع و خضوع کا اضافہ لازمی ہے اور خشوع و خضوع ہی نماز کی روح ہے۔

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اس میں چند مسائل جزئیہ نماز کے دلائل حدیث سے لکھے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ مقلدین حنفیہ بھی عامل بالحدیث ہیں اور ان مسائل کے تخصیص کی دو وجہ ہیں: اول تو یہ کہ ان میں شور و شغب زیادہ ہے۔ دوسرے یہ وسوسہ آسکتا ہے یا ڈالا جاسکتا ہے کہ جس مذہب کی نماز ہی جو کہ افضل العبادات اور روزانہ متکرر الوقوع ہے، حدیث کے خلاف ہو، اس مذہب میں حق ہونے کا کب احتمال ہو سکتا ہے؟! سو اس سے یہ وسوسہ رنج ہو جائے گا۔ اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ان مسائل میں دوسری جانب حدیث نہیں بلکہ اس کام پر یہ دعویٰ کرنا بھی ضروری نہیں کہ دوسری جانب مرجوح ہے، نہ یہ دعویٰ کہ ان استدلالوں میں کوئی خدشہ یا احتمال نہیں کیونکہ مسائل ظنیہ کے لیے دلائل ظنیہ کافی ہیں اور ایسے احتمالات مضر ظنیت نہیں ہوتے بلکہ مقصود صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم بھی بے راہ نہیں چل رہے تاکہ موافقین تردد سے اور معترضین بدزبانی اور بدگمانی

سے نجات پائیں۔ اور اگر یہ شبہ ہو کہ جب دوسری جانب بھی حدیث ہے تو تم اس حدیث کے کیوں مخالف ہوئے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر دنیا میں کوئی عامل بالحدیث نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب ایک حدیث کی وجہ سے دوسری حدیث میں مناسب تاویل کر لی جاتی ہے، تو اس کی مخالفت بھی باقی نہیں رہتی۔

(الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، مجموعہ مقالات ج ۴ ص ۱۱۴۔ طبع: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان) اس کتاب کو مقدمہ اور نو (9) ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

مقدمہ	نماز پڑھنے کا اجمالی طریقہ
باب 1	رحمۃ للعالمین ﷺ کے طریقہ نماز کے بارے میں بیالیس (42) جامع احادیث
باب 2	نماز میں قیام کا مسنون طریقہ
باب 3	ترک قراءت خلف الامام
باب 4	آمین آہستہ کہنا
باب 5	رکوع اور مدرک رکوع
باب 6	ترک رفع یدین
باب 7	سجدہ اور طاق رکعت کے بعد قیام کا طریقہ
باب 8	قعدہ، کیفیت قعدہ، تشہد اور سلام
باب 9	نماز کے بعد دعا و اذکار

مسائل و دلائل کے اخذ و فہم میں غلطی کے امکان و وقوع سے انکار نہیں۔ اگر کوئی صاحب علم کسی غلطی کی صحیح طور پر نشان دہی کریں گے، تو شکر یہ کہ ساتھ اس کی اصلاح کر لی جائے گی۔ خدائے رحیم و کریم اپنے لطیف و کرم سے جو لغزشیں ہوئی ہوں انھیں معاف فرمائے اور اپنے رسول پاک ﷺ کی سنت پر سچے دل سے عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین!

اعجاز احمد اشرفی

اتوار، ۸۔ جمادی الثانی ۱۴۳۶ھ بہ مطابق ۲۹۔ مارچ ۲۰۱۵ء

منگل، 10۔ شعبان 1440ھ مطابق 16 اپریل 2019ء

طبع ثانی

مقدمہ

نماز پڑھنے کا اجمالی طریقہ

نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو جائیں اور انگلیاں کھلی رہیں، پھر ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لے اور باقی تین انگلیاں کلائی پر بچھی رہیں، تکبیر کے بعد یہ پڑھے:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“

ترجمہ اے اللہ! تیری ذات پاک اور منزہ ہے، اور میں تیری تقدیس بیان کرتا ہوں، اور سارے کمالات اور خوبیاں تجھ میں ہیں، میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تیرا نام پاک، بڑا بابرکت ہے، اور تیری شان بہت اعلیٰ ہے، اور تو ہی معبودِ برحق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔

یا یہ دعا پڑھ لے:

”اللَّهُمَّ! بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،

اللَّهُمَّ! نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ!

اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ“۔ (بخاری رقم 744؛ مسلم رقم 147-598)

ترجمہ اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ کر دے جتنا طویل

فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کر دیا ہے۔ اے اللہ! مجھے خطاؤں سے ایسا

پاک و صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔

اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی سے اور برف سے اور اُولے سے دھو ڈال۔

پھر ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ اور ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“
پڑھ کر سورت فاتحہ پڑھے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ○ اِیَّاكَ
نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِیْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ○

ترجمہ
تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم
فرمانے والا ہے، روزِ جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے
مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو
معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔

سورت فاتحہ کے بعد آہستہ سے ”آمین“ کہے، پھر آہستہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ پڑھ کر سورت
اخلاص یا کوئی اور سورت پڑھے۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ یَلِدْ وَّلَمْ یُوَلَّدْ ○ وَّلَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا
اَحَدٌ ○ (الاعلاص: ۱ تا ۴)

ترجمہ
کہو،! وہ اللہ ہے، یکتا۔ اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں۔ (اللہ
سب کے ساتھ ہے)۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ (نہ وہ کسی کا
باپ اور نہ کسی کا بیٹا)۔ اور کوئی اس کا ہمسر (کفو) نہیں ہے۔

پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، رکوع میں اپنے گھٹنے پکڑ لے، انگلیاں کھلی
رکھے، بازو پہلوؤں سے الگ رکھے، سر اور کمر بالکل برابر رکھے، بازوؤں میں خم نہ
ہو، پنڈلیاں سیدھی رہیں اور تین، پانچ یا سات مرتبہ ”سبحان ربی العظیم“ کہے،
پھر ”سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ (اللہ نے سنی اس بندہ کی جس نے اس کی حمد کی) کہتا ہوا
سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ (اے اللہ! ہمارے پروردگار! تیرے
ہی لیے ساری حمد و ستائش ہے) پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، سجدہ
میں جاتے وقت کمر بالکل سیدھی رکھے، گھٹنے زمین پر رکھنے سے پہلے کمر میں خم نہ آنے

پائے، پھر زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملا لے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی رکھے، سجدے کے وقت پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے اور پاؤں کھڑے رکھے اور خوب کھل کر سجدہ کرے تاکہ پیٹ رانوں سے اور بازو پہلوؤں سے جدا رہیں، دونوں بازو زمین سے اوپر رکھے۔ سجدہ میں کم سے کم تین دفعہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ جائے، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے، پھر بسم اللہ، الحمد للہ اور سورۃ پڑھ کر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پوری کرے۔ دوسرے سجدے کے بعد اپنا دایاں پیر کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں اپنے حال پر رہنے دے۔ پھر یہ تشہد پڑھے:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ترجمہ ادب و تعظیم اور اظہارِ نیاز کے سارے کلمے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں (اور میں ان سب کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہوں)۔ تم پر سلام ہو اے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے سب نیک بندوں پر۔ پس میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں (صرف وہی معبودِ برحق ہے)۔ اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اور جب أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر پہنچے تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھائے اور إِلَّا اللَّهُ کہتے وقت جھکا دے مگر حلقہ کو آخر نماز تک باقی رکھے۔ اگر چار رکعت پڑھنا ہو، تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے بلکہ فوراً

اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑا ہو، اور دو رکعتیں اور پڑھ لے۔ فرض نمازوں میں آخری دو رکعتوں میں الحمد لله کے ساتھ اور کوئی سورت نہ ملائے، جب چوتھی رکعت پر بیٹھے، تو پھر ”التحیات“ پڑھ کر یہ درود شریف پڑھے:

اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ۔ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ! بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ۔ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔

ترجمہ اے اللہ! اپنی خاص عنایت و رحمت فرما حضرت محمد ﷺ پر اور حضرت محمد ﷺ کے گھر والوں پر، جیسے کہ تو نے عنایت و رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر۔ توحید و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! اپنی خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد ﷺ پر اور حضرت محمد ﷺ کے گھر والوں پر، جیسے کہ تو نے عنایت و رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر۔ توحید و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔

پھر یہ دعا پڑھے:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝
(البقرة: ۲۰۱)

ترجمہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۙ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَايَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝ (ابراہیم: ۴۰، ۴۱)

ترجمہ اے میرے پروردگار! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی (ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں)۔ پروردگار! میری دعا قبول کر۔ پروردگار! مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجو جب کہ حساب قائم ہوگا۔

یا یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ! اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، فَاعْفِرْ
لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ، اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

ترجمہ اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کئے ہیں اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ بس مجھے اپنی جانب سے مغفرت عطا فرمائیے اور مجھ پر رحم کیجئے۔ یقیناً آپ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔

یا یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ! اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،
وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ. (مسلم رقم: 134-590)

ترجمہ اے اللہ! ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں دجال کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

یا کوئی اور دعا پڑھے جو قرآن مجید یا حدیث میں آئی ہو، پھر دائیں طرف سلام پھیر کر
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ كَیْ، پھر یہی الفاظ کہہ کر بائیں طرف سلام
پھیرے، سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے۔ اگر مقتدی ہے تو
دائیں بائیں دوسرے نمازیوں اور امام کی بھی نیت کرے اور امام دونوں طرف
مقتدیوں اور ملائکہ پر سلام کی نیت کرے۔

باب 1

رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَطْرَيقَةِ

نَمَازِ كِى بَارِى مِىلِ جَامِعِ اَحَادِىثِ

• بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِىْمِ •

1.1:- مَنْفَرَدِ كِى لِيْ نَمَازِ سَكْهَانِى وَالى قولى اَحَادِىثِ

1.1.1:- حَدِىثِ حَضْرَتِ ابُو هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حَدِىثِ نَمْبَرِ 1:- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بِنِ ابْنِ سَعِيدٍ،

عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَالنَّبِيُّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ

فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: "وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا اُحْسِنُ

غَيْرَ هَذَا، فَعَلِمْنِى، قَالَ: "اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ

قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ

افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا".

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. يَحْيَى: هُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَانَ، وَعُبَيْدُ اللّٰهِ: هُوَ ابْنُ

عَمْرِ الْعَمْرِي.

تحقیق

وأخرجه البخارى فى "صحيحه" (757) و (793) و (6252). وفى "القراءة خلف الإمام" (113). ومسلم (397) (45). وأبو داود (856). والترمذى (303). والنسائى 124/2. وأبو يعلى (6577) و (6622). وابن خزيمة (461) و (590). وأبو عوانة 104-103/2. والطحاوى 233/1. وابن حبان (1890). والبيهقى 88/2 و 117 و 372-371. وابن حزم فى "المحلّى" 256/3 من طريق يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

واقصر البخارى فى الموضع الثالث من "الصحيح" على قوله: "ثم ارفع حتى تطئن جالساً". واقصر فى "القراءة" على قوله: "إذا أقيمت الصلاة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع". ولم يسق البيهقى لفظه فى الموضع الأول والثانى. وسقط أبو سعيد المقبرى من رواية ابن حبان.

وأخرجه ابن أبى شيبة 288-287/1. والبخارى فى "صحيحه" (6251) و (6667). وفى "القراءة خلف الإمام" (114) و (115). ومسلم (397) (46). وأبو داود (856). وابن ماجه (1060) و (3695). والترمذى (2692). وابن خزيمة (454). وأبو عوانة 104-103/2 و 104. والبيهقى 126/2 و 372. والبعغوى (552) من طرق عن عبّيد الله بن عمر. عن سعيد المقبرى. عن أبى هريرة. دون ذكر أبى سعيد المقبرى. واقصر البخارى فى "القراءة خلف الإمام" على قوله: "كبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع". واقصر ابن ماجه فى الموضع الثانى على قول أبى هريرة: أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس فى ناحية المسجد. فصلى ثم جاء فسلم. فقال: "وعليك السلام". ولم يسق الترمذى لفظه.

قال الحافظ فى "الفتح" 277/2: قال الدارقطنى: خالف يحيى القطان أصحاب عبّيد الله كلهم فى هذا الإسناد. فإنهم لم يقولوا: عن أبىه. ويحيى حافظ. قال: فيشبهه أن يكون عبّيد الله حدث به على الوجهين وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه. ورجح الترمذى رواية يحيى.

ثم قال: لكل من الروايتين وجه مرجح. أما رواية يحيى. فللزيادة من الحافظ. وأما الرواية الأخرى فللكثرة ولأن سعيداً لم يوصف بتدليس. وقد ثبت سماعه من أبى هريرة. ومن ثم أخرج الشيخان الطريقتين.

قلنا: وأخرجه البيهقي 373/2-374 من طريق ابن وهب. عن عبد الله بن عمر

العمرى، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة. وعبد الله بن عمر ضعيف.

وفي الباب عن رفاعه بن رافع. سيأتي 340/4.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 15 ص 200 رقم 9635 المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک

جانب تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ”پھر جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی“۔ وہ

واپس گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوا، اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پھر فرمایا: ”تم

جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی“۔ اُس آدمی نے تیسری دفعہ عرض کیا:

حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے بتا دیجئے اور سکھا دیجئے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں؟

(جیسی مجھے پڑھنی آتی ہے وہ تو میں کئی دفعہ پڑھ چکا)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو پہلے خوب اچھی طرح

وضو کرو پھر قبلہ کی طرف اپنا رخ کرو۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرو۔ اس کے

بعد (جب قراءت کا موقع آجائے تو) جو قرآن تمہیں یاد ہو اور تمہیں پڑھنا آسان ہو

وہ پڑھو۔ پھر قراءت کے بعد رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں مطمئن اور ساکن ہو

جاؤ۔ پھر رکوع سے اٹھو، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک

کہ مطمئن اور ساکن ہو جاؤ، پھر اٹھو یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ پھر سجدہ کرو

یہاں تک کہ سجدہ میں مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے

ہو جاؤ۔ پھر اپنی پوری نماز میں یہی کرو“ (یعنی ہر رکعت میں قراءت، رکوع، سجود، قومہ

جلسہ اور تمام اعمال اچھی طرح اطمینان و سکون سے اور ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو۔“

1.1.2: حدیث حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 2:- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْنِي مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَزْكَعُ حَتَّى تَطْبِئَنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْبِئَنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْبِئَنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ." (ابوداؤد رقم ۸۵۷، ۸۶۱ واللفظ له؛ ترمذی رقم ۳۰۲؛ نسائی رقم ۱۰۵۳، ۱۱۳۶؛ ابن ماجہ رقم ۴۶۰)

ترجمہ

حضرت علی بن یحییٰ بن خلاصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا (حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ) سے روایت کی کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ پھر گزشتہ حدیث (ابوداؤد رقم ۸۵۶) کی طرح ذکر کیا۔ اس میں کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ وہ وضو کرے اور تمام اعضاء وضو کو پاک کرے۔ پھر تکبیر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور اس کی ثناء کرے اور قرآن میں سے جو چاہے پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہے پھر رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر اطمینان پکڑ لیں۔ پھر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ کہے۔ حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ پھر اللہ اکبر کہے۔ پھر سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ مطمئن ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہے اور اپنا سراٹھائے حتیٰ کہ سیدھا بیٹھ جائے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ مطمئن ہو جائیں۔ پھر اپنا سراٹھا کر اللہ اکبر کہے۔ پس جب اس نے یہ کیا تو اس

کی نماز تمام ہوگئی۔

حدیث نمبر 3:- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، - بِهَذِهِ الْقِصَّةِ -، قَالَ: إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ. وَقَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فاقْعُدْ عَلَى فَخْذِكَ الْيُسْرَى.

(ابوداؤد رقم ۸۵۹؛ سنن ابی داؤد بتحقیق البانی ص ۱۵۱ رقم ۸۵۹ مکتبۃ المعارف ریاض)

ترجمہ

حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے اسی قصہ کی روایت ہوئی ہے۔ جس میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ: ”جب تو کھڑا ہو، اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو تو تکبیر کہہ۔ پھر ام القرآن (سورت فاتحہ) کو پڑھ اور جو اللہ چاہے اس کی قراءت کر۔ اور جب تو رکوع کرے تو اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ اور اپنی پشت کو پھیلا دے۔ اور فرمایا: ”جب تو سجدہ کرے تو اپنے اعضاء کو اچھی طرح نکادے اور جب تو بیٹھے تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ۔“

حدیث نمبر 4:- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ الزُّرْقِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرْقِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». قَالَ: فَرَجَعْتُ فَصَلَّى كَنَحْوِ مِمَّا صَلَّيْتُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَيْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ». قَالَ: «إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ، فَإِذَا رَكَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ».

فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَلَقِّمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ إِلَى مَفَاصِلِهَا، وَإِذَا سَجَدْتَ فَتَكَيَّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَاجْلِسْ عَلَى فَخْذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ.

تحقيق

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على بن يحيى بن خلاد الزرقى، فقد رواه محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي - كما في هذه الرواية - عنه، عن رفاعة بن رافع الزرقى، ورواه على الشك كما في ابن حبان (1787) - فقال: عن علي بن يحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، به. فزاد في الإسناد: عن أبيه، يعني يحيى بن خلاد وقد تابعه بدون ذكر "عن أبيه" شريك بن أبي نمر كما عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2243)، وفي "شرح معاني الآثار" 232/1، وعبد الله ابن عون كما عند الطبراني في "الكبير" (4530)، فقالا: عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة، به.

وقد اضطرب فيه حماد بن سلمة: فرواه موسى بن إسماعيل فيما أخرجه أبو داود (857)، وحجاج بن منهال فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" (4526)، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه، لم يقل فيه: عن أبيه.

ورواه هدبة بن خالد فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الأحاديث والمثنوي" (1977)، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، عن علي بن يحيى بن خلاد، أراه عن أبيه، عن عمه أن رجلاً....

ورواه عفان بن مسلم فيما أخرجه الحاكم 242/1 عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه أن رجلاً، لم يذكر جده في الإسناد.

قال البخاري في "التاريخ الكبير" 320/3 في إسناد حماد: لم يقم.

وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي خاتم في "العلل" 82/1: وهم حماد.

وخالفهم محمد بن عجلان كما سيرد في الرواية (18997)، وداود بن قيس الفراء كما عند عبد الرزاق في "المصنف" (3739)، والبخاري في "القراءة خلف

الإمام (109) و (110) ، و"التاريخ الكبير" 320/3 ، والنسائي في "المجتبى" 60/3 ، وفي "الكبرى" (1237) ، والطبراني في "الكبير" (4520) ، والحاكم 243-242/1 ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 225/2 ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فيما أخرجه البخاري في "القراءة" (111) ، وفي "التاريخ الكبير" 321/3 ، وأبو داود (858) ، والنسائي في "المجتبى" 226-225/2 ، وفي "الكبرى" (722) ، وابن ماجه (460) ، والدارمي (1329) ، وابن الجارود في "المنتقى" (194) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 35/1 ، والطبراني في "الكبير" (4525) ، والدارقطني 96-95/1 ، والبيهقي في "السنن" 102/2 و 345 ، ومحمد بن إسحاق فيما أخرجه أبو داود (860) ، وابن خزيمة (597) و (638) ، والطبراني في "الكبير" (4528) ، والحاكم 243/1 ، والبيهقي في "السنن" 134-133/2 أربعتهم عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن عمه رفاعه، به. فزادوا في الإسناد: عن أبيه.

وذكر أبو حاتم فيما نقله ابنه في "العلل" 82/1 أنه الصحيح.

وأخرجه الطيالسي (1372) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 321/3 ، وأبو داود (861) ، والنسائي في "المجتبى" 20/2 ، وفي "الكبرى" (1631) ، وابن خزيمة (545) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1593) و (2244) و (6073) و (6074) ، والبيهقي في "السنن" 380/2 من طرق عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن جده، عن رفاعه، به. وخالفهم علي بن حجر فيما أخرجه الترمذي (302) ، فرواه عن إسماعيل ابن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده، عن رفاعه بن رافع، به. ولم يذكر: عن أبيه: قلنا: يعني علي بن يحيى بن خلاد، وعليه مدار الروايات السالفة.

وقد نص على أن رواية الترمذي ليس فيها: عن أبيه المزى في "تحفة الأشراف" 169/3 ، والمافظ في "الفتح" 277/2 ، وقد رواه كذلك البغوي في "شرح السنة" (553) من طريق الترمذي دون قوله: عن أبيه. وليست هي في نسخ الترمذي الخطية التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر، ومع ذلك وضعها في تحقيقه للكتاب بين حاصرتين مُعْظَمًا المافظ في "الفتح"، ومعتمداً على ما جاء عند الحاكم 43/1. ومن طريقه البيهقي في "السنن" 380/2. وقد رواه الحاكم من طريق الترمذي وفيه:

عن أبيه.

والذى يترجّح لنا أن قوله: عن أبيه عند الحاكم هو من تصرف الرواة أو النساخ أو وهم من الحاكم نفسه، إذ لا قول بعد قول المزى، وهو شيخ هذا الباب. ولو أن الشيخ أحمد شاكر اطلع على قول المزى لما تصرف في إسناد الترمذى بما تصرف به!

ويحى بن على بن يحيى مجهول، لم يرو عنه غير إسماعيل بن جعفر؛

ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ونقل الذهبى في "الميزان" عن ابن القطان قوله: لا يعرف إلا بهذا الخبر، روى عنه إسماعيل بن جعفر، وما علمت فيه ضعفاً، وتعقبه الذهبى بقوله: لكن فيه جهالة.

وتابع إسماعيل بن جعفر في قوله: عن أبيه سعيد بن أبي هلال فيما أخرجه الطبرانى (4527)، فقال: عن يحيى بن على بن يحيى، عن أبيه، عن جده، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (9635).

قال السندى: قوله: "أعد صلاتك": لم يعلمه أولاً، بل تركه حتى يطلب، لأن تعليبه بعد الطلب منه أنفع، وأدخل في المحافظة والاهتمام له.

"ثم اقرأ بأمر القرآن": هذا يدل على أن الرواية المشهورة، وهى "ثم اقرأ ما تيسر"

من غير ذكر أمر القرآن فيها اختصاراً من الرواة، وأنه لا بد من قراءة أمر القرآن.

و"مكين" من التمكين، أى: اجعل نفسك فى مكانها ساعة لركوعك، وهذا هو

الاطمئنان.

قلنا: الرواية المشهورة التى أشار إليها السندى، هى رواية أبى هريرة السالفة برقم (9635).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 31، ص 328، 329، رقم 18997. المؤلف: أبو عبد

الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق:

شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن

التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ.)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ

□

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: "وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَقَدْ أَجْهَدْتُ نَفْسِي، فَعَلَّمَنِي وَأَرِنِي". فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْبِئَنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْبِئَنَّ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْبِئَنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْبِئَنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْبِئَنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا أَمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَمَمْتَهَا، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ".

تحقيق

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، وقد توبع، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (18995)، وببقية رجاله ثقات. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (112)، وابن حبان (1787)، والطبراني في "الكبير" (4523) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "الأم" 88/1، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (4768) - عن إبراهيم بن محمد، والبخاري في "التاريخ الكبير" 321/3 عن عبد الله بن إدريس، و320/3، والطبراني (4521) من طريق سليمان بن بلال، والنسائي في "المجتبى" 60.59/3، والطبراني (4522) من طريق ليث بن سعد، والنسائي 193/2، والبيهقي في "السنن" 372/2-373 و373 من طريق بكر بن مضر، وابن أبي عاصم في "الاحاد والمثنى" (1976)، والطبراني (4524) من طريق أبي خالد الأحمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2245) من طريق حيوة، سبعة منهم عن محمد بن عجلان، به. وخالفهم النضر بن عبد الجبار، فرواه فيما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1594) و(6075) عن محمد بن عجلان، عن ابن لهيعة وليث، عن ابن

عجلان عن أخبره عن علي بن يحيى بن خلاد به. فذكر رجلا مبهماً بين ابن عجلان
وعلي بن يحيى.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (112) من طريق بكير بن عبد الله
الاشجعي عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعه، ولم يقل: عن أبيه.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 70/1-71 و91 (ترتيب السندی)، وفي "الأم" 98/1
عن إبراهيم بن محمد: وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، عن ابن عجلان بإسناد سابقه
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (4765) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمد
عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن جده رفاعه بن مالك، فذكره وقال: لم
يقم إسناد إبراهيم بن محمد.

قال السندی: قولاً: "يرمقه" أي: ينظر إليه.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 31 ص 333، 334 رقم 18997. المؤلف: أبو عبد
الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق:
شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن
التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ
حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے
ہوئے تھے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا تو اس نے نماز پڑھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (اعرابی) کو
(نماز کی تعلیم دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”جب تو اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو، (تو قبلہ
کی طرف رخ کر کے) تکبیر (تحریمہ) کہہ، پھر قرآن پڑھ اگر تیرے پاس قرآن
ہے۔ اور اگر تجھے قرآن یاد نہیں ہے۔ تو پھر الحمد لله، الله اكبر اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
کہہ لے۔ پھر تو رکوع کر یہاں تک کہ رکوع میں مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ پھر رکوع
سے اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ مطمئن اور
ساکن ہو جاؤ۔ پھر اٹھو یہاں تک کہ مطمئن اور ساکن ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر سجدہ کرو یہاں
تک کہ سجدہ میں مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ پھر اٹھو یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹھ

جاؤ۔ جب تو نے ایسا کر لیا تو یقیناً تو نے اپنی نماز کو پورا کر لیا۔ اور جو تو نے اس میں کمی کی، تو یقیناً تو نے اپنی نماز میں کمی کر لی۔ (یعنی ہر رکعت میں قراءت، رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اور تمام اعمال اچھی طرح اطمینان و سکون سے اور ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو)۔

حدیث نمبر 5:- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّشَادٍ الْعَدْلِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حُجَّاجُ

بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". وَذَكَرَ ذَلِكَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَقَالَ الرَّجُلُ: "مَا أُدْرِي مَا عِبَتَ عَلِيٌّ مِنْ صَلَاتِي". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ أَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُحْمَدُ اللَّهَ وَيُجِدُّهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَدِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْكَعُ، وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يَطْبِئَنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَوِي ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَاخِذَهُ، ثُمَّ يُقِيمُ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيَمْكِنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَطْبِئَنَّ مَفَاصِلُهُ، وَيَسْتَوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ". فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ".

ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین بعد ان اقامہ ہمام بن یحییٰ اسنادہ فیانہ حافظ ثقہ، وکل من افسد قوله فالقول قول ہمام ولم یختر جأہ بهذا السیاقہ، انما اتفقا فیہ علی عبید اللہ بن عمر، عن سعید المقری، عن ابی ہریرہ وقد روى محمد بن اسماعیل هذا الحدیث فی التاریخ الکبیر عن حجاج بن منہال وحکمہ لہ بحفظہ.

ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُقْبَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

(المستدرک علی الصحیحین ج ۱ ص ۳۶۸ رقم 881 المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى ۳۰۵هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۱ھ)

ترجمہ

حضرت علی بن یحییٰ بن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے اور وہ اپنے چچا (حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی۔ پھر جب اس نے اپنی نماز مکمل کر لی، تو (پاس آکر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کو سلام کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم پر بھی سلام ہو۔ تم جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی۔“ (اس شخص نے دو یا تین مرتبہ ایسا کیا اور) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو یا تین مرتبہ ایسا ہی فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا: میں اس سے بہتر (نماز پڑھنا) نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نماز کا کوئی نقص بھی نہیں بتایا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کامل وضو کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئے، اپنے سر کا مسح کرے اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے۔ پھر تکبیر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی بزرگی بیان کرے اور قرآن میں سے جو اللہ اس کو توفیق دے، پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہے، پھر رکوع کرے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر اطمینان پکڑ لیں اور (کمر اور سر کو) برابر کر لے۔ پھر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے۔ اور سیدھا برابر کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آجائے۔ پھر اپنی پشت کو بالکل سیدھا کر لے۔ پھر اللہ اکبر کہے۔ پھر سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کو زمین پر خوب اطمینان سے رکھ دے یہاں تک کہ اس کے جوڑ مطمئن ہو جائیں اور (ہر عضو اپنی جگہ پر) برابر ہو جائے۔ پھر اللہ اکبر کہے اور اپنا سر اٹھائے یہاں تک کہ سیدھا اپنی جگہ بیٹھ جائے۔ اور اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لے۔“ پھر اسی طرح

آپ ﷺ نے نماز کی صفت بیان کی یہاں تک کہ آپ ﷺ اس بیان سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ (بیان کردہ تمام احکام پر پورا) عمل نہ کر لے۔“

1.1.3:- حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

حدیث نمبر 6:- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَلِّ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ - يَعْنِي إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ - . وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: "إِذَا رَكَعْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْبِئَنَّ - وَقَالَ الْهَاشِمِيُّ مَرَّةً: حَتَّى تَطْبِئَنَّا - وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنِ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ".

تحقیق

إسناده حسن. موسى بن عقبة ممن روى عن صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات، ونقل الحافظ ابن حجر فى "التلخيص" 94/1 عن البخارى تحسین هذا الحديث.

وأخرجه ابن ماجه (447)، والترمذى (39) عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى، والمحاكم 182/1-183 من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، كلاهما عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وقال الترمذى: حسن غريب. والحديث فى هذه المصادر مختصر ليس فيه ذكر الاطمئنان فى الركوع والسجود.

ولتخليل الأصابع شاهد عن لقيط بن صبرة سيأتى فى "المسند" 33/4 و211، وصححه ابن حبان (1054).

وآخر عن المستورد بن شداد وسيأتى فى "المسند" أيضاً 229/4. ولتتمته شاهد عن سعد بن أبي وقاص عند البخارى (790)، ومسلم (535)، وانظر ما تقدم برقم (1570).

وآخر من حديث المسيء صلواته عن أبي هريرة وعن رفاعة بن رافع الزرقى سياتى
437/2 و340/4.

وثالث من حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود (734)، والترمذى (270).
قوله: "حتى تطمئننا"، قال السندي: أى الكفان، و"حجم الأرض"، قال: بفتح حاء
مهمله وسكون جيم، فى "القاموس": الحجم من الشيء: ملمسه الناقى تحت
يدك.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٣ ص ٣٦٥ رقم 2604. المؤلف: أبو عبد الله أحمد
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى رحمته (المتوفى ٢٤١هـ). المحقق: شعيب
الأنثووط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ١٤٢١هـ)

قلت: ورجاله موثقون إلا أن صالحا هذا وهو ابن نبهان كان اختلط،
لكنهم قد ذكروا أن ابن أبي ذئب، وغيره من القدماء قد روى عنه
قبل الاختلاط، وموسى أقدم منه كما سبق تحقيقه تحت الحديث
(1306) وذكرت هناك لطفه الأول شاهدا.

ولسائره شاهد آخر من حديث رفاعة بن رافع عند أصحاب السنن
وغيرهم، وهو مخرج فى "صحيح أبى داود".

(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج ٣ ص ٣٣٥، ٣٣٦ رقم
1349. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاشى بن آدم،
الأشقودرى الألبانى رحمته (المتوفى: ١٤٢٠هـ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع، الرياض. الطبعة: الأولى، (المكتبة المعارف) ١٤١٥هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے نماز کے احکام کے متعلق سوال کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا:
”اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کر“۔ یعنی کامل وضو کرنا۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا: ”جب تو رکوع کرے، تو اپنی دونوں ہتھیلیاں
اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھو، یہاں تک کہ رکوع میں مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ اور جب

توسجدہ کرے تو اپنی پیشانی کو زمین پر خوب جمادے یہاں تک کہ تو زمین کے حجم کو پالے۔

1.1.4:- حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

حدیث نمبر 7:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَافْرِجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَضْوٍ إِلَى مِفْصَلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنِ جَبِينَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ."

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَالْآخَرُ مِنْ ثَقِيفٍ، فَسَبَقَهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّقِيفِيِّ: "يَا أَخَا ثَقِيفٍ! سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ". فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: "أَنَا أُبَدِّئُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!". فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَخَا ثَقِيفٍ! سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنَا أَخْبَرْتُكَ بِمَا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ". قَالَ: "فَذَاكَ أَجْجِبُ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ". قَالَ: "فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ صَلَاتِكَ، وَعَنْ رُكُوعِكَ، وَعَنْ سُجُودِكَ، وَعَنْ صِيَامِكَ، وَتَقُولُ مَاذَا لِي فِيهِ؟". قَالَ: "إِىِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ". قَالَ: "فَصَلِّ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ وَنَمْ وَسَطَهُ". قَالَ: "فَإِنْ صَلَّيْتَ وَسَطَهُ فَأَنْتَ إِذَا قَالَ فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَكَعْتَ، فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَافْرِجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَضْوٍ إِلَى مِفْصَلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنِ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ". الحديث

(المصنف، ج ۲ ص ۱۵۱ رقم 2859؛ ج ۵ ص ۱۳۱ رقم 8830. المؤلف: أبو بكر عبد

الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعالي رحمه الله (المتوفى: 211هـ). المحقق:

حبیب الرحمن الأعظمی رحمۃ اللہ علیہ الناشر: المجلس العلمی - الہند یطلب من:
المکتب الإسلامی - بیروت. الطبعة: الثانية. 1403)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا: ”جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو۔ پس (جب) تو رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی پیدا کر۔ پھر اپنے سر کو رکوع سے اٹھالے یہاں تک کہ ہر عضو اپنے جوڑ پر لوٹ جائے۔ اور جب تو سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کو زمین پر خوب جمادے اور (مرغ جیسی) ٹھونگ نہ مار (یعنی جلد بازی سے کام نہ لے)۔“

حدیث نمبر 8:- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُصْعَبِ السِّنْجِيّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ

بْنِ الْهَيَّاجِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصْرِفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ. قَالَ: اجْلِسْ. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا، فَأَبْدَأُ بِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرُكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَلْ أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَخْطَأْتُ مَعًا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا. قَالَ: فَإِذَا رَكَعْتَ، فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ أَمْكُ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَضْوٍ مَأْخُذَهُ وَإِذَا سَجَدْتَ، فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا، وَصَلِّ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَإِنِ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا. قَالَ: فَأَنْتِ إِذَا مُصَلِّتٌ. الْحَدِيثُ.

اتعلیق الألبانی: حسن لغیره - «التعلیق الرغیب» (2/129-130).

اتعلیق شعیب الأرئوطی

إسناده ضعيف، يحيى بن عبد الرحمن الأرحبى، قال أبو حاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكاراً، يروى عن عبدة بن الأسود أحاديث غرائب، وقال الدارقطنى: صالح يعتبر به، وذكره المؤلف في «الثقات». وقال: ربما خالف، وعبدة بن الأسود: ذكره المؤلف أيضاً في الثقات 437/8. وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته، وكان فوقه ودونه ثقات، والقاسم بن الوليد: وثقه ابن معين، والعجلى، وابن سعد، وذكره المؤلف في الثقات 338/7. وقال: يخفى ويخالف، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يغرب، وسنان بن الحارث: لم يوثقه غير المؤلف.

(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ص 206، 207 رقم 1887. المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، المتوفى: 354 هـ) المحقق: شعيب الأرئوطى، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، 1414-1993

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک ثقفی آدمی رضی اللہ عنہ آیا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ سے پہلے درخواست کی ہے“۔ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایشا کرتے ہوئے عرض کیا: ”یہ مسافر آدمی ہے۔ اور مسافر کا حق ہے۔ لہذا اس کا جواب پہلے ارشاد فرمائیے“۔ جناب رسول اللہ ﷺ ثقفی آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور بطور معجزہ فرمایا: ”اگر آپ چاہیں تو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں اس کا جواب بتا دیتا ہوں۔ اور اگر آپ چاہیں تو سوال کریں۔ پھر اس کے بعد جواب دیتا ہوں“۔ ثقفی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب ہی ارشاد فرما دیجئے“۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آپ رکوع، سجود، نماز اور روزہ کے متعلق پوچھنے آئے ہیں“۔ ثقفی رضی اللہ عنہ

نے عرض کیا: ”اس ذات کی قسم! جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو کچھ میرے دل میں تھا، اس سے آپ ذرہ بھی نہیں چوکیے۔“ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پس جب تو رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی پیدا کر۔ اتنی دیر ٹھہرا رہ کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آجائے۔“

اور جب تو سجدہ کرے، تو اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا دے، اور کوئے کی ٹھونگ نہ مار۔ دن کے اول اور آخری حصہ میں نماز پڑھا کر۔ تو اس نے عرض کیا: ”اے اللہ کے نبی! پھر اگر میں ان دو اوقات کے درمیانی حصہ میں بھی نماز پڑھا کروں؟“۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر تو ان اوقات میں نماز پڑھنے والا بن۔“

حدیث نمبر 9:- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ

مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَالْآخَرُ مِنْ ثَقِيفٍ فَسَبَقَهُ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّقِيفِيِّ: يَا أَخَا ثَقِيفٍ! سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَبَدُهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!.. فَقَالَ لَهُ: يَا أَخَا ثَقِيفٍ! سَلْ عَن حَاجَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُخْبِرَكَ عَمَّا جِئْتَ بِهِ تَسْأَلُ عَنْهُ. قَالَ: فَذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ. قَالَ: فَإِنَّكَ تَسْأَلُنِي عَن صَلَاتِكَ، وَعَن رُكُوعِكَ، وَعَن سُجُودِكَ، وَعَن صِيَامِكَ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟.. قَالَ: «إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ!».. قَالَ: «فَصَلِّ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ، وَنَمْ وَسَطَهُ.» قَالَ: «فَإِنْ صَلَّيْتُ وَسَطَهُ.» قَالَ: «فَأَنْتَ إِذَا..» قَالَ: «فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَكْعَتٍ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَضْوٍ إِلَى مَفْصِلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمِّكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَنْقُرْ، وَصِمِ اللَّيَالِيَ الْبَيْضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.» الحديث

(المعجم الكبير، ج ۱۲ ص ۲۲۵ رقم 13566. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن

مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة ٥٢٠هـ) المحقق: حمدى بن

عبد المجيد السلفى دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

فَالْحَدِيثُ مَوْجُودٌ بِعَيْنِهِ فِي "المعجم الكبير" للطبراني عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ
عمر مطولا وَفِيهِ: "فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَكْعَتِ فَرَكْعَتِ فَرَكْعَتِ فَرَكْعَتِ فَرَكْعَتِ عَلَى
رَكْبَتَيْكَ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَضْوٍ إِلَى
مَفْصَلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنِ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ. ثُمَّ ذَكَرَ
بَاقِيَهُ: بِطَوِيلِهِ. إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ صَدُوقٌ اِحْتَجَّ بِهِ أَبُو عَوَانَةَ فِي "صَحِيحِهِ"
وَإِنْ اسْتَصَغَرَ فِي شَيْخِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْإِمَامَ وَلَا عِبْرَةَ يَمُنْ تَكَلَّمَ فِيهِ،
وَمُجَاهِدٌ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عمر، قَالَ الْبَرْدِيُّ (الَّذِي) صَحَّحَ لِمُجَاهِدٍ مِنَ
الصَّحَابَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عمر وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ.

(البدد المنير في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ج ٣ ص ٦٣٣.

المؤلف: ابن الملحق سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي

المصري رحمته (المتوفى: 804هـ). المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان

وياسر بن كمال. الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية.

الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م)

ترجمہ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔

ان میں سے ایک انصاری رضی اللہ عنہ تھا جب کہ دوسرا قبیلہ ثقیف میں سے تھا۔ تو انصاری

رضی اللہ عنہ نے سوال کرنے میں سبقت کر لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثقفی رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”اے ثقفی بھائی! انصاری رضی اللہ عنہ نے سوال میں تجھ سے سبقت کر لی ہے۔“ تو اس وقت

انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔“ جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ثقفی بھائی! اپنی حاجت کے بارے پوچھ لے۔“

اور اگر تو چاہے تو میں تجھے بتا دوں کہ تو کس چیز کے بارے میں سوال کرنے آیا

ہے؟“ وہ (صحابی رضی اللہ عنہ) کہنے لگے: ”میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”تو اپنی نماز، رکوع، سجدے اور روزوں کے متعلق سوال کرنے آیا ہے۔ پھر تو رات کے پہلے اور آخری حصہ میں نماز پڑھا کر۔ اور رات کے درمیانی حصہ میں سو جایا کر۔“ اس نے عرض کیا: ”پھر اگر میں درمیانی رات میں بھی نماز پڑھ لوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو۔ پس جب تو رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی پیدا کر۔ پھر اپنے سر کو رکوع سے اٹھالے یہاں تک کہ ہر عضو اپنے جوڑ پر لوٹ جائے۔ اور جب تو سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کو زمین پر خوب جمادے اور (مرغ جیسی) ٹھونگ نہ مار۔ اور ایام بیض کے روزے رکھ یعنی ہر مہینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھا کر۔“

حدیث نمبر 10:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نَا عُمَيْرُ بْنُ عَمْرَانَ،

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ، وَلْيَسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِهَا الْقِبْلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَمَامَهُ.

(المعجم الأوسط، ج ۸ ص ۱۱ رقم 7801. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (التوفى ۳۶۰هـ). المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. الناشر: دار الحرمين، القاهرة)

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: عُمَيْرُ بْنُ عَمْرَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. □

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۱۰۲ رقم 2589. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (التوفى ۸۰۷هـ). المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۴۱۳هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اسے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے (یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرے) اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ (کی رحمت) اس کے سامنے ہے۔“

1.1.5: - حديث حضرت ابو سعيد خدری رضی اللہ عنہ

حديث نمبر 11:- نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ".

التعليق - قال الأعظمي: إسناده صحيح

(صحيح ابن خزيمة، ج 1 ص 58، رقم 1577. المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري رحمته الله (المتوفى: 311هـ). المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْظَلِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرَجْ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ سُنَّةٌ عَزِيزَةٌ وَهُوَ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، وَلَا يُكَبِّرَ مَعَهُ.

التعليق - من تلخيص الذهبي - على شرطها

(المستدرک علی الصحیحین، ج 1 ص 335، رقم 779. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهباني النيسابوري المعروف بابن البيع رحمته الله (المتوفى: 405هـ). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، 1391هـ)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَعَدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَأَقِيمُوهَا وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ

وَرَاءَ ظَهْرِي، فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: اللهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَةَ طَرَفًا مِنْهُ.

رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَفِيهِ كَلَامٌ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا بِتَمَامِهِ
وَأَبُو يَعْنَى بِإِخْتِصَارٍ وَقَدْ سَبَقَ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۱۳۳، ۱۳۴ رقم 2804. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى ۸۰۷هـ). المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۴۱۳هـ)

ترجمہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ (ایک لمبی حدیث میں) فرماتے ہیں کہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنی صفوں کو اعتدال کے ساتھ سیدھا کرو اور درمیانی خلا کو پورا کرو۔ اس لیے کہ میں اپنی پچھلی جانب بھی دیکھتا ہوں۔ پھر جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اور جب وہ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے۔ تو تم اللہم! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہو۔ الحدیث

1.1.6:- حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 12:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّاقِطِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَمَانَ سِنِينَ، فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ رِجَالَ الْأَنْصَارِ، وَنِسَاءَهُمْ قَدْ اتَّخَفُوكَ غَيْرِي، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ مَا أُحْفِكُ بِهِ إِلَّا بُنَى هَذَا، فَاقْبَلْهُ مِنِّي يَخْدِمُكَ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَشْرَ سِنِينَ، فَلَمْ يَضْرِبْنِي ضَرْبَةً، وَلَمْ يَسُبَّنِي، وَلَمْ يَعْبَسْ فِي وَجْهِِي.

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَوْصَانِي أَنْ قَالَ: يَا بُنَيَّ! اكْتُمُ سِرِّي تَكُنْ مُؤْمِنًا فَمَا
أَخْبَرْتُ بِسِرِّهِ أَحَدًا قَطُّ. وَإِنَّ أُمَّي وَأَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
سَأَلُونِي فَمَا أَخْبَرْتُهُنَّ بِسِرِّهِ، وَلَا أَخْبِرُ سِرَّهُ أَحَدًا أَبَدًا.

ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ! أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَزِدُّ فِي عَمْرِكَ، وَيُجِبُّكَ حَافِظَكَ.

ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَّا تَبَيْتَ إِلَّا عَلَى وَضُوءٍ فافْعَلْ، فَإِنَّهُ مَنْ
آتَاهُ الْمَوْتُ، وَهُوَ عَلَى وَضُوءٍ أُعْطِيَ الشَّهَادَةَ.

ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَّا تَزَالَ تُصَلِّيْ فافْعَلْ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا
تَزَالَ تُصَلِّيْ عَلَيْكَ مَا دُمْتَ تُصَلِّي.

ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ
هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ.

ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ! إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ
أَصَابِعِكَ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ
فَمَكِّنْ لِكُلِّ عَضْوٍ مَوْضِعَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ
صَلَاتَهُ.

ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ! إِذَا سَجَدْتَ فَلَا تَنْقُرْ كَمَا يَنْقُرُ الدِّيكُ، وَلَا تُفْعِجْ كَمَا
يُفْعِجُ الْكَلْبُ، وَلَا تَفْرِشْ ذِرَاعَيْكَ الْأَرْضَ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَافْرِشْ
ظَهَرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ، وَضَعْ إِلَيْتَيْكَ عَلَى عَقْبَيْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْسَرُ
عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حِسَابِكَ.

ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ! بَالِغٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، تَخْرُجُ مِنْ مُغْتَسَلِكَ
لَيْسَ عَلَيْكَ ذَنْبٌ، وَلَا خَطِيئَةٌ. قُلْتُ: يَا أَبِي، وَأُمِّي، مَا الْمُبَالَغَةُ فِي الْغُسْلِ؟
قَالَ: تُبَلُّ أَسْوَلَ الشَّعْرِ، وَتُنَقِّي الْبَشْرَةَ.

ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدِرْتَ أَنْ تَجْعَلَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ شَيْئًا
فافْعَلْ، فَإِنَّهُ يَكْثُرُ خَيْرُ بَيْتِكَ.

ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ.

وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ .

١١ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنْتَى! إِذَا خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ فَلَا يَقَعَنَّ بَصْرَكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا سَلَّمْتَ عَلَيْهِ، تَرْجِعُ وَقَدْ زِيدَ فِي حَسَنَاتِكَ .

١٢ ثُمَّ قَالَ: يَا بُنْتَى! إِنْ قَدِرْتَ أَنْ تُمِيسِي، وَتُصْبِحَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلِي .

١٣ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَنْسُ! إِذَا خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ فَلَا يَقَعَنَّ بَصْرَكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا ظَنَنْتَ أَنَّ لَهُ الْفَضْلَ عَلَيْكَ وَفَعَلِي .

١٤ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنْتَى! إِنْ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ .

١٥ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنْتَى! إِنْ حَفِظْتَ وَصِيَّتِي فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ .

لَمْ يَزَوْ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا التَّمَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَلَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ بْنُ حَاتِمٍ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَتَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عَبَّادِ الْمِنْقَرِيِّ .

(المعجم الأوسط، ج ٦، ص ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، رقم 5991 . المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي . أبو القاسم الطبراني رحمته الله (المتوفى ٣٦٠هـ) . المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . الناشر: دار الحرمين، القاهرة)

(الروض الداني (المعجم الصغير) ج ٢، ص ١٠٠، ١٠١، رقم 856 . المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته الله (المتوفى ٣٦٠هـ) . المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمير، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، عمان . الطبعة: الأولى، ١٩٨٥هـ)

(فوائد ابن أخي ميمي الدقاق، ص ١٣٨، ١٣٩، رقم 264 . المؤلف: أبو الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون البغدادي الدقاق المعروف بابن أخي ميمي رحمته الله (المتوفى: 390هـ) . تحقيق: نبيل سعد الدين جرار . الناشر: دار أضواء

السلف، الرياض ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية (5)، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م.

(مسند أبي يعلى، ج ٦، ص ٣٠٨٤٣٠٦، رقم 3624، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي رحمته (المتوفى ٣٠٤ هـ).
المحقق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٢ هـ)

(تاريخ دمشق، ج ٩، ص ٣٣٢، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر رحمته (المتوفى ٥٤٤ هـ)، المحقق: عمرو بن غرامة العمري، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر ١٤١٥ هـ)

قُلْتُ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ.
فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنِيعٍ: ثنا يُوَيْدٌ، ابْنُ الْعَلَاءِ أَبُو مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، سَمِعْتُ
أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ... فَذَكَرَهُ، وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَوَاعِظِ - إِنْ شَاءَ
اللَّهُ.

روى التِّرْمِذِيُّ قِطْعَةً مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ، وَأُخْرَى فِي الْعِلْمِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ
زَيْدٍ.

(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج ١، ص ٣٢٢، ٣٢٣، رقم 540 / 1،
540 / 2، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن
سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكِنَانِي الشافعي رحمته (المتوفى: ٥٨٢ هـ).
تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم المحقق: دار المشكاة
للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: دار الوطن للنشر،
الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ)

وله شاهد أيضاً عن أنس مرفوعاً بلفظ: "يا بني! إذا ركعت؛ فضع
كفك على ركبتك، وافرج بين أصابعك، وارفع يديك عن جنبك
... الحديث.

وهو قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في "معجمه الصغير" (ص

(177)

و كذا أبو يعلى الموصلى - كما في "اللاآلى المصنوعة" (203/2). و "نصب
الراية" (372/1-373) - من طريق على بن زيد بن جُدعان عن سعيد
بن المسيب عنه.

وهذا سند حسن. لا بأس به فى المتابعات.

(أصل صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم، ج ٢ ص ٦٣٣، ٦٣٢. المؤلف: محمد
ناصر الدين الألبانى رَحْمَةً (المتوفى: 1420 هـ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع - الرياض. الطبعة: الأولى 1427 هـ - 2006 م)

محقق (محمود محمد خليل) اس طویل حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ترمذی سے اس
روایت کو مختلف مقامات سے بیان کرتے ہیں:

رواية التِّرْمِذِي (589) مختصرة على: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "يَا بُنَيَّ! إِتَاكَ وَالِإِتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْإِتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ
هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فِى التَّطَوُّعِ، لَا فِى الْفَرِيضَةِ".

رواية التِّرْمِذِي (2678) مختصرة على: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "يَا بُنَيَّ! إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ
فَأَفْعَلْ". ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا بُنَيَّ! وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ
أَحْبَبَنِي، وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِي فِى الْجَنَّةِ".
وَفِى الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ.

رواية التِّرْمِذِي (2698) مختصرة على: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى
أَهْلِ بَيْتِكَ".

أخرجه التِّرْمِذِي (589 و 2678 و 2698) قال: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ،
مُسْلِمٌ بن حَاتِمٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، عن
أبيه. و (أبو يَعْلَى) 3624 قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابن أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن

الحسن بن أبي يزيد الصُّدَائِي، حَدَّثَنَا عَبَّادُ الْمِنْقَرِي. كلاهما (عَبْدُ اللَّهِ وَعَبَّاد) عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَذَكَرَهُ.

قال أبو عيسى التِّرْمِذِيُّ (2678): هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ من هذا الوجه، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثِقَةٌ، وَأَبُوهُ ثِقَةٌ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ صَدُوقٌ، إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُ الشَّيْءَ الَّذِي يُوقِفُهُ غَيْرُهُ. قال: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ يَقُولُ: قال أبو الوليد: قال شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَكَانَ رَفِيعًا.

ولا نعرف لسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَنَسٍ، رِوَايَةً إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ. وقد روى عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ، هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

قال التِّرْمِذِيُّ: وَذَا كَرُتُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (يَعْنِي الْبُخَارِيَّ) فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يَعْرِفْ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَنَسٍ، هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَا غَيْرَهُ.

ومات أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، وَمَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بَعْدَهُ بِسِنَتَيْنِ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ.

وقال أيضًا (589 و 2698): هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

(المسند الجامع، ج ٢٢ ص ٢٠٦ رقم 1068 حقه ورتبه وضبط نصه: محمود محمد خليل، الناشر: دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات، الكويت، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت میری عمر آٹھ سال تھی۔ میری ماں مجھے حضور اکرم ﷺ کے پاس لے گئیں۔ تو میری ماں نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! انصار کے تمام مردوں اور عورتوں نے میرے علاوہ آپ کی خدمت میں تحائف پیش کیے ہیں۔“

میرے پاس اور تو کوئی تحفہ نہیں ہے مگر میرا یہ بچہ۔ پس آپ ﷺ اسی کو قبول فرما لیں۔ یہ آپ ﷺ کی خدمت کرے گا جیسے آپ ﷺ چاہیں گے۔
تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے دس سال حضور اکرم ﷺ کی خدمت کی۔ تو آپ ﷺ نے نہ تو مجھے کبھی مارا، نہ کبھی گالی دی اور نہ ہی کبھی تیوری چڑھائی۔

۱ جناب رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! اپنے راز کی باتوں کو چھپائے رکھنا“۔ پھر کبھی بھی میں نے آپ ﷺ کے راز کی بات کو کسی سے بھی بیان نہیں کیا۔ اگرچہ میری امی اور ازواج مطہرات مجھ سے پوچھتی بھی رہیں مگر میں نے آپ ﷺ کی راز کی بات کو ان کو ہرگز نہیں بتایا۔ اور نہ ہی آپ ﷺ کے راز کی بات کو کبھی کسی کو بھی بتایا ہے۔

۲ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! وضو کو کامل طریقے سے کرنا، یہ تیری عمر کو زیادہ کر دے گا اور تیرے دونوں محافظ فرشتے تجھ سے محبت کریں گے۔“

۳ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ تو رات کو سونے کے وقت وضو کی حالت میں ہو تو ضرور ایسا کر۔ اس لیے کہ جس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ وضو کی حالت میں ہو تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔“
۴ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ تو نماز کی ہی حالت میں رہے تو پھر ایسا ضرور کر، اس لیے کہ فرشتے تجھ پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک تو نماز کی حالت میں رہتا ہے۔“

۵ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھ۔ اس لیے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت ہے۔ اگر ایسا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نقلی نماز میں تو ہے مگر فرض نماز میں نہیں۔“

۶ ”اے میرے پیارے بیٹے! جب تم رکوع میں جاؤ تو دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لو، اور انگلیاں کشادہ رکھو اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھو۔ پھر جب تم رکوع سے

سراٹھا لوتو پھر ہر عضو کو اس کی جگہ پر ٹھہرا لے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا۔“

پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! جب تو سجدہ کرے تو تو کو لے جیسی ٹھونگ نہ مارنا۔ اور نماز میں دونوں پاؤں پنجوں کے بل کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر نہ بیٹھنا جیسا کہ کتے ایڑیوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ اور تم اپنی کلائیوں کو زمین پر اس طرح نہ بچھاؤ جیسے درندے بچھا دیتے ہیں۔ اور اپنے قدموں کی پشت کو زمین پر بچھا دے۔ اپنی سرینوں کو اپنی ایڑیوں پر رکھ دے۔ بیشک یہ بات قیامت کے دن تیرے حساب کو زیادہ آسان بنا دے گی۔“

پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! غسل جنابت میں مبالغہ کیا کر، تیرے اس طرح غسل کرنے سے تمام گناہ دھل جائیں گے۔ تیرے اوپر کوئی گناہ رہے گا، نہ کوئی خطا۔“ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! غسل میں مبالغہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بالوں کی جڑوں کو بھی بھگونانا اور جلد (کھال) کو بھی اچھی طرح صاف کرنا۔“

پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! اگر تو اس بات کی طاقت رکھے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی ادا کرے، تو یہ تیرے گھر میں خیر و برکت کو زیادہ کرے گا۔“

پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! جب تو اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو ان کو سلام کرنا۔ یہ تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت کا سبب بنے گا۔“

پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! جب تو اپنے گھر سے باہر نکلے تو مسلمانوں میں سے جس کسی پر بھی تیری نظر پڑے، تو اس کو السلام علیکم ضرور کہنا۔ تو گھر اس حال میں لوٹے گا کہ تیری حسنت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔“

پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! اگر تو اس کی طاقت رکھے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت بھی کسی کے بارے میں بھی دل میں کینہ نہ ہو تو

ایسا ضرور کرنا۔

۱۳ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے انس! جب تو اپنے گھر والوں سے باہر کی طرف نکلے تو پھر جس مسلمان پر بھی تیری نظر پڑے، تو یہ گمان کر کہ اس کو تیرے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تم اس بات کو ضرور حاصل کرنا۔“

۱۴ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! یہ میری سنت میں سے ہے۔ پھر جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے میرے ساتھ محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“

۱۵ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! اگر تو نے میری اس وصیت کی حفاظت فرمائی، تو پھر کوئی چیز بھی تیرے نزدیک موت سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوگی۔“

حدیث نمبر 13:- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ سَجَادَةَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ

الْوَلِيدِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنَيَّ! إِذَا تَقَدَّمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ، وَكَبِّرْ، وَاقْرَأْ مَا بَدَأَ لَكَ. فَإِذَا رَكَعْتَ فَضِعْ كَفِّكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّقْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَسَبِّحْ. فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَلَقِّمْ صُلْبَكَ حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَضْوٍ مَكَانَهُ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمِّكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَسَبِّحْ، وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَلَقِّمْ رَأْسَكَ. فَإِذَا قَعَدْتَ فَضِعْ عَقْبَيْكَ تَحْتَ أَلْيَتِكَ، وَلَقِّمْ صُلْبَكَ، فَإِنَّهَا مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ اتَّبَعَ سُنَّتِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ هُوَ مِنِّي فَهُوَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَعَامَّةُ مَا يَرَوِي كَثِيرُ النَّاجِي هَذَا. عَنْ أَنَسٍ قَدْ ذَكَرْتَهُ وَقَدْ رَوَى كَثِيرُ النَّاجِي، عَنْ أَنَسٍ شَيْئًا يَسِيرًا وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِهِ مَا لَيْسَ بِالْمَحْفُوظِ.

(الكامل في ضعفاء الرجال، ج ۷ ص ۲۰۲ رقم الترجمة 1601. المؤلف: أبو أحمد بن عدي

الجزباني عم (المتوفى ۲۶۵هـ). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، على محمد معوض.

شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة. الناشر: الكتب العلمية. بيروت. لبنان.
الطبعة: الأولى ١٤١٨هـ

ترجمہ

حضرت کثیر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! جب تو نماز کے لیے ارادہ کرے، تو تو قبلہ رو ہو جا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا اور تکبیر تحریمہ کہہ، قراءت کر جہاں سے کرنا چاہے۔ پھر جب تو رکوع میں جائے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ، اپنی انگلیاں کھلی رکھ اور (رکوع کی) تسبیح پڑھ۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھائے تو اپنی کمر سیدھی کر لے یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر جب تو سجدہ میں جائے، تو اپنی پیشانی زمین پر رکھ اور (سجدہ کی) تسبیح پڑھ۔ پھر جب تو سجدہ سے سر اٹھائے، تو اپنا سر سیدھا کر لے۔ پھر جب تو قعدہ کرے، تو اپنی ایڑیوں کو سرین کے نیچے کر لے اور کمر کو سیدھا کر لے۔ یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کی پیروی کی، وہ مجھ سے ہے اور جو مجھ سے ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“

1.1.7:- حدیث حضرت حکم بن عمیر ثمالی رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 14:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْبَصِيعِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ. قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ التُّعْمَانِ الْفَرَّاءُ الْبَصِيعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ. عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمِيرٍ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ. وَلَا تُخَالِفْ آذَانَكُمْ، ثُمَّ قُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَإِنْ لَمْ تَزِيدُوا عَلَى التَّكْبِيرِ أَجْزَأَتْكُمْ.

(المعجم الكبير ج ٣ ص ٢١٨ رقم 3190 المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللغمي الشامي أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى ٢٦٠هـ) المحقق: حمدي بن عبد

المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ: يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ٢ ص ١٠٢ رقم 2592. المؤلف: أبو الحسن نور الدين

علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى ٨٠٠هـ). المحقق: حسام الدين

القدس. الناشر: مكتبة القدس، القاهرة ١٣١٢هـ)

ترجمہ

حضرت حکم بن عمیر شمالی رحمته الله سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تو رفع یدین کرو، کانوں سے مختلف نہ کرو۔ پھر

اللہ اکبر کہو۔ اور ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“ پڑھو۔ اور اگر تکبیر سے زائد نہ کہو تو یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے۔

1.1.8:- حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 15:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ

حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّتِي أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ

عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهَا عَبْدِ الْجُبَّارِ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَمِّي، عَنْ

وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَذَا وَايِلُ

بْنُ حُجْرٍ جَاءَكُمْ، لَمْ يَجْئِكُمْ رَغْبَةً وَلَا رَهْبَةً، جَاءَ حُبًّا إِلَيْهِ وَلِرَسُولِهِ».

وَبَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ، وَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَأَصْعَدَ بِهِ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ

النَّاسَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «ارْفُقُوا بِهِ فَإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْمَلِكِ». فَقُلْتُ:

«إِنَّ أَهْلِي قَدْ غَلَبُونِي عَلَى الَّذِي لِي». قَالَ: «أَنَا أُعْطِيكَ وَأُعْطِيكَ ضِعْفَهُ».

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا وَايِلُ بْنُ حُجْرٍ! إِذَا صَلَّيْتَ

فاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةَ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا».

(المعجم الكبير، ج ٢٢ ص ١٩ رقم 28. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته الله (المتوفى ٣٦٠هـ). المحقق: حمدى بن عبد

المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

رَوَاهُ الظَّبْرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجُبَّارِ، عَنْ عَمَّتَيْهَا:
أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ عَبْدِ الْجُبَّارِ وَلَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ يُثَقَاتُ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۹ ص ۴۳، ۴۵، ۳ رقم 16006. المؤلف: أبو الحسن
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حسام
الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۳۱۳ھ)

ترجمہ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ وائل بن حجر تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ کسی لالچ
اور خوف کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت کی وجہ سے آیا ہے۔“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور ان کو
اپنی پہلو میں بٹھایا اور ان کو گلے لگایا۔ اور ان کو منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”اس کے ساتھ شفقت کا
معاملہ کرو کیونکہ اس کی بادشاہی کا تازہ تازہ دور گزرا ہے۔“ میں نے کہا: ”میرے گھر
والوں نے مجھ پر اس کے حصول پر غلبہ پالیا ہے۔“ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”میں تجھے یہ بھی دوں گا اور اس سے کئی گنا زیادہ بھی دوں گا۔“ مجھ سے جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے وائل بن حجر! جب تو نماز ادا کرے، تو اپنے دونوں
ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر کر اور عورت اپنے ہاتھ اپنی چھاتیوں کے برابر
کرنے۔“

1.2: نماز باجماعت کا طریقہ سکھانے والی قوی حدیث

1.2.1: حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 16:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ

يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، حِينَ جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ: «أَقْرَبَتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ». فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: «أَيْكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟» فَأَرَمَ الْقَوْمُ، قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِي: أَرَمَ: السُّكُوتُ، قَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ! قُلْتَهَا، لِحِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: «وَاللَّهِ! إِنْ قُلْتَهَا، وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا. قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: «أَنَا قُلْتَهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ». فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: «أَلَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا، وَبَيَّنَّ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَقْرُواكُمْ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: «وَلَا الضَّالِّينَ! الْفَاتِحَةَ: 7، فَقُولُوا: آمِينَ. يُجِيبُكُمْ اللَّهُ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا، وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ». فَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». فَقُولُوا: «اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ». يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا، وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ». فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ بِرَبِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

تحقق

إسناده صحيح على شرط مسلم. حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشِي من رجاله. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان. وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه أبو داود (972) من طريق الإمام أحمد. بهذا الإسناد. وفيه: "فليؤمكم أحدكم" قد أثبت رواية أبي عوانة عن قتادة.

وأخرجه بتمامه ومختصراً النسائي في "المجتبى" 241/2-242 و 41/3-42. وفي "الكبرى" (760) و(1203)، وابن خزيمة (1584) و(1593)، وابن حبان (2167) من طريق يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (517) - ومن طريقه أبو عوانة 128/2-129. والبيهقي 141/2. وأخرجه مسلم (404) (63) من طريق معاذ بن هشام. وابن ماجه (901) من طريق ابن أبي عدي. ثلاثهم عن هشام الدستوائي. به. وقرن ابن ماجه بهشام سعيد بن أبي عروبة. وقد سلفت رواية سعيد برقمي (19595) و(19627).

وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (404) (62). وأبو داود (972). وأبو عوانة 129/2. والطحاوي في شرح معاني الآثار 238/1 من طريق أبي عوانة (وهو الوضاح اليشكري). وأبو عوانة 129/2. أيضاً من طريق أبان وشعبة. والطحاوي 221/1 و 238 و 265 من طريق أبان وهمام أربعهم عن قتادة. به. ولم يسق أبو عوانة لفظه.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" 292/1 (16) (17) من طريق النضر بن شميل. عن حماد بن سلمة. عن الأزرق بن قيس. عن حِطَّان. عن أبي موسى قال: هل أريكم صلاة رسول الله، فكبر ورفع يديه. ثم كبر ورفع يديه للركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم رفع يديه. ثم قال: هكذا فاصنعوا. ولا يرفع بين السجدين. ثم أخرجه الدارقطني من طريق زيد بن الحباب. عن حماد بن سلمة. بإسناده عن النبي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه. قال الدارقطني في "السنن": رفعه هذان- يعني النضر وزيد بن الحباب- ووقفه غيرهما. وانظر "العلل" 254/7.
وقد سلف برقم (19504).

وفي باب إقامة الصف عن ابن عمر، سلف برقم (5724) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. وانظر (18516) و(18618).

وفي باب قوله: "ليؤمكم أقرؤكم" عن أبي سعيد. سلف برقم (11190) وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وفي باب قوله: "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع: عن ابن عباس، سلف برقم (2440). وعن أبي هريرة سلف برقم (9401) وأورده الصديق الغماري في زياداته على "الأزهار المتناثرة" ص 87.

وفي باب قوله: "فإذا كثر فكبروا ... " عن أبي هريرة. سلف برقم (7144) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وفي باب التشهد عن ابن مسعود. سلف برقم (3562). وأورده السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص 33.

قال السندي: قوله: "أُقِرَّت الصلاة بالبر والزكاة"، وروى: قَرَّت، أي: استقرت معها، وقُرنت بهما، أي: هي مقرونة بالبر وهو الصدق وجماع الخير، ومقرونة بالزكاة في القرآن، مذكورة معها، وقيل: أي: قُرنت بهما، وصار الجمع مأموراً به. فأرَم القوم: روى بالزاي المعجمة وتخفيف الميم، أي: أمسكوا عن الكلام. والرواية المشهورة بالراء وتشديد الميم، أي: سكتوا، ولم يجيبوا.
قوله: إن قلتها: إن نافية.

ولقد رَهَبْتُ: من حد "سمع"، أي: خِفت.

أن تَبْكَعني بفتح مثناة، وسكون موحدة، أي: تُوتِخني بهذه الكلمة، وتستقبلني بالمكروه. هذا وبغية الحديث قد سبق مفصلاً. يعني برقم (19595).

وقال ابن خزيمة في قوله عليه الصلاة والسلام: "فتلك بتلك" عقب الحديث (1593): يُريد أن الإمام يسبقكم إلى الركوع، فيركع قبلكم، فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد رفعه، فتمكثون في الركوع، فهذه المكثة في الركوع بعد

رفع الإمام الرأس من الركوع بتلك السبقة التي سبقكم بها الإمام إلى الركوع وكذلك السجود.

وقال الخطابي: وقوله: "فتلك بتلك": فيه وجهان: أحدهما أن يكون ذلك مردوداً إلى قوله: "وإذا قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين يُجيبكم الله" يريد أن كلمة "آمين" يُستجاب بها الدعاء الذي تضمنه السورة أو الآية، كأنه قال: فتلك الدعوة مضمّنة بتلك الكلمة، أو معلقة بها، أو ما أشبه ذلك من الكلام.

والوجه الآخر أن يكون ذلك معطوفاً على ما يليه من الكلام "وإذا كثر ورُكع فكبروا واركعوا" يريد أن صلاتكم معلقة بصلاة إمامكم، فاتبعوه، واثموا به، ولا تختلفوا عليه، فتلك إنما تصح وتثبت بتلك، وكذلك الفصل الآخر، وهو قوله: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد يسمع الله لكم" إلى أن قال: "فتلك بتلك" يريد والله أعلم أن الاستجابة مقرونة بتلك الدعوة وموصولة بها.

وقال القرطبي في "المفهم" 38/2: قوله: "فتلك بتلك" هذا إشارة إلى أن حق الإمام السبق، فإذا فرغ تلاه المأموم مُعَقِّباً، والباء في "تلك" للإصاق والتعقيب. وقيل في "تلك بتلك" أن معناه أن الحالة من صلاتكم وأعمالكم إنما تصح بتلك الحالة من اقتدائكم به.

وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" 121/4: ومعنى "تلك بتلك" أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، وقال مثله في السجود.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 32، ص 335، رقم 19665. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ.)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ،

□

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: «أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبَيْرِ وَالزَّكَاةِ». قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ، انصَرَفَ. فَقَالَ: «أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ: فَأَرَمَ الْقَوْمُ. ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» فَأَرَمَ الْقَوْمُ. فَقَالَ: «لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا». قَالَ: «مَا قُلْتَهَا». وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: «أَنَا قُلْتَهَا. وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ». فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّيْنَا صَلَاتَنَا». فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» (الفاحة: ٤)، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِيبُكُمْ اللَّهُ. فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَتَسَجَّدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ بِاللهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

(صحیح مسلم رقم 62-404) ترقیم فواد عبد الباقی

ترجمہ حضرت حطان بن عبد اللہ رقاشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں حضرت ابو موسیٰ اشعری

رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب ہم لوگ قعدہ میں بیٹھے تھے۔ تو پیچھے سے کسی آدمی

نے کہا: ”نماز نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔“ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نماز ختم کرنے کے بعد پوچھا: ”یہ بات تم میں سے کس نے کہی ہے؟“ سب لوگ خاموش رہے۔ تو آپ ﷺ نے پھر کہا: (تم لوگ سن رہے ہو؟ بتاؤ کہ تم میں سے یہ بات کس نے کہی؟ جب سب لوگ چپ رہے، تو آپ ﷺ نے مجھ سے کہا: ”اے حطان! شاید تم نے یہ کلمے کہے ہیں؟“ میں نے عرض کیا: ”جی! نہیں۔ میں نے نہیں کہے۔“ مجھے تو خوف تھا کہ کہیں آپ ﷺ خفا نہ ہو جائیں۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا: ”یہ کلمات میں نے کہے ہیں اور اس میں میری نیت صرف بھلائی اور نیکی کی تھی۔“

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: ”تم لوگ نہیں جانتے کہ تم کو اپنی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا: ہمیں سنت سکھائی اور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لیا کرو۔ پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کرائے۔ جب امام تکبیر کہے، تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھ لے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا اور جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو۔ واضح رہے کہ امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے اور تم سے پہلے اٹھتا ہے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تو یہ اس کے بدلے میں ہے“ (یعنی جتنی دیر امام کے بعد رکوع کیا اتنی دیر بعد سر اٹھانا تاکہ جتنی دیر امام رکوع میں رہے تم بھی اتنی دیر رکوع میں رہو)۔ جب امام ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے، تو تم ”اللہم ربنا لک الحمد“ کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے توسط سے یہ بتایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے دعا مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے، تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو۔ اس لئے کہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سجدہ سے سر اٹھاتا ہے۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہ اس کے بدلے میں ہے (یعنی جتنی دیر امام کے بعد تم نے سجدہ کیا، اتنی دیر بعد سر اٹھاؤ تاکہ جتنی دیر امام سجدے میں رہے تم بھی اتنی دیر سجدے میں رہو)۔“

پھر جب وہ قعدہ میں بیٹھے تو وہ سب سے پہلے اس کو یہ پڑھنا چاہیے:

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

ترجمہ ادب و تعظیم اور اظہارِ نیاز کے سارے کلمے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں (اور میں ان سب کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہوں)۔ تم پر سلام ہوا ہے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے سب نیک بندوں پر۔ پس میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں (صرف وہی معبودِ برحق ہے)۔ اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

1.3: نماز باجماعت کا طریقہ سکھانے والی فعلی احادیث

1.3.1: حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 17:- حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ الْفَزَارِيُّ، عَنْ
شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ
جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ! اجْتَبِعُوا وَاجْتَمِعُوا نِسَاءَكُمْ،
وَأَبْنَاءَكُمْ أَعْلَبِكُمْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي صَلَّى لَنَا
بِالْمَدِينَةِ فَاجْتَبِعُوا، وَاجْتَمِعُوا نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، فَتَوَضَّأُوا وَأَرَاهُمْ كَيْفَ
يَتَوَضَّأُ، فَأَخْصَى الْوُضُوءَ إِلَىٰ أَمَاكِينِهِ حَتَّىٰ لَمَّا أَنْ فَاءَ الْفَيْءِ، وَانْكَسَرَ
الظِّلُّ قَامَ، فَأَذَّنَ فَصَفَّ الرِّجَالَ فِي أَدْنَى الصَّفِّ، وَصَفَّ الْوِلْدَانَ
خَلْفَهُمْ، وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الْوِلْدَانِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ فَرَفَعَ
يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةَ يُسْرُهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَقَالَ:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مِرَابٍ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَاسْتَوَى قَائِمًا، ثُمَّ كَبَّرَ، وَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَانْتَهَضَ قَائِمًا، فَكَانَ تَكْبِيرُهُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سِتِّ تَكْبِيرَاتٍ. وَكَبَّرَ حِينَ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَحْفَظُوا تَكْبِيرِي، وَتَعَلَّمُوا رُكُوعِي وَسُجُودِي؛ فَإِنَّهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي لَنَا كَذِي السَّاعَةِ مِنَ النَّهَارِ». الْحَدِيثُ .

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٣٤ ص ٥٣٠ رقم 22906 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى ٢٤١هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ)

وفي رواية عنده: قَالَ: فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً. (مسند أحمد رقم 22893)

ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَكَبَّرَ بِهِمْ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ. (مسند أحمد رقم 22898)

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ، وَلَيْثٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّه كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى هِيَ أَطْوَلُهُنَّ لَكِنِّي يَثُوبُ النَّاسُ، وَيَجْعَلُ الرِّجَالُ قُدَّامَ الْغُلَمَانِ، وَالْغُلَمَانُ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَ الْغُلَمَانِ، وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَكُلَّمَا رَفَعَ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَ جَالِسًا».

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٣٤ ص ٥٣٣ رقم 22911 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى ٢٤١هـ). المحقق:

شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن

التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ١٤٢١هـ)

رَوَاهَا كُلُّهَا أَحْمَدُ، وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ بَعْضَهَا فِي الْكَبِيرِ فِي طُرُقِهَا كُلِّهَا شَهْرُ
بُنْ حَوْشِبٍ وَفِيهِ كَلَامٌ وَهُوَ ثِقَّةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ٢، ص ١٢٩، ١٣٠، رقم 2788، 2789، 2790. المؤلف:

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى ٨٠٤هـ).

المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ١٤١٣هـ)

حضرت ابوما لک اشعری رحمته الله نے اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا: ”اے اشعری قوم کے

ترجمہ

لوگو! تم سب لوگ خود بھی جمع ہو جاؤ اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کر لو تا کہ میں

تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعلیم دوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ

منورہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ پھر سب لوگ اپنی عورتوں اور بچوں سمیت جمع ہو

گئے۔ تو حضرت ابوما لک اشعری رحمته الله نے وضو کر کے ان کو وضو کا طریقہ سمجھایا۔ تو آپ

رحمته الله نے کامل طریقے سے تمام اعضاء وضو کو دھویا۔ پھر جب (زوال کے بعد) سایہ

ڈھل گیا۔ آپ رحمته الله نے کھڑے ہو کر اذان دی۔ پس مردوں نے امام کے قریب تر

پہلی صف بنائی، پھر ان کے پیچھے بچوں نے، پھر بچوں کے پیچھے عورتوں نے صف

بنائی۔ پھر ایک شخص نے اقامت کہی۔ پس آپ رحمته الله نماز پڑھانے کے لئے آگے ہو

گئے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے لئے رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ پھر سورت فاتحہ اور

دوسری سورت (دونوں) کو خاموشی سے پڑھا۔ پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا، رکوع

میں تین مرتبہ آپ رحمته الله نے ”سبحان اللہ وبحمدہ“ پڑھا۔ پھر آپ رحمته الله ”سمع اللہ

لمن حمدہ“ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پھر تکبیر کہہ کر سجدہ میں چلے

گئے، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ سے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کیا، پھر تکبیر کہتے ہوئے

سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پس آپ رحمته الله کی تکبیریں پہلی رکعت میں چھ ہو گئیں۔ جب

دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی۔ پھر جب آپ رحمته الله نے نماز پوری

کر لی، تو آپ رحمته الله اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”میری تکبیروں کو یاد کر لو

اور میرے رکوع و سجود کو سیکھ لو کیونکہ یہ رسول اللہ ﷺ کی وہ نماز ہے جو آپ ﷺ ہمیں دن کے اس حصہ میں پڑھایا کرتے تھے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو سورت فاتحہ پڑھی اور بائیس تکبیریں کہیں۔

ایک اور روایت میں ہے: ”جناب رسول اللہ ﷺ نماز کی چاروں رکعات کو قراءت اور قیام میں برابر کرتے تھے۔ پہلی رکعت کو سب سے لمبی کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس رکعت کو حاصل کر سکیں۔ اور آپ ﷺ تکبیر کہتے جب بھی سجدہ کو جاتے، اور جب بھی رکوع کرتے، اور جب دو رکعتوں کے لیے بیٹھے ہوتے تو دو رکعتوں سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے۔“

حدیث نمبر 18:- حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: **”قَوْمُوا حَتَّى أَصَلِّيَ بِكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.“** قَالَ: **”فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَصَنَعَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا.“**

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 214 رقم 2490

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي (المتوفى 235هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة: الأولى، 1409هـ)

ترجمہ

حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو (جمع کر کے) فرمایا: ”تم لوگ کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھاؤں۔“ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہم نے آپ ﷺ کے پیچھے صفیں بنائیں۔ تو آپ ﷺ نے تکبیر (تحریمہ) کہی۔ پھر قراءت کی۔ پھر تکبیر کہی، پھر رکوع کیا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا۔ پھر تکبیر کہی (تو آپ ﷺ سجدہ میں چلے گئے)۔ پھر ساری نماز میں ایسا ہی کیا۔“

1.3.2- حديث حضرت ابو موسى اشعري رضي الله عنه

حديث نبر 19:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: "لَقَدْ ذَكَّرْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِمَّا نَسِينَاهَا، وَإِمَّا تَرَكْنَاهَا عَمْدًا، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ، وَكُلَّمَا رَفَعَ، وَكُلَّمَا سَجَدَ."

تحقيق

حديث صحيح، ولهذا إسناد اختلف فيه على أبي إسحاق، وهو السبعي.

فرواه إسرائيل- وهو ابن يونس بن أبي إسحاق- كما في هذه الرواية، وعند البزار (535) "زوائد"، وأبو أحمد الزبيرى عند البزار (535) كذلك، وأسد بن موسى كما عند الطحاوى في "شرح معاني الآثار" 1/ 221، وسفيان الثوري كما عند الدارقطنى في "العلل" 224/7، أربعهم عن أبي إسحاق السبعي، بهذا الإسناد. ورواه عمار بن زريق كما سيرد في الرواية (19498)، وأبو بكر بن عتاش وأبو الأحوص- كما سنذكر في تخريجها- عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي موسى.

ورواه زهير بن معاوية، كما سيرد في الرواية (19722) عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن رجل من تميم، عن أبي موسى، قال الدارقطنى في "العلل" 224/7: والصواب قول زهير.

ورواه سلمة بن صالح عن أبي إسحاق، عن أبي موسى، لم يذكر بينهما أحداً، وسلمة بن صالح قال أبو داود والنسائي: متروك الحديث.

ورواه أبو رزين عن أبي موسى، واختلف عنه:

فرواه إبراهيم بن مهدى- وهو المصيصى- عن أبي حفص الأبار، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي موسى.

ورواه أبو معاوية كما عند ابن أبي شيبة 240/1 عن الأعمش، عن أبي رزين، عن علي موقوفاً، قال الدارقطنى: وهو المحفوظ.

وأورده الهيثمى في "مجمع الزوائد" 2/ 131، ونسبه للبزار- وفاته أن ينسبه لأحمد-

وقال: ورجاله ثقات.

وأورده الحافظ في "الفتح" 2/270، وصحح إسناده، ولم يذكر الاختلاف فيه على

أبي إسحاق.

وسيرد بالأرقام (19498)، و(19585)، و(19691)، و(19722).

وفي الباب: عن ابن عباس، سلف برقم (3294).

وعن ابن مسعود سلف برقم (3660).

وعن ابن عمر، سلف برقم (5402).

وعن أبي هريرة سلف برقم (7220).

وعن أنس، سلف برقم (12259).

وعن وائل بن حجر، سلف برقم (18850).

وعن عمران بن حصين، سيرد 4/428.

وعن أبي مالك الأشعري، سيرد 5/342.

وانظر (15352).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 32، ص 222، رقم 19494. المؤلف: أبو عبد الله

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق:

شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن

التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ).

ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہمیں حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے وہ

نماز یاد دلا دی جس کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس

نماز کو یا تو ہم بھول ہی گئے تھے یا ہم نے عمداً اس کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہ جب بھی رکوع

کرتے، جب بھی سر اٹھاتے اور جب بھی سجدہ کرتے تو وہ تکبیر کہتے تھے۔

حدیث نمبر 20: - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي

مَرْيَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى

بِنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَاةً ذَكَّرْنَا بِهَا صَلَاةً كُنَّا نَصَلِّيهَا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّمَا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا، وَإِنَّمَا أَنْ

نَكُونُ تَرَكْنَاهَا عَمْدًا يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ، وَوَضِعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ..

تحقیق

حدیث صحیح، وهذا إسناد اختلف فيه على أبي إسحاق- وهو السبعي- وبسطنا الاختلاف فيه في الرواية (19494). حسن: هو ابن موسى الأشيب، وزهير: هو ابن معاوية.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳۲ ص ۳۹۶ رقم 19722. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى ۲۴۱ھ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہمیں حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ جس سے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جس کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کو یا تو ہم بھول ہی گئے تھے یا ہم نے عمد اس کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ہر اونچ نیچ، قیام اور قعود میں تکبیر کہتے تھے۔“

حدیث نمبر 21:- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ،

وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: لَقَدْ أَذْكَرْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا،

وَإِمَّا تَرَكْنَاهَا، قَالَ: «فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ..»

(مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، ج ۸ ص ۲۸، ۲۹ رقم 3008، 3009.

المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمته الله (المتوفى ۲۹۲ھ). المحقق:

محمود الرحمن زين الله، وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي.

الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. الطبعة: الأولى)

رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. □

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۱۳۱ رقم 2795. المؤلف: أبو الحسن نور الدين

علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حاتم الدين

القدسى. الناشر: مكتبة القدس، القاهرة ١٣١٣هـ

ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہمیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے وہ نماز یاد دلا دی جس کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کو یا تو ہم بھول ہی گئے تھے یا ہم نے عمداً اس کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہ تکبیر کہتے جب بھی رکوع کرتے، اور وہ تکبیر کہتے جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے۔“

1.3.3- حدیث حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 22:- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: "ذَكَرْنَا هَذَا الرَّجُلَ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ." (بخاری رقم 784)

ترجمہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی، تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروادی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔“ انہوں نے بتایا: ”آپ رضی اللہ عنہ جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 23:- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ." فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: "قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".

(بخاری رقم 786؛ مسلم رقم 33-393؛ مسند احمد رقم 19952 طبع مؤسسة الرسالة، أخرجه البغاري (826)، وأبو داود (835)، والطبرانی في "الكبير" 18/ (257)، والبيهقي

134/2 من طریق سلیمان بن حرب و حدیث، بهذا الإسناد
وأخرجه البخاری (786)، ومسلم (393)، والنسائی 204/2 و 2/3، والطبرانی 18/
(257)، والبيهقي 134/2 من طرق عن حماد بن زيد به

ترجمہ حضرت مطرف بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ”میں اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو تکبیر کہی۔ جب سر اٹھایا تو تکبیر کہی اور جب دو رکعتوں سے اٹھے تو تکبیر کہی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: ”انہوں نے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی نماز جیسی نماز پڑھائی ہے۔“

1.4:- جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان

کرنے والی احادیث

1.4.1:- حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 24:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ

وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. وَإِذَا رَكَعَ، قَالَ: "اللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ
أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُحْيَى، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي". وَإِذَا رَفَعَ،
قَالَ: "اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَاوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ، وَمِثْلَ مَا
بَيْنَهُمَا، وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ. وَإِذَا سَجَدَ، قَالَ: "اللَّهُمَّ! لَكَ
سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلذِّى خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ
وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ". ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا
يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ،
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ
الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ". (مسلم رقم 201-771)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ: "وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَ
إِلَيْكَ لَا مَنَجِي مِنْكَ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ". (مشکوٰۃ رقم الحدیث ۸۱۳)

ترجمہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھنے کیلئے
کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھتے:

"وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلذِّى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفِرْ لِي
ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا
يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا
أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ
وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ".

ترجمہ میں نے اپنا رخ ہر طرف سے یک سو ہو کر اس اللہ کی طرف کر دیا۔ جس نے زمین
و آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے تعلق میں کسی اور کو

شریک کرتے ہیں۔ میری عبادت اور میرا ہر دینی عمل اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبردار کی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ! تو ہی باشاہ اور مالک ہے۔ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ تو میرا مالک و رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ مجھے اپنی خطاؤں کا اقرار ہے۔ پس اے میرے مالک! میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ گناہوں کا بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور برے اخلاق میری طرف سے ہٹا دے اور دور کر دے۔ ایسا کرنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ تیرے حضور میں اور تیری خدمت و نصرت کے لیے حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ مولا! ہر قسم کی خیر اور بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اور برائی کا تیری طرف گزر نہیں۔ مجھے تیرا ہی سہارا ہے اور تیری ہی طرف میرا رخ ہے۔ تو برکت والا اور رفعت والا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت اور بخشش کا سائل ہوں اور تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔

(یہ دعا تو آپ ﷺ تکبیر تحریمہ کے بعد قراءت شروع کرنے سے پہلے پڑھتے)۔
پھر جب (قراءت سے فارغ ہو کر) آپ ﷺ رکوع میں جاتے تو کہتے:

«اللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسَلْتُ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُحْيِي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي»۔

ترجمہ اے اللہ! میں تیرے حضور میں جھکا ہوا ہوں اور تجھ پر ایمان لایا ہوں اور میں نے اپنے کو تیرے سپرد کر دیا ہے۔ میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز و استخوان اور میرے رگ پٹھے سب تیرے حضور میں جھکے ہوئے ہیں۔

پھر جب آپ ﷺ رکوع سے سر اٹھاتے تو (سیدھے کھڑے ہو کر) اللہ کے حضور میں عرض کرتے:

«اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ»۔

ترجمہ اے اللہ! تیرے ہی لیے حمد ہے۔ ایسی وسیع اور بے انتہاء حمد جس سے آسمان و زمین

کی ساری وسعتیں بھر جائیں اور ان کے درمیان کا سارا خلا پر ہو جائے۔
جب آپ ﷺ سجدہ میں جاتے تو (اللہ کے حضور میں زمین پر اپنی پیشانی رکھ
کے) عرض کرتے:

«اللَّهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي
خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

ترجمہ اے اللہ! میں تیرے لیے اور تیرے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں اور میں تجھ پر ایمان
لایا ہوں اور میں نے اپنے کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ میرا چہرہ اپنے اس خالق کے
سامنے سجدہ کر رہا ہے جس نے اس کی تخلیق کی اور اس کی یہ صورت بنائی اور اس کے
کان اور اس کی آنکھیں بنائیں۔ مبارک ہے ہمارا بہترین خالق۔
پھر تشہد یعنی التحیات اور سلام کے درمیان (سب سے آخر میں) آپ ﷺ یہ دعا
کرتے:

«اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا
أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ»

ترجمہ اے اللہ! جو خطائیں میں نے پہلے کیں یا پیچھے کیں اور چھپا کر کیں یا علانیہ کیں اور جو
بھی میں نے زیادتی کی اور جس کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے اس سب کو معاف فرما
دے اور مجھے بخش دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے ڈال دینے والا ہے یعنی
تو جسے چاہے آگے بڑھائے اور جسے چاہے پیچھے ہٹائے۔ تیرے سوا کوئی معبود و
مالک نہیں۔

فائدہ اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز کی تفصیل اور
رکوع و سجد اور قومہ وغیرہ کی دعاؤں کو تو تفصیل سے بتایا مگر رفع یدین کا کہیں بھی ذکر
نہیں فرمایا۔

حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ترمذی کی حدیث (ج ۲ ص ۱۷۹)
میں ذکر اور افعال نماز میں مطابقت بیان کی گئی ہے۔ پس قیام کے وقت وجہٹ

وجہی، رکوع کے وقت "اللَّهُمَّ لَكَ رُكْعَتٌ" سجدہ کے وقت "اللَّهُمَّ! لَكَ سَجْدَةٌ" اور اسی طرح مجمع الزوائد اور کنز العمال میں "سجدة سوادى وخیالی" کے اذکار بیان کیے گئے ہیں۔ اور قومہ کے فعل کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح رفع یدین کو بھی بیان نہیں کیا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ رفع یدین فقط نماز کے شروع میں ہی ہے۔

(نَيْلُ الْفَرْقَدَيْنِ مَعَ حَاشِيَتِهِ بَسْطُ الْيَدَيْنِ فِي مَسْئَلَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ص ۸ - المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي رَحْمَةً (المتوفى: 1353 هـ). الناشر: المجلس العلمي، كراتشي - باكستان. الطبعة: الثانية - 1424 هـ - 2004 م)

1.4.2: حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

حدیث نمبر 25: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْمُكْتَبِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الْفَاتِحَةِ: 2، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، وَقَالَ يَحْيَى: يُشْخِصُ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا." قَالَتْ: "وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى." وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعِيهِ كَالْكَلْبِ، "وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ" قَالَ يَحْيَى: "وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ."

تحقیق

إسناده صحيح على شرط مسلم. بدیل - هو ابن میسرة العقيلي - من رجاله. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف. وحسين المكتب: هو ابن ذكوان المعلم. وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربيعي.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق في "مصنفه" (2540) و(2602) و(2873) و
 (3014) و(3050)، وابن أبي شيبة 1/229، 252، 284، 285، 289، وإسحاق بن
 راهوية في "مسندة" (1331)، ومسلم (498)، وأبو داود (783)، وابن ماجه (812)
 و(869) و(893)، وأبو يعلى (4667)، وابن خزيمة (699)، وأبو عوانة 2/94 و96
 و164 و189، وابن حبان (1768)، والبيهقي في "السنن" 2/15 و85 و113 و172
 من طرق عن حسين، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1547)، والطبراني في "الأوسط" (7613) من طريق عبد
 الرحمن بن بديل بن ميسرة، عن أبيه، به.
 وخالفهم حماد بن زيد.

فأخرجه البيهقي مختصراً 2/15 من طريق حماد بن زيد، عن بديل، عن عبد الله بن
 شقيق، عن عائشة، به.

قال الدارقطني في "العلل" 5/الورقة 97، والقول قول من قال: عن أبي الجوزاء.
 وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (24031) و(24791) و(25382) و(26402)،
 وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد القطان وحدة برقم (25617).

وانظر أحاديث الباب في مسند عبد الرحمن بن أبزي عند الرواية (15371).

قال السندي: قولها: والقراءة ب {الحمد لله رب العالمين} : من يرى الإخفاء
 بالتسوية يقول: المراد بالقراءة الجهر بالقراءة، ومن يرى الجهر بها يقول: قول:
 {الحمد لله رب العالمين} كناية عن الفاتحة.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 30، ص 32، 33 رقم 24030. المؤلف: أبو عبد الله
 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241 هـ). المحقق:
 شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن
 التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421 هـ.)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے نماز
 شروع فرماتے تھے اور قراءت کا آغاز "أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" سے کرتے
 تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو سر مبارک کو نہ تو اوپر کی جانب

اٹھاتے اور نہ نیچے کی جانب جھکاتے، بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے تھے (یعنی بالکل کمر کے متوازی)۔ اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت نہ جاتے، جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے، تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے تو دوسرا سجدہ نہیں فرماتے تھے۔ اور ہر دو رکعت پر ”التحیات“ پڑھتے تھے۔ اور اُس وقت اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے اور داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ اور ”عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ“ (یعنی شیطان کی طرح) بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی (سجدہ میں) اپنے بازو (یعنی کلائیوں تک) زمین پر رکھے جس طرح درندے اپنی کلائیوں زمین پر بچھا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ ﷺ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم فرماتے تھے۔

تشریح

نماز عبادت بلکہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اس لیے اس کے قیام، قعود، رکوع و سجود کی وہ شکلیں اور ہیئتیں مقرر کی گئی ہیں جو عبادت اور بندگی کی بہترین اور مکمل ترین تصویر ہیں اور ان نامناسب ہیئتوں سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے جن میں استکبار، یا بے پروائی یا بد منظری کی شان ہو یا کسی بد فطرت مخلوق کی ہیئت سے مشابہت ہو۔ اس اصول کے تحت جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سجدے میں آدمی کلائیوں زمین پر اس طرح بچھا دے جس طرح کتے اور بھیڑیے وغیرہ درندے بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت آپ ﷺ نے اس طرح بیٹھنے سے بھی منع فرمایا جس کو اس حدیث میں ”عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ“، اور ایک دوسری حدیث میں ”اقعاء الكلب“ فرمایا گیا ہے۔ اس سے مراد دونوں پاؤں پنجنوں کے بل کھڑے کر کے اُن کی ایڑیوں پر بیٹھنا ہے۔ چونکہ اس طریقے میں کچھ استکبار اور جلد بازی کی شان ہے اور اس شکل میں صرف گھٹنے اور پنچے ہی زمین سے لگتے ہیں۔ نیز کتے، بھیڑیے وغیرہ درندے بھی اس طرح ایڑیوں پر بیٹھا کرتے ہیں۔ اس لیے نماز میں اس طرح بیٹھنے سے بھی جناب رسول اللہ ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

1.4.3: حدیث حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 26:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءً مَنْكَبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُسْرَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْآخِرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ». (بخاری رقم 828؛ مشکوٰۃ رقم 792)

(صحیح ابن خزيمة، ج 1 ص 324 رقم 643. المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى 311هـ). حَقَّقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ أَحَادِيثَهُ وَقَدَّمَ لَهُ: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة: الثالثة، 1422هـ)

ترجمہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے سامنے فرمایا: ”مجھے رسول اللہ ﷺ کی نماز (یعنی اس کی تفصیلات) آپ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ یاد ہے۔ (اس کے بعد فرمایا کہ) میں نے آپ ﷺ کو دیکھا نماز شروع کرتے ہوئے جب آپ ﷺ تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کندھوں تک لے جاتے۔ اور جب رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں

ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ پھر اپنی کمر کو پوری طرح موڑ دیتے (اور بالکل سیدھی برابر کر دیتے) پھر رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بالکل سیدھے اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ہر منکا (یعنی ہر جوڑ) ٹھیک اپنی جگہ پر آ جاتا (جہاں سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں وہ رہتا ہے)۔ پھر جب آپ ﷺ سجدہ میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح رکھ دیتے کہ نہ تو ان کو زمین پر بچھا دیتے اور نہ ان کو سکیرا لیتے۔ (مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ سجدہ کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو سکیرا نہیں لیتے تھے بلکہ آگے بڑھا کر اپنے چہرے کے مقابلے میں دائیں بائیں رکھ لیتے تھے، لیکن کلائیاں اور گہنیاں زمین سے الگ اور اٹھی رہتی تھیں) اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ سجدہ میں قبلہ کی جانب ہوتا تھا۔ پھر جب دو رکعت پڑھ کے آپ ﷺ (التحیات کے لئے) بیٹھتے تو داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے۔ پھر جب آخری رکعت پڑھ کے آپ ﷺ قعدہ اخیرہ کرتے تو اس طرح بیٹھتے کہ داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں کو (اس کے نیچے سے) آگے کی جانب نکال دیتے اور اپنی سرینوں پر بیٹھ جاتے (جس کو تَوَزُّكُ کہتے ہیں)۔

فائدہ

حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں تکبیر تحریمہ کے وقت مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم میں دوسرے صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ”بِحَاذِيْ بِهِنَا اُذُنَيْهِ“۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے۔ لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جب ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ انگلیاں کانوں تک پہنچ جائیں تو ہاتھوں کا نیچے والا حصہ کندھوں کے مقابل ہوگا۔ اس صورت کو کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے اور کندھوں تک اٹھانے سے بھی۔

ایک اور صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے وضاحت کے ساتھ یہی بات کہی ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں:

”حين قام الى الصلوة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذي“

بابہامیہ اُذنیہ ثم کبر۔ (ابوداؤد رقم ۷۲۴)

ترجمہ جب آپ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اس طرح اٹھائے کہ آپ ﷺ کے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر تھے۔ پھر آپ ﷺ نے تکبیر کہی۔

☆ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ایک خاص بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ قعدہ اخیرہ میں اس طریقے پر بیٹھتے تھے جس کو تَوَزُّك کہتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ابھی اوپر بیان ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قعدہ میں آپ ﷺ کے بیٹھنے کا عام طریقہ تو وہی تھا جو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے قعدہ اولیٰ کا بیان کیا ہے، جس کو اصطلاح میں افتراش کہتے ہیں۔ بعض ائمہ اور شارحین حدیث کا خیال اس بارے میں یہ ہے کہ قعدہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے بیٹھنے کا عام طریقہ تو وہی تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہو چکا ہے (تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: باب نمبر 8 کا حصہ 2. 8)۔ لیکن کبھی کبھی سہولت کے لیے یا یہ ظاہر کرنے اور بتانے کے واسطے کہ اس طرح بھی بیٹھا جاسکتا ہے آپ ﷺ نے تورک بھی کیا ہے۔

☆ اس حدیث میں صحابی رسول سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ ﷺ کا صرف ایک ہی دفعہ رفع یدین بیان کیا ہے۔ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کا ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اس کی صحت میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں۔ راوی حدیث سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود جناب رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تکبیر تحریمہ والارفع یدین دیکھا، وہ تو انہوں نے بیان کر دیا۔ رکوع والا نہیں دیکھا۔ لہذا بیان نہیں کیا۔ اور یہ اصول ہے کہ ”السکوت فی معرض البیان بیان“ یعنی وہ مقام جہاں ایک شیء کو بیان کرنا چاہیے، وہاں اس کے بیان کو چھوڑنے کا مطلب اس شیء کا عدم بیان کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر نہ کرنا بلکہ سکوت کرنے کا مطلب اس کا ترک ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پھر تو اس حدیث میں ثناء، تعوذ، بسم

اللہ، سورت فاتحہ وغیرہ کا بھی کوئی ذکر نہیں، تو پھر یہ سب کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب اس حدیث میں ہی دیا گیا ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "رَأَيْتُهُ" میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے یعنی جن چیزوں کا تعلق دیکھنے سے ہے، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں۔ ان کا تعلق دیکھنے سے نہیں بلکہ سننے سے ہے۔ اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر رفع الیدین رکوع والا صحابی رسول صلی اللہ عنہ نے دیکھا ہوتا تو اس کو ضرور ذکر کرتے۔

☆ یہاں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: اَنَا أَحْفَظُكُمْ لِمَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ۔ انہوں نے أَحْفَظُ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز محفوظ رہی ہے، وہ یہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کی رفع یدین تو محفوظ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی رفع یدین محفوظ نہیں رہی۔ اس مجلس میں کتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم موجود تھے لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ عنہ نے رکوع کی رفع یدین چھوڑ کر خلاف سنت نماز پڑھی ہے۔

1.4.4:- حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 27:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَزْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صَلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثَلِيِّ بَعْدَ الْجُلُوسِ." ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ." (مسلم رقم 28-392)

ترجمہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے وقت سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ کہتے اور پھر اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے۔ پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اسی طرح سجدہ سے سر مبارک اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ پھر جب (دوبارہ) سجدہ کے لیے جاتے تو تکبیر کہتے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ پھر پوری نماز میں فارغ ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ پھر جب دو رکعتوں میں تشہد کے بعد کھڑے ہوتے، تب بھی تکبیر کہتے“۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے: ”میں تم میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہوں“۔

اس صحیح حدیث میں بھی رکوع کے ساتھ تکبیر کا ذکر ہے رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔

حدیث نمبر 28:- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْبَكْتُوبَةِ، وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ. ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. (بخاری رقم 803)

(خ م س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ

يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَفِي رِوَايَةٍ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (1) وَفِي رِوَايَةٍ: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (2) ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا (3) ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ (4) (ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ) (5) وَفِي رِوَايَةٍ: (بَعْدَ التَّشَهُدِ) (6) (إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا) (7)

(1) (خ) 770، (م) 28-392

(2) (خ) 762، (س) 1060

(3) (خ) 756، (م) 28-392

(4) (خ) 770، (م) 28-392

(5) (خ) 756، (م) 28-392

(6) (س) 1023

(7) (خ) 770، (س) 1156

(الجامع الصحيح للسنن والمسائيد، ج 25 ص 238. المؤلف: صهيب عبد الجبار.

عدد الأجزاء: 38. تاريخ النشر: 15-8-2014. المكتبة الشاملة)

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، خواہ فرض ہوں یا نہ ہوں،

رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ چنانچہ آپ ﷺ جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے،

رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر (رکوع سے سر اٹھاتے وقت) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

کہتے اور اس کے بعد سجدہ سے پہلے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے۔ پھر جب سجدہ کے لیے

جھکتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اسی طرح سجدہ سے سر مبارک اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ پھر جب

(دوبارہ) سجدہ کے لیے جاتے تو تکبیر کہتے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ پھر

جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے، تب بھی تکبیر کہتے۔ ہر رکعت میں نماز سے فارغ ہونے تک آپ ﷺ کا یہی معمول تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تم میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز سے مشابہ ہوں۔ وصال مبارک تک آپ ﷺ کی نماز اسی طرح تھی۔“

فائدہ اس صحیح حدیث میں تکبیر تحریمہ اور رکوع و سجود کے مواقع پر صرف تکبیرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رفع یدین کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی نماز کی ترتیب عملی طور پر بتائی۔ آپ ﷺ کی زندگی کی آخری نمازوں کا حوالہ بھی دیا ہے کہ دنیا سے جدا ہونے تک آپ ﷺ کی نماز یہی تھی۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفع یدین کا ذکر تک نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھتے یا رکوع میں جاتے وقت آپ ﷺ نے رفع یدین کیا ہو۔ یہ بات متفقہ ہے کہ آپ ﷺ کی زندگی کے آخری اعمال کو ہی سنت قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد منسوخ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔

حدیث نمبر 29:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيَقُولُ: «إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

تحقیق

وأخرجه ابن الجارود (191) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد وهو في "موطأ مالك" 76/1. ومن طريقه أخرجه الشافعي 81/1. والبخاري (785). ومسلم (392). والنسائي 235/2. والطحاوي 221/1. وابن حبان (1766). والبيهقي 67/2. والبخاري (611).

وأخرجه مسلم (392) (31) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. وسيأتي الحديث مختصراً ومطولاً برقم (7657) و(7658) و(10519) و(10821). وانظر (7658) و(8253) و(9402) و(9608) و(10449).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1886).

وعن ابن مسعود، سلف أيضا برقم (3660).

وعن عمران بن حصين عند البخاري (784).

قوله: "كلما خفض ورفع"، قال المحافظ في "الفتح" 2/270: هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة، لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 12 ص 154 رقم 7220. المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ)

(موطأ محمد رقم 103؛ موطأ امام مالك رقم الحديث 203؛ بخاري رقم الحديث 485، 489، 495،

803؛ مسلم رقم الحديث 867 طبع بشرى كراچی؛ ابوداؤد رقم 836؛ ترمذی رقم 352 مختصراً؛ نسائی

رقم 1155، 1156؛ دارمی رقم 1228؛ مصنف عبدالرزاق رقم 2292، 2293)

ترجمہ حضرت امام مالک رحمته فرماتے ہیں کہ مجھے ابن شہاب زہری رحمته نے بتایا۔ وہ

حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمته سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھاتے تھے تو ہر اونچ نیچ میں تکبیر کہتے تھے۔ پھر

جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ

تم سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔“

فائدہ اس صحیح حدیث میں ہر اونچ نیچ کے ساتھ تکبیر کا ذکر ہے رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔

حدیث نمبر 30: - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّي بِنَا، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ،

وَحِينَ يَرْكَعُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرَّكُوعِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ

يَسْجُدَ بَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا جَلَسَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ فِي

الرُّكُوعَيْنِ كَثْرًا، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرُّكُوعَيْنِ الْآخَرَيْنِ، فَإِذَا سَلَّمَ،

قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لِأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي صَلَاتَهُ - مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا."

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2495) ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (579).

وأخرجه بنحوه مسلم (392) (30)، والنسائي 181/2-182، وابن حبان (1767) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإسناد. وزاد فيه بما معناه: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (7220).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 13 ص 93 رقم 7657. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہونے کے وقت تکبیر تحریمہ کہتے۔ پھر رکوع میں جانے کے وقت تکبیر کہتے۔ پھر جب رکوع کے بعد اٹھ کر (سجدہ کے لیے) جھکتے تو تکبیر کہتے اور (سجدہ سے) سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ پھر سجدے کے بعد بیٹھتے تو تکبیر کہتے۔ (پھر نماز پوری کرنے تک ساری نماز میں یہی کرتے تھے)۔ اور جب دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اٹھتے تھے تو تکبیر کہتے اور دوسری دونوں رکعتوں میں ایسا ہی کرتے۔ پھر جب سلام پھیرتے تو کہتے: "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں تم میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب نماز پڑھ سکتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دنیا سے جدا ہوتے وقت تک یہی تھی جو میں نے پڑھ کر دکھا دی ہے۔"

فائدہ اس میں بھی رکوع کے ساتھ تکبیر کا ذکر ہے رفع یدین کا نہیں۔ اگر رفع یدین کی وہ

اہمیت ہوتی جو ان لوگوں کے ہاں ہے تو ایسی کوئی روایت اس سے خالی نہ ہوتی۔

حدیث نمبر 31:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

تحقیق

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخِينَ. وَهُوَ فِي "مَصْنَفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ" (2496)، وَمِنْ

طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (392) (28)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (578) وَ(611) وَ(624) وَالْحَدِيثُ

عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي الْمَوْضِعِينَ الْأَخِيرِينَ مُخْتَصَرٌ. وَزَادُوا فِيهِ غَيْرَ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي

الْمَوْضِعِ الْأَخِيرِ: بِمَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ".

وَانظُرْ مَا قَبْلَهُ، وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (9851) مِنْ طَرِيقِ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ

الزَّهْرِيِّ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ مُخْتَصَرًا التِّرْمِذِيُّ (254) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،

بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْبِتُ وَهُوَ يَهْوِي. وَقَالَ:

حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ج 13 ص 93 رَقْمُ 7659. الْمَوْلَفُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ

مُحَمَّدَ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هَلَالِ بْنِ أَسَدِ الشَّيْبَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الْمُتَوَفَّى 241 هـ)). الْمَحْتَقُ: شَعِيبُ

الْأَرْنَؤُوطُ، عَادِلٌ مُرْشِدٌ، وَأَخْرَجَهُ إِشْرَافُ: د. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْسَنِ التَّرْكِيُّ.

النَّاشِرُ: مَوْسَسَةُ الرِّسَالَةِ. الطَّبَعَةُ: الْأُولَى، 1421 هـ).

ترجمہ یہ حدیث اوپر والی حدیث کی ایک اور سند ہے۔ اس میں طریق بیان یہ ہے کہ حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا فعل یعنی نماز پڑھ کر نہیں بلکہ جناب رسول اللہ ﷺ کا عمل نقل

کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے

ہوتے تو تکبیر کہتے"۔ پھر آگے نماز کا پورا طریقہ ذکر فرمایا۔

حدیث نمبر 32:- أَخْبَرَنَا مَالِكُ، أَخْبَرَنِي نَعِيمُ الْمُجَبِّرُ، وَأَبُو جَعْفَرِ الْقَارِيُّ، أَنَّ أَبَا

هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: "وَكَانَ

يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، وَيَفْتَحُ الصَّلَاةَ".

قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ. وَإِذَا امْتَحَطَ لِلسُّجُودِ كَثْرًا. وَإِذَا امْتَحَطَ لِلسُّجُودِ الثَّانِي كَثْرًا.

فَأَمَّا رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ اليَدَيْنِ حَذْوَ الأُذُنَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً. ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ.

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمته، ص 58 رقم 103. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني رحمته (المتوفى: 179 هـ). تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الثانية)

مُحَمَّدٌ. قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(الآثار لمحمد بن الحسن. ج 1 ص 133، 134 رقم 75. المؤلف: الامام الحافظ ابى عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمته (المتوفى 189 هـ). المحقق: أبو الوفا الأفعاني. دار النشر: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان)

يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ."

(الآثار. ص 22 رقم 108. المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبته الأنصاري (المتوفى 182 هـ). المحقق: أبو الوفا. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت)

ترجمہ حضرت امام مالک رحمته فرماتے ہیں کہ مجھے نعیم بن عبد اللہ المجرم رحمته اور ابو جعفر القاری رحمته نے بتایا: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھاتے تھے تو ہر اونچ نیچ میں تکبیر کہتے تھے، اور رفع یدین نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے۔"

☆ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دو شاگرد ہیں۔ دونوں حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ کی نماز دیکھ کر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر اونچ نیچ میں تکبیر کہتے تھے۔ چونکہ رفع یدین اول تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ان میں ایک راوی حضرت ابو جعفر القاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین تکبیر کی طرح ہر اونچ نیچ میں نہیں ہوتا بلکہ نماز میں افتتاح کے وقت ہی ہوتا تھا۔ یہ روایت بھی ترک رفع یدین میں صریح ہے۔

حدیث نمبر 33:- نَعِيمُ الْمُجْبِرِ وَأَبُو جَعْفَرِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيَقُولُ: «أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

(التمهيد لها في البوطاً من المعاني والأسانيد ج 9 ص 215. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطبي رحمه الله (الوفى 426 هـ). تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى. محمد عبد الكبير البكرى. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. 138 هـ)

ترجمہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نعیم بن عبد اللہ المجبر رحمہ اللہ اور ابو جعفر القاری رضی اللہ عنہ نے بتایا: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رفع یدین تو نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے۔ اور تکبیر ہر اونچ نیچ میں کہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ تم سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔“

فائدہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَاءَ الثَّبِتُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا لَا يَرَفَعَانِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ فَعَلِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَمَا أَعْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍ لِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا نَرَى أَنْ أَحَدًا كَانَ يَتَقَدَّمُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَتَرَى أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَهْلَ بَدْرٍ وَمَنْ أَشْبَهُهُمْ فِي

مَسْجِدِ الْمُسْلِمِينَ وَإِن عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَدُونَهُ مِنْ فِتْيَانِهِمْ خَلْفَ ذَلِكَ. فَزِي عَلِيَا وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَنْ أَشْبَهَهُمَا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَعْلَمَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا أَعْرَفَ بِمَا يَأْتِي مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَدْعُ مَعَ أَنْ فَقِيهِمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَدْرُوِي عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَجْبَرِ وَأَبِي جَعْفَرِ الْقَارِي أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيَكْبِرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ قَالَا وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَكْبِرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ. فَهَذَا حَدِيثُكُمْ مُوَافِقٌ لِعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا حَاجَةَ بِنَا مَعَهُمَا إِلَى قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَحْوِهِ وَلَكِنَّا احْتَجَجْنَا عَلَيْكُمْ بِحَدِيثِكُمْ.

(الحجة على أهل المدينة، ج 1 ص 95، 96. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني رحمته (المتوفى: 189 هـ). المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري. الناشر: عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الثالثة، 1403 هـ)

حضرت علامۃ المتأخرین شیخ، محدث محمد حسن سننلی رحمته (المتوفى 1305 هـ) اپنی کتاب تنسیق النظام میں فرماتے ہیں:

وأخرجه محمد في "كتاب الحجة"، من طريق مالك عن نعيم بن عبد الله المجرى وأبي جعفر القارى أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُ رِيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيَكْبِرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، قَالَا: وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَكْبِرُ لِفَتْحِ الصَّلَاةِ. فَهَذَا سَكُوتٌ فِي مَعْرُضِ بَيَانِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الرِّفْعِ فِيْمَا عَدَاهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: فَهَذَا حَدِيثُكُمْ مُوَافِقٌ لِعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا حَاجَةَ بِنَا مَعَهُمَا إِلَى قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَحْوِهِ، وَلَكِنَّا احْتَجَجْنَا عَلَيْكُمْ بِحَدِيثِكُمْ.

(تنسیق النظام فی مسند الامام ص 160 طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

ترجمہ حضرت امام محمد رحمته اپنی کتاب "كتاب الحجۃ" میں حضرت امام مالک رحمته کے طریق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمته فرماتے ہیں کہ مجھے نعيم بن عبد الله

المجہر رضی اللہ عنہ اور ابو جعفر القاری رضی اللہ عنہ نے بتایا: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رفع یدین تو نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے۔ اور تکبیر ہر اونچ نیچ میں کہتے تھے، اور دونوں فرماتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رفع یدین صرف نماز میں افتتاح کے وقت ہی کرتے تھے۔ رفع یدین کے بیان کے موقع پر سکوت کرنا اس کی دلیل ہے کہ تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین نہیں ہے۔ حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس (اے اہل مدینہ) تمہاری یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل کے مطابق ہے۔ اگرچہ ان دو حضرات کے عمل کے بعد ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول اور دلیل کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے مگر ہم نے تمہاری روایت کردہ حدیث کے ساتھ ترک رفع یدین پر دلیل قائم کی ہے۔“

1.4.5:- حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 34:- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ». (آل عمران: 190). فَقَرَأَ هُوَ لَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكْعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هُوَ لَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِي نُورًا. (مسلم رقم 191-763؛ مشکوٰۃ رقم 1196)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ ایک رات کو رسول اللہ ﷺ کے پاس سوئے۔ پس (وقت آجانے پر تہجد کے لیے) جناب رسول اللہ ﷺ اٹھے۔ آپ ﷺ نے مسواک کی اور وضو فرمایا۔ آپ ﷺ اس وقت (سورہ آل عمران کے آخر کی) یہ دعائیہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے: **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَدَّبُّ الْعِزَابَ**۔ پھر آپ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں جن میں قیام اور رکوع، سجدہ بہت طویل کیا۔ پھر آپ ﷺ بستر کی طرف واپس آئے اور (ذرا دیر کے لیے) سو گئے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کا سانس آواز کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے تین دفعہ ایسا ہی کیا۔ (یعنی تین دفعہ ایسا کیا کہ ذرا دیر سونے کے بعد اٹھے، مسواک کی، وضو فرمایا اور طویل قیام اور طویل رکوع و سجود کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں)۔ اس طرح آپ ﷺ نے پہلی (دو رکعتوں کے علاوہ) چھ رکعتیں پڑھیں اور ہر دفعہ اٹھ کر آپ ﷺ مسواک کرتے اور وضو فرماتے اور سورت آل عمران کے آخر کی وہ آیتیں پڑھتے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے تین رکعت نماز وتر پڑھی۔ پھر مؤذن نے فجر کی اذان دی، تو آپ ﷺ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے اور اس وقت آپ ﷺ یہ دعا فرما رہے تھے:

اللَّهُمَّ! اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ! اعْطِنِي نُورًا۔

ترجمہ ”اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری زبان میں نور پیدا فرما، اور میری سمع و بصر میں نور پیدا فرما اور میرے پیچھے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ! مجھے نور عطا فرما دے۔“

☆ حاصل اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ! میرے قلب اور میرے قالب اور میری روح اور میرے جسم میں اور جسم کے ہر حصے میں اور میری رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں نور پیدا فرما دے اور مجھے از سر تا پا نور بنا دے اور میرے گرد و پیش اور اوپر نیچے ہر طرف

نور ہی نور کر دے۔

1.4.6:- حدیث حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 35:- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحَوِيثِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا أَنْبِئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيْئَةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيْئَةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلْبَةَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعَةِ.

قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا، فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا، فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

(بخاری رقم 818، 819)

ترجمہ

حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں سے فرمایا: ”کیا میں تمہیں جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز (کی کیفیت) بتلاؤں؟“ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”وہ وقت کسی فرض نماز کا نہ تھا۔ لہذا وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے رکوع کیا اور تکبیر کہی۔ اس کے بعد اپنا سر اٹھایا، اور تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ اس کے بعد سجدہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر اپنا سر اٹھائے رکھا۔ اس کے بعد سجدہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر اپنا سر اٹھائے رکھا۔ پس انہوں نے ہمارے اس شیخ یعنی عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ جیسی نماز پڑھی“۔ حدیث کے راوی حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بات ایسی کرتے تھے کہ ہم نے اور لوگوں کو اسے کرتے نہیں دیکھا: تیسری یا چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے۔

حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”ہم اسلام لانے کے بعد جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ کی خدمت میں قیام کیا۔ تو آپ ﷺ

نے فرمایا: اگر تم اپنے اہل و عیال میں واپس جاؤ، تو اس طرح ان اوقات میں نماز ادا کیا کرنا۔ لہذا جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی اذان کہہ دے، اور تم میں کا بڑا تمہاری امامت کرے۔“

☆ اس حدیث میں حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ ﷺ والی نماز پڑھ کر دکھائی۔ مگر اس میں رفع یدین بالکل نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رفع یدین جناب رسول اللہ ﷺ نماز میں نہ کرتے تھے۔

1.4.7: حدیث حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 36: - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ الْبَرَّادُ - قَالَ: وَكَانَ عِنْدِي أَوْثَقُ مِنْ نَفْسِي - قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: "أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قَالَ: "فَكَبَّرَ، فَرَكَعَ، فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفُصِّلَتْ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ، وَجَافَى عَنِ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَجَافَى عَنِ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ". فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". أَوْ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى".

تحقیق

إسناده حسن، من أجل عطاء بن السائب، ورواية همام- وهو ابن يحيى العوذى- عنه قبل اختلاطه كما رجح ذلك الطحاوى في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (161). وقد توبع، وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سالم البراد- وهو أبو عبد الله الكوفى- فقد روى له أبو داود والنسائى، وهو ثقة.

وأخرجه الدارمى 299/1، والطبرانى فى "الكبير" 17/ (668) من طريقين عن همام

بہذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 257/1، وأبو داود (863)، والنسائي في "المجتبى" 186/2 و 187، وفي "الكبرى" (624) و (626)، وابن خزيمة (598)، والطبراني 17/ (669) و (671) و (672) و (673)، والبيهقي في "السنن" 127/2 من طرق عن عطاء بن السائب، به.

وسياتي برقم (17081) و 274/5، وقد سلفت صفة صلاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث عبد الرحمن بن أبزي برقم (15371)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 28 ص 304 رقم 17076، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ

حضرت سالم البراء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عقبہ بن عمرو الانصاری ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ صحابی تشریف لائے۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز (کی کیفیت) بیان کر دیجئے۔“ تو وہ مسجد میں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، تو تکبیر (تحریمہ) کہی۔ پھر جب رکوع کیا، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو گھٹنوں سے نیچے رکھا اور اپنی کہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھا۔ یہاں تک کہ ہر عضو نے اپنی جگہ قرار پکڑ لیا۔ پھر سمیع اللہ لیمن حمدہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ہر عضو نے اپنی جگہ قرار پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا۔ پھر اپنی دونوں کہنیوں کو پہلوؤں (اور زمین) سے دور رکھا۔ یہاں تک کہ ہر عضو نے اپنی جگہ قرار پکڑ لیا۔ پھر سجدہ سے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اطمینان سے) بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ ہر عضو نے اپنی جگہ قرار پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی رکعت جیسی چار رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ پھر فرمایا: ”ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“

فائدہ اس حدیث میں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا: ”یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے“۔ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا۔ پھر رکوع کیا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا، لیکن رفع یدین بالکل نہیں کیا۔ اگر رکوع کے وقت رفع یدین ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہ ضرور کر کے دکھاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رفع یدین کو بالکل بیان نہیں کیا حالانکہ موقع تعلیم کا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا۔

1.4.8: حدیث حضرت عبدالرحمن بن ابز کی رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 37: - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى فَقَالَ: «أَلَا أَرَيْكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: فَقُلْنَا: «بَلَى».
قَالَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى».
ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

إسناده صحيح. ضمرة: هو ابن ربيعة الفلستيني.

تحقیق

وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 174/5-175. من طريق محمد بن عبد الله العمري. عن ضمرة. به.

وأورده الهيثمى في "مجمع الزوائد" 130/2. وقال: رواه أحمد. ورجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (793)، ومسلم (397)، وقد سلف 437/2.

وعن أبي مسعود البدرى. سيرد 119/4.

قال السندى: قوله: حتى أخذ كل عظم مأخذه: أى: استقر كل عضو في مستقره.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 23 ص 84، 85 رقم 15371. المؤلف: أبو عبد الله

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى ٢٤١هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ.

ترجمہ

حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم لوگ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابزوی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابزوی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے۔ ”کیا میں تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟“ ہم نے عرض کیا: ”حضرت! ضرور دکھائیے!“۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابزوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی۔ پھر قراءت کی۔ پھر رکوع کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے رکوع سے سر اٹھایا یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سجدہ سے سر اٹھایا یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سجدہ سے سر اٹھایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے دوسری رکعت میں بھی کیا جس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔“

اس حدیث میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابزوی رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھ کر دکھائی اس میں رفع یدین کا ذکر تک نہیں۔

1.4.9:- حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 38:- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: "وَصَفَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي بِنَا، فَرَكَعَ فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ، ثُمَّ سَجَدَ فَاسْتَوَى قَاعِدًا حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ، ثُمَّ اسْتَوَى قَاعِدًا..."

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان- وهو

محقق

ابن المغيرة- فمن رجال مسلم. وروى له البخارى مقروناً وتعليقاً. هاشم: هو ابن القاسم أبوالنضر.

وأخرجه عبد بن حميد (1281)، وأبو عوانة 2/135 من طريق هاشم بن القاسم بهذا الإسناد. وانظر (12653).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٦ ص ٨٢ رقم ٣٦٠٠. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ٢٤١هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ)

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. (مصنف ابن أبي شيبة) ج ١ ص ٢٥٤ رقم 2961. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي رحمته (المتوفى ٢٣٥هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ)

ترجمہ حضرت ثابت بن جبلة فرماتے ہیں: کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نماز کو بیان کیا۔ (حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ کی حالت میں اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہم میں سے بعض لوگ گمان کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ سجدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بیٹھے رہے (کہ ہم میں سے بعض لوگ گمان کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں)۔

فائدہ اس حدیث میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں رفع یدین کا ذکر تک نہیں۔

حدیث نمبر 39: - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنِّي لَا أَلُو أَنْ أَصِلَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا - قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسُ بْنُ

مَا لِكَ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُم تَصْنَعُونَهُ - "كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ". (بخاری رقم 821؛ مسلم رقم 195-472)

ترجمہ

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات میں کمی نہ کروں گا کہ تمہیں ویسی ہی نماز پڑھاؤں جیسی کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے دیکھا ہے۔ ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک بات ایسی کرتے تھے کہ میں نے تم لوگوں کو وہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ وہ جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنا کھڑا رہتے کہ کہنے والا کہتا کہ وہ (سجدہ کرنا) بھول گئے اور دونوں سجدوں کے درمیان میں (اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے) کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ (دوسرا سجدہ) کرنا بھول گئے۔

فائدہ

اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر دکھائی اس میں رفع یدین نہ رکوع والا کیا اور نہ سجدوں والا۔

حدیث نمبر 40:- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ

أَنَسُ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ نَسِيَ". (بخاری رقم 800)

ترجمہ

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے تھے۔ تو وہ نماز پڑھ کر بتاتے تھے۔ پس جس وقت وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم کہتے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم (سجدے میں جانا) بھول گئے۔

حدیث نمبر 41:- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْ جَزَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ".

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة. وثابت: هو ابن أسلم البُنَانِي. وحמיד: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه مسلم (473) من طريق بهز بن أسد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت وحمد، عن أنس.

وهو في "مسند أحمد" (13577).

وأخرجه البخاري (800) و (821)، ومسلم (472) من طريقين عن ثابت، عن أنس - ولم يذكر فيه الإيجاز في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وانظر تخریج قصة الإيجاز في الصلاة في "مسند أحمد" برقم (11967)، و"صحيح ابن حبان" (1759).

قوله: "قد أوهم" قال في "عون المعبود": على صيغة الماضي المعلوم، وقيل: مجهول، في "الفائق": أوهمت الشيء: إذا تركته، وأوهمت في الكلام والكتاب: إذا أسقطت معه شيئاً. ذكره الطيبي. يعني كان يلبث في حال الاستواء من الركوع زماناً نظراً أنه أسقط الركعة التي ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام. قال ابن الملك: ويقال: أوهمته: إذا أوقعه في الغلط، وعلى هذا يكون على صيغة الماضي المجهول، أي: أوقع عليه الغلط ووقف سهواً، وقال ابن حجر: أي: أوقع في وهم الناس، أي: فغنمهم، أنه تركها.

(سنن أبي داود، ج ٢ ص ١٣٠ رقم 853. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رحمته (المتوفى: ٢٤٥هـ).
المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي. الناشر: دار الرسالة العالمية.
الطبعة: الأولى ١٣٣٠هـ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ فرماتے تھے: "میں نے کسی آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مختصر مگر پوری اور مکمل پڑھتا ہو۔ جب جناب رسول اللہ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ شاید آپ ﷺ کو وہم ہو گیا ہے۔ پھر آپ ﷺ تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے کہ ہم سمجھتے شاید آپ ﷺ

کو وہم ہو گیا ہے۔

فائدہ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان کی ہے۔ جس میں آپ ﷺ کا رکوع، قومہ، سجدہ، اور دو سجدوں کے درمیان کا جلسے کی کیفیت بیان کی ہے۔ مگر اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رفع یدین کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

1.4.10: حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 42: عن سعید بن الحارث قال: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ (بخاری رقم ۸۲۵)

ترجمہ حضرت سعید بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہمیں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو جس وقت انہوں نے اپنا سر (پہلے) سجدہ سے اٹھایا اور جب سجدہ کیا۔ اور جب انہوں نے (دوسرے سجدہ سے) سر اٹھایا۔ اور جب دو رکعتوں سے (فراغت کر کے) اٹھے تو بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا: ”میں نے جناب نبی اکرم ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔“

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ ﷺ والی نماز پڑھائی تو اس میں صرف تکبیرات تو کہیں مگر رفع یدین کا ذکر بالکل نہیں ہے۔

باب 2

نماز میں قیام کا مسنون طریقہ

2.1:۔ قیام

(1) نماز کا ارادہ کریں تو با وضو قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں۔

آیت نمبر 1:۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ○ (البقرة: ۲۳۸)

ترجمہ اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کرتے ہوئے۔

☆ چوں کہ نماز سے باہر قیام ضروری نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا کھڑے ہونے کا یہ حکم نماز ہی سے متعلق ہے۔

حدیث نمبر 1:۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ

فَعَلَى جَنْبٍ". (بخاری رقم 1117؛ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۶ رقم ۲۰۰۵ طبع بیت الافکار الدولیہ)

ترجمہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بوا سیر تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور

اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو پھر پہلو پر

لیٹ کر پڑھو۔"

(2) قیام میں دونوں پیر قبلہ رخ رہیں

امام بخاری باب فضل استقبال القبلة میں لکھتے ہیں:
يستقبل بأطراف رجله القبلة، قاله أبو حميد (الساعدي) رضي الله عن
النبي ﷺ.

ترجمہ حضرت ابو حمید ساعدی رضي الله عنه بیان کرتے ہیں: ”حضور اکرم ﷺ پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے۔“

2.2: صف کی درنگی

(3) جماعت کی نماز میں بالکل سیدھے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ ایک دوسرے کے بازو ملے ہوں، درمیان میں کوئی خلا و فرج نہ رہے۔

حدیث نمبر 2:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقَدَاحَ. الْحَدِيثُ (صحیح مسلم رقم: 128-436)

ترجمہ حضرت نعمان بن بشیر رضي الله عنه بیان کرتے ہیں: ”رسول خدا ﷺ ہماری صفوں کے سیدھے کرنے میں اس قدر اہتمام فرماتے تھے گویا ان صفوں سے تیر سیدھے کئے جائیں گے۔“

حدیث نمبر 3:- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْنَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوِّمُ الْقِدْحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ، وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ. فَقَالَ: لَتُسَوِّيَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (سنن ابی داؤد رقم 663)

ترجمہ حضرت نعمان بن بشیر رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ ہمیں صفوں میں یوں سیدھا کرتے تھے جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے گمان کر لیا کہ ہم نے یہ بات آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے حاصل کر لی ہے اور سمجھ گئے ہیں۔ تو ایک دن اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا۔ اچانک ایک آدمی کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا۔ پس آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”تم بالضرور صفیں سیدھی کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا۔“

حدیث نمبر 4:- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. (صحیح بخاری رقم: 723)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. (صحیح مسلم رقم 124-433)

ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”صفوں کو سیدھی کرو کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا اقامتِ نماز میں سے ہے۔“
مسلم کی روایت میں ہے کہ ”(صفوں کا سیدھا کرنا) نماز کی تکمیل سے ہے۔“

حدیث نمبر 5:- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوا فِي أَيِّدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَنْدُوا فُرْجَاتِ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا، وَصَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

تحقیق

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن مرة. وهو أبو شجرة. ويقال: أبو القاسم الحضرمي الحمصي. فقد روى له أصحاب السنن. وهو ثقة. هارون بن معروف: هو المروزي. وعبد الله بن وهب: هو البصري. ومعاوية بن صالح: هو

ابن حُدَيْر الحضرمي، وأبو الزاهرية: هو حُذَيْر بن كُرَيْب الحضرمي.
وأخرجه أبو داود (666)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 101/3 من طريق عيسى
بن إبراهيم الغافقي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقال أبو داود لم يقل عيسى: بأيدي إخوانكم.
وأخرجه أبو داود (666)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 101/3 من طريق الليث
بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، مرسلًا.
وقوله: "من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله": أخرجه النسائي في
"المجتبى" 93/2، وابن خزيمة (1549)، والحاكم 213/1 من طريقين عن ابن
وهب، به.

وقال الحاكم: لهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: كثير بن مرة لم يخرج له مسلم، وروى له البخاري في "القراءة خلف
الإمام".

وفي الباب: عن أبي هريرة عند البخاري (722)، ومسلم (435)، سيرد 234/2.
وعن أنس عند البخاري (719)، ومسلم (433)، سيرد 177/3.
وعن أبي مسعود البدرى عند مسلم (432)، سيرد 122/4.
وعن النعمان بن بشير عند البخاري (717)، ومسلم (436)، سيرد 272/4.
وعن جابر بن سمرة عند مسلم (430)، سيرد 101/5.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/3.

وقوله: "لينوا في أيدي إخوانكم"، ذكر أبو داود معناه، فقال: إذا جاء رجل إلى
الصف، فذهب يدخل فيه، فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في
الصف.

وقال الحافظ في "الفتح" 211/2: وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في
أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر- يعني لهذا الحديث-

قوله: "فإنما تصفون بصفوف الملائكة"، قال السندي: أي اقتداء بهم، أي:
فينبغي أن تكون صفوفكم كصفوفهم.

"وسبوا الخلل": الظاهر أن المراد الفرجات بين الناس في الصفوف، وعلى هذا

فقوله: "ولا تدرؤا فرجات للشيطان" لها بمنزلة التأكيد، ويحتمل أن المراد نقصان الصفوف، إى: إذا رأيتم صفاً ناقصاً فأولاً أتموا ذلك النقصان.

"ولينوا ... حمولة على أنه ينبغي له إن لا يستصعب على من يدخل في الصف لسد فرجة، بل يتحرك له ويوسع عليه مكانه. قال المحقق ابن الهمام بعد ذكر هذا الحديث وغيره: وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف، ويظن أن فسحه له رياء بسبب إنه يتحرك لأجله، بل ذلك إعانة على الفضيلة، وإقامة لسد الفرجات بالمأمور بها في الصف. انتهى.

"ومن وصل" بأن كان فيه فرجة فسدها، أو نقصان فأتمه، والقطع أن يقعد بين الصفوف بلا صلاة، أو منع الداخل من الدخول في الفرجات مثلاً، والله تعالى أعلم.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ١٠ ص ٤١٧ رقم 5724. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (توفي ٢٤١هـ). المحقق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ)

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيِّ، عَنْ أَبِي شَجْرَةَ - لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَقْبِئُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - لَمْ يَقُلْ عَيْسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - وَلَا تَنْدَرُوا فُرُجَاتِ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو شَجْرَةَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "مَعْنَى: وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ: إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِينَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكَبِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ".

(سنن ابوداؤد: ج ۱ ص ۲۵۸ رقم ۶۶۶ طبع دارالمعرفة، بیروت ۱۴۲۲ھ ۸۱۹؛ مشکوٰۃ رقم ۱۱۰۲)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صفوں کو سیدھی کرو، کندھوں کو برابر کرو اور درمیان کی خالی جگہوں کو بند کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ (یعنی صف درست کرنے کے لئے اگر کوئی آگے پیچھے کرے تو نرمی کے ساتھ آگے یا پیچھے ہو جاؤ) اور صفوں میں شیطان کے لئے خالی جگہیں نہ چھوڑو (بلکہ بالکل مل کر کھڑے ہو) جو صفوں کو ملائے اللہ تعالیٰ کو ملائیں گے اور جو صفوں کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیں گے۔“

حدیث نمبر 6:- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ:

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قَدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاضُوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي." (صحیح بخاری رقم 719)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ." (صحیح بخاری رقم 725)

ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نماز کی تکبیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا: ”صفوں کو برابر رکھو اور خوب مل کر کھڑے ہو۔ بلاشبہ میں تمہیں پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے: ”ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنے پیروں کو اپنے ساتھی کے پیروں سے ملا دیتا۔“

فائدہ یعنی ہم میں سے ہر ایک صف کے درمیانی خلا کو پُر کرنے میں انتہائی اہتمام کرتا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے قدم کو دوسرے کے قدم سے واقعی ملا دیتا تھا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس جملہ کی مراد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

«المراد بذلك: المبالغة في تعديل الصف وسد خلله»

(فتح الباری: ج ۲ ص ۵۲ طبع دار السلام، ریاض)

ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس باب سے صف کی درستگی اور صف کے دراز کو بند کرنے میں مبالغہ بتانا ہے۔

اس کی تائید مسند احمد کی اس روایت سے ہوتی ہے:

حدیث نمبر 7:- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُضُوا صُفُوفَكُمْ

وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى

الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلْلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذْفُ» (ابوداؤد رقم 667)

حَدَّثَنَا أُسُودُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

قَالَ أُسُودٌ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«رَاصُوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلْلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذْفُ» وَقَالَ

عَفَّانُ: «إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، رَجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخِينَ غَيْرِ أَبَانَ - وَهُوَ ابْنُ

يَزِيدِ الْعَطَارِ - فَمِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (667)، وَابْنُ خَزِيمَةَ (1545)، وَابْنُ حِبَانَ (2166)، وَابْنُ أَبِي

يَعْقُوبَ (100/3)، وَابْنُ بَلْبَاسٍ (813) مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ، وَالنَّسَائِيُّ 92/2 مِنْ طَرِيقِ

أَبِي هِشَامِ الْبَغَيْرَةِ بْنِ سَلْمَةَ الْمَخْزُومِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَرْنُ ابْنِ حِبَانَ بِأَبَانَ شَعْبَةَ.

وَسَيَتَكَرَّرُ عَنْ عَفَّانٍ وَحَدِيثُهُ بِرَقْمِ (14017)، وَانظُرْ (12813).

وَانظُرْ فِي قِصَّةِ تَخَلُّلِ الشَّيَاطِينِ لِلصُّفُوفِ مَا سَلَفَ بِرَقْمِ (12572).

الْحَذْفُ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي «النَّهْيَةِ»: هِيَ الْغَنَمُ الصَّغَارُ الْحِجَازِيَّةُ، وَاحِدَتُهَا حَذْفَةٌ

تحقیق

بالتحريك. وقيل: هي صِغَارٌ جُزْدٌ ليس لها آذان ولا أذنان. يُجَاءُ بِهَا مِنْ جُرْشِ
اليمن.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۲۱، ص ۲۷۷، ۲۷۸، رقم 13735. المؤلف: أبو عبد
الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى ۲۴۱هـ). المحقق:
شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن
التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۳۲۱هـ)

ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سے روایت ہے: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: ”صفوں میں سیسہ پلائی ہوئی عمارت بنو اور انھیں قریب قریب رکھو
اور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو۔ پس اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے، میں شیطان کو صفوں کی خالی جگہوں میں یوں گھستا ہوا دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ
چھوٹی سیاہ بکری ہو۔“

نیز حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت سے بھی تائید ہوتی ہے:

حدیث نمبر 8: - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ أَبِي:
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي
الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثَلَاثًا، وَاللَّهِ!
لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ." قَالَ: "فَرَأَيْتُ
الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، وَمَنْكِبَهُ
بِمَنْكِبِهِ."

تحقیق

صحیح، إلا أن قوله "وركبتہ برکبتہ"، قد انفرد به أبو القاسم الجدلي، وهو حسين بن
الحارث، وهو صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع. وقال ابن المديني:
معروف، وذكره ابن حبان في "الثقات" 264/5، وقال الذهبي في "الكشف": وثق،
وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. زكريا
هو ابن أبي زائدة.

واخرجه أبو داود (662)، وابن خزيمة (160)، والبيهقي في "السنن" 100/3، 101.

من طريق وكيع. بهذا الإسناد.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 86/2. وابن خزيمة (160). وابن حبان (2176). والدارقطني "السنن" 282/1-283 من طرق. عن زكريا. به. وقوله: "وركبته بركبته" لم يرد في رواية ابن حبان. وهي من طريق ابن أبي غنينة. عن زكريا.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 86/2 من طريق مرثد بن وداعة. عن النعمان. به نحوه.

وعلقه البخاري في "صحيحه" مختصراً بصيغة الجزم عن النعمان بن بشير قبل الحديث (725) فقال: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. ووصله الحافظ ابن حجر في "تعليق التعليق" 302/2. ولم يذكر لفظ "وركبته بركبته" مع أن روايته من طريق الدارقطني. وقد ورد فيها هذا اللفظ.

وقد سلف مرفوعه بإسناد صحيح برقم (18427). وسلف أيضاً برقم (18376) وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقول النعمان: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه. ومنكبه بمنكبه. له شاهد من حديث أنس عند البخاري (725) وفيه قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. وقدمه بقدمه.

قال الحافظ في "الفتح" 211/2 في باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم بالصف: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف. وسَدَّ خَلْلَهُ. وقد ورد في الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر. ثم ساق لفظه. وقد سلف برقم (5724).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل. ج 30 ص 388 رقم 18430. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد. وآخرون. إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى. 1421هـ)

ترجمہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنا چہرہ لوگوں

کی طرف کیا اور فرمایا: ”اپنی صفیں سیدھی کرو“۔ تین دفعہ فرمایا۔ ”واللہ! تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کرو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا“۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا، گھٹنے سے اپنا گھٹنا اور ٹخنے سے اپنا ٹخنہ ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ صفیں اس طرح درست کرنا کہ گردنیں گردنوں سے، گھٹنے گھٹنوں سے اور ٹخنے ٹخنوں سے ملے ہوئے ہوں، ممکن ہی نہیں۔ اس لئے یہی کہا جائے گا کہ ان مذکورہ الفاظ سے مقصود صف بندی کا اہتمام ہے کہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو اور درمیانی کشادگی کو پُر کرنے میں مبالغہ کرنے کو بیان کرنا ہے۔ ان الفاظ کے حقیقی معانی مراد نہیں ہیں۔ لہذا صفوں کو درست کرنے کی سنت کے مطابق صحیح صورت یہی ہے کہ سب آپس میں کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں کہ درمیان میں خلانہ رہے۔ اور نہ ہی کوئی صف میں آگے پیچھے نکلا ہوا ہو۔ باہم پیروں کو پیروں سے ملانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کے قدم تو مل جاتے ہیں۔ لیکن اپنی ٹانگیں چوڑی کرنے کی وجہ سے خود اپنی ٹانگوں کے درمیان غیر موزوں فرجہ اور خلل پیدا ہو جاتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تحسین صلوٰۃ کے خلاف ہے۔ پھر اس میں بلا وجہ کا تکلف کرنا پڑتا ہے اور رکوع اور سجدے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ نیز صفوں کی درستگی کا اہتمام تو صرف نماز کے شروع کرتے وقت مطلوب ہے اور ٹانگیں چوڑی کر کے قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہر رکعت میں پیش آتی ہے جو خلاف سنت ہے۔ قدر!

☆

(4) پہلی صف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس میں کھڑا ہونے کا اہتمام کریں۔ پہلی صف مکمل کر لینے کے بعد دوسری صف قائم کریں۔

حدیث نمبر 9:- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ

بْنِ ظَرْفَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السَّوَائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَّا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ:

يُتَيَّمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ

تحقیق

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير تميم بن طرفة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (430)، وابن ماجه (992)، وابن خزيمة (1544)، وأبو عوانة 85/2 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (20964).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 33 ص 519 رقم 21024. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ

حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (پھر دوبارہ) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟“۔ ہم نے عرض کیا: ”حضور! فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صف قائم کرتے ہیں؟“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں“۔

حدیث نمبر 10:- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو عَاصِمٍ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ، عَنِ أَبِي

الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ تَاحِيَةِ إِلَى تَاحِيَةِ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولَى.

تحقیق

إسناده صحيح. أبو عاصم بن جواس: اسمه أحمد وأبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتز، وطلحة الياضي هو ابن مصرف.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (887) من طريق أبي الأحوص بهذا الإسناد.

وأخرجه مقتصراً على القطعة الثانية منه ابن ماجه (997) من طريق شعبة. عن طلحة بن مصرف. به.

وهو في "مسند أحمد" (18516) و(18518).

وانظر ما سلف برقم (543).

(سنن أبي داود ج ٢ ص ٤٤ رقم 664. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق

بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رحمته (المتوفى: ٢٤٥هـ). المحقق:

شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلبل. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة:

الأولى. ١٣٣٠هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضي الله عنه فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر داخل ہو کر ایک طرف سے دوسری طرف کو جاتے تھے۔ ہمارے سینوں اور کندھوں کو چھوتے تھے اور فرماتے تھے: "اختلاف مت کرو، ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے"۔ اور فرماتے تھے: "اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت اور دعا بھیجتے ہیں۔"

(یعنی کندھے چھو کر انہیں باہم ملاتے تھے اور سینے چھو کر انہیں سیدھا کرتے تھے کہ کوئی آگے پیچھے نہ رہے۔ بلکہ سب سیدھے ایک قطار میں رہیں۔ حدیث میں پہلی صفوں میں کھڑا ہونے کی بہت بڑی ترغیب بھی ہے)۔

حدیث نمبر 11:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَتَمُوتُوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ".

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وسيتكرر الحديث برقم (13247).

وأخرجه الضياء في "المختارة" (2379) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل. عن

أبيه. بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (671). والنسائي 93/2. وأبو يعلى (3163). وابن حبان (2155).

وابن خزيمة (1546). والبيهقي 102/3. والبخاري (820). والضياء (2376) و

(2377)، و(2378)، و(2380) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه ابن خزيمة (1547) من طريق شعبة، عن قتادة، به.
وسياتي من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن سعيد برقم (13439).
وسياتي برقم (13440) من طريق شيبان النحوي عن قتادة قال: كان يقال:
"أتموا الصف ...".

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 19، ص 195، رقم 12352. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ).

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگلی صف کو پورا کرو۔ پھر اس سے ٹلی صف کو پورا کرو اور جو کمی ہو وہ پچھلی صف میں ہو۔“

حدیث نمبر 12:- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ".

تحقیق

إسناده حسن من أجل سماك، وهو ابن حرب.
وأخرجه أبو عوانة (1380)، والبيهقي 21/2، والبغوي في "شرح السنة" (810) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (662).

(سنن أبي داود ج 2، ص 665، رقم 665. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رحمته الله (المتوفى: 245هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلي. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى، 1430هـ).

ترجمہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کرتے تھے جب کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے۔ پس جب ہم صف سیدھی

کر لیتے تو آپ ﷺ تکبیر کہتے تھے۔

2.2.1: ٹخنے، پاؤں، گردن اور صفوں کے ملانے سے کیا

مراد ہے؟

اوپر بیان کردہ حدیثوں میں صفوں کے اندر آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اسی طرح کندھوں، گھٹنوں اور ٹخنوں کو ملانے کا حکم ہے۔ یہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے ہیں:

۱ تراص: لغت میں اس کا معنی ہے: ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، جڑنا، چمٹنا۔

۲ الصاق

۳ الزاق ان دونوں لفظوں کا لغت میں معنی ہے: ملانا، چمٹانا

لیکن ان احادیث میں یہ لغوی معنی ہرگز مراد نہیں کہ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور کندھوں کو کندھوں کے ساتھ، گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ اور ٹخنوں کو ٹخنوں کے ساتھ ملا اور چمٹا دو۔ ورنہ نماز میں دھکم پیل شروع ہو جائے گی اور نماز کا سکون ختم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اگر ایک آدمی کوتاہ قامت ہو اور دوسرا دراز قامت ہو، تو یہ دونوں آپس میں گھٹنے اور کندھے کیسے ملائیں گے!!؟

اسی طرح اگر نمازی حضرات آپس میں ٹخنے ملانے کی کوشش کریں گے تو ہر نمازی کو دونوں پاؤں دائیں بائیں ٹیڑھے کرنے پڑیں گے کہ اس کے بغیر ٹخنے آپس میں مل نہیں سکتے۔ تو وہ صف کیسی ہوگی جس میں ہر نمازی کے دونوں پاؤں باہر کی جانب ٹیڑھے ہوں گے؟! یہ صورت تو یہ صفوں والے مقصد کے بھی خلاف ہے کیونکہ تسویہ صفوں سے مقصود ہے: صفوں کو خوب صورت بنانا۔ ٹیڑھے پاؤں والی صف بری بھی معلوم ہوگی اور نماز میں سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ عملاً مشکل بھی ہے۔ اس پر عمل کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ نہ ہی اب ہو رہا ہے۔ اس لیے یہاں حقیقتاً ملانا اور چمٹانا مراد نہیں بلکہ:

۱ قرب والا مجازی معنی مراد ہے، یعنی صفوں میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوا کرو کہ درمیان میں نمازی کی جگہ خالی نہ رہے اور نہ خالی جگہ نکل سکے۔ اسی طرح کندھا کندھے کے، گھٹنا گھٹنے کے اور ٹخنہ ٹخنے کے قریب ہو۔ اسی طرح صفوں کو جو ملانے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صفوں کو آپس میں ملا دو اور آپس میں چمٹا دو۔ ورنہ رکوع و سجود نہ ہو سکے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفوں کے درمیان بقدر ضرورت یعنی رکوع و سجود کی مقدار کا فاصلہ رکھ کر صفیں بناؤ۔ دو صفوں کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ اور دُوری نہ رکھو۔ صفوں کے ملانے سے یہی مراد ہے۔ اسی طرح ٹخنوں کو ملانے سے بھی قرب والا معنی مراد ہے، یعنی ٹخنہ ٹخنے کے قریب ہو۔

۲ الصاق اور الزاق سے محاذات والا معنی مراد ہے۔ یعنی ٹخنہ ٹخنے کے، گھٹنا گھٹنے کے، کندھا کندھے کے اور گردن گردن کے برابر اور سیدھ میں ہو۔

2.2.2: علمائے کرام رحمہ اللہ کے اقوال

۱ شرح المختصر علی بلوغ المرام میں ہے:

صف میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ اس طرح ملنا کہ اس کے ساتھ دو نمازیوں کے درمیان خالی جگہ پر ہو جائے۔ یعنی آدمی اور اس کے ساتھی کے درمیان خالی جگہ نہ رہے۔ یہ قسم مشروع ہے۔

دوسری قسم یہ ہے۔ اس طرح ملنا جو نمازیوں کو تھکا دے اور مشقت میں ڈال دے۔ اس کا نبی کریم ﷺ نے حکم نہیں دیا کیونکہ لوگوں کو تکلیف دینا خصوصاً نماز میں کوئی پسندیدہ کام نہیں بلکہ ممنوع ہے۔ یہ تو صفوں کے اندر نمازیوں کے ملنے کی وضاحت ہے۔ رہا یہ حکم: "قاربو بینہا" (صفوں کو قریب کرو)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری صف، صف اول کے، اور تیسری صف، صف ثانی کے قریب ہو۔

(شرح المختصر علی بلوغ المرام ج ۳ ص ۲۴۵)

۲ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

لیس المراد بالمراسة المراسة التي تشوش على الآخرين. وإنما

المراد منها ألا يكون بينك وبينه فرجة۔

(شرح رياض الصالحين، ج ۵ ص ۱۰۷، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين رَحْمَةٌ

(التوفى ۱۴۲۱ھ)، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ ملنے سے ایسا ملنا مراد نہیں جو دوسروں کو پریشان کر دے۔ صرف اس قدر ملنا مراد ہے

کہ دو نمازیوں کے درمیان دوسرے نمازی کی جگہ خالی نہ رہے۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رَحْمَةٌ فرماتے ہیں:

حافظ ابن حجر عسقلانی رَحْمَةٌ فرماتے ہیں کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ اور قدم کو قدم

کے ساتھ ملانے سے مراد ہے: صف کو برابر کرنے میں اور خالی جگہوں کو پر کرنے میں

مبالغہ کرنا۔

(حضرت شاہ صاحب رَحْمَةٌ فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: فقہاء اربعہ رَحْمَةٌ (حضرت

امام ابو حنیفہ رَحْمَةٌ، حضرت امام مالک رَحْمَةٌ، حضرت امام شافعی رَحْمَةٌ، حضرت احمد رَحْمَةٌ)

کے نزدیک بھی یہی معنی مراد ہے، یعنی درمیان میں اتنی جگہ خالی نہ چھوڑی جائے جس

میں تیسرا نمازی آسکتا ہو۔

(فیض الباری مع صحیح البخاری ج ۲ ص ۳۰۲ طبع المکتبۃ الرشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ ابن عابدین شامی رَحْمَةٌ فرماتے ہیں:

اور جو یہ نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ٹخنوں کو ٹخنوں کے ساتھ ملا تے تھے۔ اس

میں جماعت کی کیفیت بتانا مقصود ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے قریب

کھڑا ہوتا تھا۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۶۲، بحث: القیام)

محدث و فقیہ علامہ محمد عابد سندھی مدنی رَحْمَةٌ فرماتے ہیں:

صاحب در مختار کا قول: ”رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ٹخنوں کو ملانا“۔ اس کی

وضاحت میں شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے دونوں ٹخنوں کو ملائے، لیکن دونوں

قدموں کے درمیان کشادگی باقی رکھے۔ میں (محمد عابد سندھی) کہتا ہوں: شاید

صاحب در مختار کی مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ٹخنوں کو اس طرح برابر کرے کہ دونوں

ٹخنے ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہوں۔

(طوابع الانوار شرح الدر المختار بحوالہ السعایہ ج ۲ ص ۱۸۰)

☆ پس جیسے حالت رکوع میں الصاق الکعبین سے محاذات والا معنی مراد ہے۔ اسی طرح حالت قیام میں بھی الصاق کا یہی معنی مراد ہے۔ اور قرب ومحاذات میں کوئی تضاد نہیں۔ لہذا پاؤں قریب بھی ہوں اور برابر بھی ہوں، سنت یہی ہے۔

تنبیہ
جیسا کہ قیام ورکوع میں اپنے دونوں ٹخنوں کو ملانے، نیز قیام میں اپنے ٹخنہ کو ساتھ والے نمازی کے ٹخنہ کے ساتھ ملانے سے قریب اور برابر کرنا مراد ہے۔ اسی طرح ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے: **وَلْيَضُمَّ فِخْذَيْهِ** (اور چاہیے کہ آدمی سجدہ میں اپنی رانوں کو ملائے)۔ اس سے بھی رانوں کو قریب اور برابر کرنا مراد ہے۔ عورت کی طرح توڑک کر کے ران کو ران کے اوپر نہ رکھے اور نہ ٹیڑھا کرے، بلکہ دونوں کو برابر رکھے۔

تخریج
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ كَدَّاحٍ عَنِ ابْنِ مُجْبِرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَفْتَرِشُ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فِخْذَيْهِ" (سنن ابی داؤد رقم 901)

ترجمہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو کتے کی مانند بازو نہ بچھائے اور دونوں رانوں کو ملائے۔" یعنی رانوں کو ایک دوسری کے قریب کرے مگر دوسری احادیث کی رو سے اپنے پیٹ سے بالکل جدا رکھے۔

سنن کبریٰ بیہقی کی ایک روایت میں ہے: **رَأَى عَقْبِيَهُ** (سجدہ میں اپنی ایڑیوں کو ملائے ہوئے)۔ اس سے بھی ایڑیوں کو قریب اور برابر کرنا مراد ہے۔

تخریج
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرِّهِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الطَّرْسُوسِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِيَ عَلَى فِرَاشِي، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاضًا عَقْبِيهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ". فَسَبِعْتُهُ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، أُثْنِي عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ". فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! أَخَذَكَ شَيْطَانُكَ؟". فَقُلْتُ: "أَمَا لَكَ شَيْطَانُ؟". فَقَالَ: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ". فَقُلْتُ: "وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟". قَالَ: "وَأَنَا، لَكِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ".

(السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۶۷، ۱۶۸ رقم 2710. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى ۳۵۸هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳هـ)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک رات کو (میری آنکھ کھلی تو) میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو بستر پر نہ پایا حالانکہ آپ ﷺ میرے بستر پر میرے ساتھ ہی سوئے تھے۔ تو میں نے آپ ﷺ کو سجدہ کی حالت میں اپنی ایڑیوں کو ملائے ہوئے اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیے ہوئے پایا۔ تو میں نے آپ ﷺ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا:

"أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، أُثْنِي عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ".

اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں۔ اور تیری پکڑ سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں تیری ثنا و صفت پوری طرح بیان نہیں کر سکتا (بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ) تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں بتلایا ہے۔

پھر جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "اے عائشہ! کیا تیرے شیطان نے تجھ کو بہکاوے میں ڈال دیا ہے؟"۔ میں نے کہا: "کیا آپ ﷺ کے ساتھ کوئی شیطان نہیں ہے؟"۔ تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "ایسا کوئی آدمی نہیں

ہے: شیطان کے ساتھ شیطان نہ ہو۔ میں نے عرض کیا: ”اور آپ ﷺ بھی، اے اللہ کے رسول!“ تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میں بھی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو وہ فرماں بردار ہو گیا ہے۔“

خلاصہ ان سب روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیام، رکوع اور سجدہ میں اپنے قدم، گھٹنے، رانیں، کندھے برابر رکھے۔ ایسے ہی اپنے قریب والے نمازی کے ساتھ قدم، گھٹنے، کندھے اور گردن برابر رکھے۔ ان جگہوں میں حقیقتاً ملانا اور چپکانا مراد نہیں ہے۔

2.2.3: تسویہ صفوف کا معنی اور مراد

تسویہ صفوف کا لغت میں معنی ہے: صفوں کو برابر کرنا اور صفوں کو خوبصورت بنانا۔

یہ چار چیزوں پر موقوف ہے:

۱ صف میں قریب قریب کھڑا ہونا

۲ ٹخنوں، قدموں، کندھوں اور گردنوں کو برابر کرنا

۳ اگلی صفوں کو پورا کرنا

۴ صف میں کھڑا ہونا اور بلاوجہ اور بلاعذر صف کو چھوڑ کر درمیان میں فاصلہ پیدا نہ کرنا

صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں دل بھی سیدھے رہیں گے

اور اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو آپس میں دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور صفوں کو سیدھا

کرنا امام کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفوں کو

سیدھا کرتے تھے۔

2.2.4: نماز میں پاؤں زیادہ پھیلانے کی مذمت

اپنے پاؤں کو ایک بالشت سے زیادہ کشادہ کر کے ساتھ والے نمازی کے پاؤں کے

ساتھ اپنے پاؤں ملانا خلاف سنت ہے اور اس میں شرعی لحاظ سے کئی خرابیاں ہیں:

۱ نماز میں پاؤں زیادہ پھیلانے سے کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے،

حالانکہ پاؤں کی طرح کندھوں کو بھی ملانے کا حکم ہے۔

۲ اگر پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو تو سجدہ سے سر اٹھا کر اسی طرح پاؤں پھیلانے کی کیفیت کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہے۔ اس لیے غیر مقلدین ایسا کرتے ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور جب سجدہ میں جاتے ہیں یا سجدہ سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو پاؤں کو ملا لیتے ہیں۔ یہ نماز کے سکون اور خشوع کے خلاف ہے۔ چاہیے تو یہ کہ پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھیں کہ قیام، سجود اور قعود کی حالت میں پاؤں کو پھیلانے اور ملانے والی حرکت نہ کرنی پڑے۔

۳ غیر مقلدین دائیں بائیں اپنے پاؤں اتنے پھیلاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کو دونوں طرف سے سمیٹ کر چار انگشت یا زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ایک ایک نمازی کی جگہ خالی نکل آتی ہے جس کو نمازیوں سے پُر کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ پاؤں پھیلا کر اس کو پُر کرتے ہیں۔

۴ جب پاؤں پھیلا کر دوسرے نمازی کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں ملاتے ہیں تو اس سے ساتھ والا نمازی ملال اور تنگی محسوس کرتا ہے۔ دوسرے آدمی کو ملال اور تنگی میں ڈالنا خصوصاً نماز میں شرع کے لحاظ سے ناجائز اور ممنوع ہے۔

۵ اس سے ساتھ والے نمازی کا خشوع و خضوع بوجہ تنگی اور ملال ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے متعدد محققین اور اہل علم حضرات نے نماز میں زیادہ پاؤں پھیلانے کی مذمت اور تردید کی ہے۔

۶ زیادہ پاؤں پھیلا کر کھڑا ہونا تکبر کی علامت اور تکبرانہ حالت ہے۔

2.2.5: حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حنفی مذہب کے مطابق پاؤں کے درمیان چار انگشت کا فاصلہ اور شافعی مذہب کے مطابق ایک بالشت کا فاصلہ بتا کر آگے فرماتے ہیں: ”پاؤں کے درمیان فاصلہ کے اعتبار سے میں نے سلف میں جماعت اور غیر جماعت کا کوئی فرق نہیں پایا کہ وہ انفرادی نماز سے جماعت میں پاؤں کے درمیان

زیادہ فاصلہ کرتے ہوں۔ فقط غیر مقلدین نے یہ مسئلہ ایجاد کر لیا ہے کہ انفرادی نماز سے نماز باجماعت میں پاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ البتہ ان کے پاس لفظ: ”الزاق“ ہے (جس کا معنی ہے: ملانا، چمٹانا)۔ قاعدہ یہ ہے کہ عملی مسائل میں فقط الفاظ نہیں لیے جاتے بلکہ الفاظ کے ساتھ تعامل اُمت بھی دیکھا جاتا ہے۔ تعامل کا لحاظ کیے بغیر محض الفاظ سے شرعی حکم واضح ہوتا بھی نہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تعامل نظر انداز کر کے ہر نئے لفظ اور نئی تعبیر پر دین کا مدار رکھ دیا جائے۔ جو آدمی ایسا کرے گا وہ ایک جگہ ثابت قدم نہیں رہے گا بلکہ وہ ہر روز ایک نیا مسئلہ اختراع کرے گا۔ کیونکہ احادیث کے مفہوم کو ادا کرنے میں الفاظ کے اعتبار سے روایت حدیث میں جو توسع ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اور ایک معنی کے ادا کرنے میں روایت کے درمیان عبارات اور تعبیرات کا اختلاف بھی مخفی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ الفاظ حدیث کے ساتھ تعامل کا بھی اعتبار کیا جائے۔ کیونکہ شریعت کا دار و مدار تعامل اور توارث پر ہے (اور زیر بحث مسئلہ میں جب ہم لفظ: ”الزاق“ کے ساتھ تعامل کو لیتے ہیں تو) ہمیں کوئی صحابی اور کوئی تابعی ایسا نہیں ملا جو بحالت قیام پاؤں کے درمیان مقدار فاصلہ میں جماعت اور انفرادی نماز میں فرق کرتا ہو۔ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ”الزاق المنکب“ (کندھا ملانے) سے کندھے کو بالکل ملا دینا اور چپکا دینا مراد نہیں بلکہ قریب کرنا مراد ہے۔ پھر اپنے دل میں سوچئے اور جلد بازی نہ کیجئے: کیا آپس میں پاؤں ملا دینے کے بعد بغیر سخت محنت اور بغیر مشقت کے کندھوں کو ملانا ممکن ہے؟، بلکہ سخت محنت و مشقت کے بعد بھی ناممکن ہے (کیونکہ پاؤں ملانے کے لیے ان کو دائیں بائیں زیادہ پھیلانا پڑتا ہے جس سے کندھوں کے درمیان اچھا خاصہ فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے الزاق کا معنی ملا دینا اور چپکا دینا نہیں بلکہ قریب اور برابر کرنا مراد ہے)۔ لہذا جماعت میں پاؤں زیادہ پھیلا کر ان کو آپس میں ملا دینا اور انفرادی نماز میں فاصلہ کم کرنا، یہ ان لوگوں کی اپنی اختراع ہے۔ سلف کے تعامل میں کہیں اس فرق کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ (فیض الباری مع صحیح البخاری ج ۲ ص ۲۰۲ طبع المکتبۃ الرشیدیہ، کوئٹہ)

2.3: نیت

(5) نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔

آیت نمبر 2:- وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ○ (سورة البينة: 5)

ترجمہ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔

حدیث نمبر 13:- حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ

هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ

إِلَيْهِ."

(بخاری رقم: 1؛ مسلم رقم: 1907؛ مسند احمد رقم 300، 168؛ أخرجه الحميدي (28). والبغاري

(1). ومسلم (1907). وابن الجارود (64). والقضاعي في "مسند الشهاب" (1172)

، والبيهقي في "السنن" 341/7 من طريق سفیان بن عيينة. بهذا الإسناد

وأخرجه مالك في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن (983). وابن المبارك في

"الزهد" (188). والطيالسي (37). والبغاري (54) و(2529) و(3898) و(5070)

و(6689) و(6953). ومسلم (1907). وأبو داود (2201). وابن ماجه (4227).

والترمذي (1647). والبخاري (257). والنسائي 58/1 و158/6 و13/7. وابن

الجارود (64). وابن خزيمة (142) و(143) و(455). والطحاوي 96/3. وابن حبان

(388) و(389). والدارقطني في "السنن" 50/1. وفي "العلل" 194/2. وأبو نعيم في

"الحلية" 42/8. وفي "أخبار أصبهان" 115/2. والقضاعي (1171). والبيهقي 41/1

و 235/4 و 331/6، وفي "المعرفة" 189، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6/153، والبغوي في "شرح السنة" (1) و (206) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.)

ترجمہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ آپ ﷺ فرماتے تھے: "سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی طرف ہجرت کی (اور اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی رضا جوئی و اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہ تھا)۔ تو اس کی ہجرت درحقیقت اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ ہی کی طرف ہوئی (اور بیشک وہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کا سچا مہاجر ہے اور اس کی ہجرت الی اللہ والرسول کا یقیناً اجر ملے گا)۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر "مہاجر" بنا تو (اس کی ہجرت اللہ اور رسول ﷺ کے لیے نہ ہوئی، بلکہ) فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔

تنبیہ

نیت دل کے ارادہ کا نام ہے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ زبان سے الفاظ کہہ لینا مستحب ہے۔
حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

اثر 1:- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: "كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، مُوَجِّهًا لَبَيْتِ اللَّهِ مُؤَدِّيًا لِفَرَضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللَّهُ أَكْبَرُ..."

(المعجم لابن المقرئ، ص ۱۲۱ رقم 317، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ رحمه الله (المتوفى ۳۸۱ھ) تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ۱۹۸۹ھ)

ترجمہ حضرت ربیع بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے تو کہتے تھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔“ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کے فرض کی ادائیگی کرتا ہوں۔“ پھر اللہ اکبر کہتے۔
فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہدایہ میں ہے:

والنية هي الارادة والشرط: أن يعلم بقلبه أنّ صلوة يصلي. أمّا
الذّكر باللسان فلا معتبر به، ويحسن ذلك للاجتماع عزيمة.

(الهداية في شرح بداية المبتدى، ج 1 ص 46. المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد
الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 593ھ).
المحقق: طلال يوسف. الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان)
(ہدایہ ج 1 ص 48 مکتبۃ البشری، کراچی 1329ھ)

ترجمہ نیت تو ارادہ ہی کا نام ہے۔ نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ دل میں اس بات کا جاننا کہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ زبان سے اس کو ادا کرنا اگرچہ ضروری نہیں ہے مگر یہ بات مستحسن ہے کہ دونوں (دل اور زبان) کو اس پر مجتمع کیا جائے۔

2.4:- تکبیر تحریمہ

(6) نیت کر لینے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں۔

آیت نمبر 3:- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (الاعلیٰ: 15)

ترجمہ اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔

حدیث نمبر 14:- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ... فَقَالَ (ﷺ): "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ

الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ". الحديث. (بخاری رقم 6251؛ مسلم: رقم 46-397)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم نماز قائم

کرنے کا ارادہ کرو تو مکمل طور پر وضو کرو۔ پھر قبلہ رخ ہو جاؤ اور تکبیر کہو۔

2.5:- تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کی کیفیت

نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ کانوں تک یا سینوں تک یا سینے اور کندھوں تک؟ اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو صرف یہی ایک قول ہے جسے امت کی اجماعی حیثیت حاصل ہے: ”دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائے جائیں کہ انگلیوں کے سرے کانوں کے بالائی حصہ کے برابر ہوں اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کے نرم حصوں کے برابر ہوں اور ہاتھوں کی پشت کندھوں کے برابر ہو“۔ کہنے والا اسے کانوں کے برابر سے بھی تعبیر کر سکتا ہے اور کندھوں کے برابر کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔

حدیث نمبر 10:- حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ". الحديث (مسلم رقم 25-391)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ". (مسلم رقم 26-391)

ترجمہ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ انھیں کانوں کے برابر کر دیتے۔

اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: یہاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے اوپری حصہ کے مقابل کر دیتے۔

حدیث نمبر 11:- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ بَحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَايِلٍ، عَنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ، وَمَوْلَى لَهُمَا أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ "رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، - وَصَفَ هَمَامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ التَّحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى". الحديث.

(مسلم رقم 54-401)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو تکبیر کہی اور ہاتھ بلند کیے۔ ہمام راوی نے کہا: "کانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا لپیٹ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا۔"

حدیث نمبر 12:- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَايِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتْ أُذُنَيْهِ.

الحديث. (نسائی رقم 879؛ قال الالبانی: حدیث صحیح؛ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض ۱۳۲۹ھ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے

نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں

ہاتھوں کو اس قدر اٹھایا کہ دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے۔"

حدیث نمبر 13:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حُنَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُجَّاجُ

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ".

إسناده ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أوطاة، وعبد القدوس بن بكر ابن

حُنَيْسٍ، قال أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، وذكر محمود بن غيلان عن

أحمد وابن معين وأبي خيثمة، أنهم ضربوا على حديثه.

وأخرجه الطبرانی في "الكبير" (242) (قطعة من الجزء 13) من طريق عبد القدوس

تحقیق

بن بکر بن خنیس، عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد وأورده الهیثمی فی "مجمع الزوائد" 101/2. وقال: رواه أحمد والطبرانی فی "الکبیر" وفیه حجاج بن أرطاة، واختلف فی الاحتجاج به. وقد سلف برقم (15600) من حدیث مالک بن الحویرث بلفظ: "حتى یحاذی بها فروع أذنیه"، وهو حدیث صحیح.

قال السندی: قوله: حتى جاوز بها أذنیه: لعله فعل ذلك لبيان الجواز، أو هو محمول على ما جاء من أنه حاذی بها فروع أذنیه، فإن فیه مجاوزة الأسفل! (مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 26 ص 23 رقم 16099. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ

حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی، تو رفع یدین کیا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کانوں سے تجاوز کر گئے۔"

حدیث نمبر 14:- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ".

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 30 ص 213، 215 رقم 18674. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر یعنی نرم حصوں کے برابر ہوتے۔"

حدیث نمبر 15:- حَدَّثَنِي عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
"أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
كَانَتْ مِجَالٍ مَنكِبَيْهِ وَحَاذِي يَابِهَامِيهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ."

تحقیق

صحیح لغیرہ، وهذا إسناد ضيف لانقطاعه، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (955) و(1006) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن
عبد الجبار بن وائل، به.

وأخرجه أيضاً (646) من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه، وزاد فيه الرفع عند
الركوع وعند الرفع منه.

ويشهد لمحاذاة الإبهامين بالأذنين حديث مالك بن الحويرث الآتي برقم (745).

(سنن أبي داود، ج 2 ص 26 رقم 724. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق
بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رحمته (المتوفى: 255هـ). المحقق:
شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلي. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة:
الأولى، 1330هـ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا: ”جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کندھوں کے
برابر اس طرح اٹھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر تھے۔ پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی۔“

حدیث نمبر 16:- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

الْعَطَّارُ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذِي يَابِهَامِيهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ
رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ، وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ
يَدَيْهِ."

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة ولم يُخَرَّجَاهُ.

التعليق - من تلخيص الذهبي ۱ - على شرطها ولا أعرف له علة
(المستدرک علی الصحیحین، ج ۱ ص ۳۳۹ رقم ۸۲۲، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري المعروف بابن البيع رحمته (المتوفى ۴۰۵هـ). تحقيق: مصطفى عبد القادر
عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، ۱۳۱۵هـ)

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۱۳۳ رقم ۲۶۳۲، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
الخسرو جردى الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى ۴۵۸هـ). المحقق: محمد عبد
القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۳۲۴هـ)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے
تکبیر کہی تو اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کر دیا۔ پھر آپ ﷺ نے
رکوع کیا، یہاں تک کہ ہر جوڑا اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر آپ ﷺ سجدہ کے لیے جھکے
یہاں تک کہ آپ ﷺ کے گھٹنے ہاتھوں سے سبقت لے گئے۔“

تطبیق نماز کے شروع میں رسول اللہ ﷺ کے دونوں ہاتھ اٹھانے کی یہی کیفیت ہوا کرتی
تھی۔ صرف تعبیرات کا فرق ہے۔ کوئی ”یحاذی بہما منکبہ“ یعنی ”آپ
ﷺ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے“ کہہ دیتا ہے۔ اور کوئی
”یحاذی بہما اذنیہ“ کہ ”آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر
اٹھاتے“ کہہ دیتا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے: ”رفع یدیه حتی کانتا بحیال
منکبہ وحاذی باہامیہ اذنیہ“۔ ”آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں
کے برابر اس طرح اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کے (نرم حصوں کے) برابر
ہوتے۔“

حضرت امام شافعی رحمته نے بھی رفع یدین کی مختلف تعبیرات کو اسی طرح جمع فرمایا
ہے۔ چنانچہ علامہ نووی رحمته شرح مسلم میں فرماتے ہیں: ”لیکن رفع یدین کا طریقہ
پس ہمارا اور جمہور کا مشہور مذہب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اس طرح

اٹھائے کہ انگلیوں کے سرے کانوں کے سروں کے برابر ہوں اور دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے نرم حصوں کے برابر ہوں اور دونوں ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر ہوں۔ پس ان کے قول کندھوں کے برابر کا یہی معنی ہے۔ امام شافعی نے حدیث کی مختلف روایات کو اسی طرح جمع فرمایا ہے جسے اہل علم نے پسند کیا ہے۔

(نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۱۶۸ طبع قدیمی کتب خانہ کراچی)

غور فرمائیے! اس عبارت میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے لفظ *حذو* منکبہ کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے، جو اوپر ترجمہ میں بیان ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کے سرے کندھوں کے برابر ہوں۔ تو وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی مفصل حدیث اور اس کی ہم معنی متعدد احادیث کی مخالفت کرتا ہے۔ جب کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی مفصل حدیث کے مطابق عمل کرنے والا کندھوں کے برابر تمام احادیث پر عمل کرتا ہے۔

(7) سردی کے موسم میں اگر ہاتھ چادر وغیرہ کے اندر ہوں تو سینے یا کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔

حدیث نمبر 17:- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

كَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ" قَالَ: "ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسٌ وَأُكْسِيَّةٌ".

شريك- وهو ابن عبد الله النخعي - تغير حفظه بعد توليه القضاء، وقد اختلف عليه في اسناد هذا الحديث، فروى عنه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل كما في هذه الرواية، وروى عنه عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه كما سيأتي بعده، والرواية الثانية أصح لِمَا سَلَفَ بَيَانُهُ فِي تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ.

تحقیق

وأخرجه الطحاوی 1/ 196، والخطیب فی "الفصل للوصل" 1/ 440 و
441-442، من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.

وقد ضعف الحافظ أبو عمران موسى بن هارون - فيما نقله عنه الخطيب -
لفظة "إلى صدورهم" وقال: لا أعلم أحداً ذكره في حديث عاصم بن
كليب، وإنما هو: "قال: أتيتهم في الشتاء وعليهم الأكسية
والبرانس ... وإنما هذا التخليط في الإسناد وفي المتن من شريك. كان
بأخرة قد ساء حفظه.

بما قال الطحاوی: أخبر وائل بن حجر في حديثه هذا أن رفعهم إلى
مناكبهم إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم. وأخبر أنهم
كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم.

والبرانس: جمع بُرنس، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به.
(سنن أبي داود ج 2 ص 29 رقم 728. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق
بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 255هـ). المحقق:
شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة:
الأولى، 1430هـ.)

(ابوداؤد رقم 428، قال الالباني: حديث صحيح، ابوداؤد ص 128 بتحقيق الباني طبع مكتبة المعارف،
رياض 1432هـ؛ سنن كبرى بیہقی: ج 2 ص 28 طبع ملتان)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا۔ پھر دوبارہ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نماز شروع
کرتے وقت ہاتھوں کو سینے تک اٹھاتے ہیں اور ان کے بدن پر جبے اور چادریں
تھیں۔

فائدہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کا دوسری بار سردی کے موسم میں آنا اس روایت سے ظاہر ہے۔ جس
میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ "ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد،

فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الشَّيَابِ تَحْرُكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الشَّيَابِ.
(سنن ابوداؤد رقم ٤٢٤٠، بمعناه ٤٢٩٠)

ترجمہ پھر دوبارہ میں سخت سردی کے موسم میں آیا تو میں نے لوگوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو دیکھا کہ ان پر موٹے موٹے کپڑے ہیں اور انھیں کپڑوں کے نیچے ان کے ہاتھ (تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے لئے) حرکت کر رہے تھے۔
(8) ہاتھوں کو اٹھاتے وقت انگلیوں کو کھلی اور کشادہ نیز ہتھیلی کو قبلہ رخ رکھیں۔

حدیث نمبر 18:- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ

عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ." (ترمذی: رقم 239)

أَخْبَرَنَا ابْنُ خَزِيمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْجِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كَانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نَشْرًا".

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ بَيْنَا عِنْدَ الْحَدِيثِ (7277) فِي مَسْنَدِ الْمَوْصِلِيِّ أَنَّهُ حَسَنُ الْحَدِيثِ فِيمَا لَمْ يَخَالَفْ بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَدَى فِي كَامِلِهِ 7/2692: "وَابْنُ يَمَانَ فِي نَفْسِهِ لَا يَتَعَمَدُ الْكُذْبَ إِلَّا أَنَّهُ يَخْطِئُ وَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ." وَالْحَدِيثُ فِي الْإِحْسَانِ 3/130 برقم (1766).

وَهُوَ فِي صَحِيحِ ابْنِ خَزِيمَةَ 1/233 برقم (458).

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الصَّلَاةِ (239) بَاب: مَا جَاءَ فِي نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ. مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدِ الْأَشْجِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: "قَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا." وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانَ، وَأَخْطَأَ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ - رِوَايَةَ النُّشْرِ - شَاهِدًا لِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ 1/235 مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ الْحَضْرَمِيِّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

سعيد الأشج. بهذا الإسناد وهذا ما يجعلنا نقول: إن رواية يحيى رواية بالمعنى. لأن نشر معناها: بسط، والبسط، والمد بمعنى والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 161 - 162 برقم (458): "سألت أبي عن حديث رواه شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرأ. قال أبي: إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم، وهذا باطل".

وأخرجه الترمذى (239) من طريق قتيبة، وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 27 باب كيفية رفع اليدين في افتتاح الصلاة، من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، كلاهما حدثنا يحيى بن اليمان، به.

وأخرجه أحمد 2/ 500 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير،

وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 281 باب: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، كلاهما حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مداً". وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الترمذى (240) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً". وقال الترمذى: "قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ".

وأخرج حديث المد- الطيالسي 1/ 90 برقم (392) من طريق ابن أبي ذئب، بالإسناد السابق. ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 27 باب: كيفية رفع اليدين في افتتاح الصلاة.

وأخرجه أحمد 2/ 500. 434، وأبو داود في الصلاة (753) باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع والنسائي في الافتتاح 2/ 124 باب: رفع اليدين مداً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 195 باب: رفع اليدين في افتتاح الصلاة، أبو، أين يبلغ بهما.

وابن خزيمة برقم (473)، من طرق عن ابن أبي ذئب. قال: حدثنا سعيد بن سمعان قال: جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس: كان يرفع يديه في الصلاة مداً. ويسكت هنيهة ويكبر إذا سجد وإذا رفع. وهذا لفظ النسائي.

وأخرجه الحاكم 1/134 من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى بمصر، حدثنا أبو عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان ... وفيه: كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا- وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضيها. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي.

ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي 2/27. وصححه ابن خزيمة برقم (459). وهو في تحفة الأشراف 9/503.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/188-189: الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود، عن مسدد، والنسائي عن عمرو بن علي، كلاهما عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب وهؤلاء من أكابر الأئمة- عن سعيد بن سمعان- وهو معدود في الثقات. وقد ضعفه الأزدي- عن أبي هريرة.

(موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان، ج 2 ص 152 رقم 446. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمه الله (المتوفى: 805هـ). المحقق: حسين سليم أسد الداراني - عبده علي الكوشك. الناشر: دار الثقافة العربية، دمشق. الطبعة: الأولى، 1311هـ، 1312هـ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لئے تکبیر کہتے تو انگلیوں کو کشادہ اور کھلی رکھتے تھے۔“

حدیث نمبر 19:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُودٍ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نا عَمِيرُ بْنُ عَمْرَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ، وَلْيَسْتَقْبِلْ بِبَاطِنَيْهَا الْقِبْلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَمَامَهُ.

۱ "مسند الأوسط، ج 8 ص 11 رقم 7801. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمی الشامی، أبو القاسم الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۳۶۰ھ)۔ المحقق: طارق بن عوض
 ابنہ بن محمد۔ عبد المحسن بن إبراهيم الحسينی۔ الناشر: دارالحرمين، القاهرة
 رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: عَمْرُو بْنُ عِمْرَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۱۰۲ رقم 2589، المؤلف: أبو الحسن نور الدين
 علی بن أبی بکر بن سلیمان الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۸۰۰ھ)۔ المحقق: حسام الدين
 القدسی۔ الناشر: مكتبة القدسی، القاهرة ۱۴۱۴ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں
 سے کوئی نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اس کے آگے ہوتی ہے۔“

2.6: نماز میں ہاتھ باندھنا

(9) تکبیر تحریمہ سے فارغ ہو کر دائیں ہاتھ سے بائیں پہنچے کو پکڑ کر ناف سے ذرا نیچے
 رکھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی
 سے حلقہ بنا کر بائیں پہنچے کو پکڑ لیں اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیلی
 چھوڑ دیں۔

حدیث نمبر 20: حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ

عن سهل بن سعد قال: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ
 الْيُسْرَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَتَمَعُّ
 ذَلِكَ إِلَى الشَّيْبِ رحمۃ اللہ علیہ.

(صحیح بخاری رقم 740؛ موطا امام محمد ج ۱ ص ۱۸ رقم ۲۹۰ طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

ترجمہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو حکم دیا جاتا تھا
 کہ نماز میں وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ”ذراع“ (یعنی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور
 کلانی) پر رکھیں۔

حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف یہی معلوم ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔

تشریح اس حدیث میں دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھنے کا ذکر ہے، لیکن ہاتھ کے مخصوص حصہ کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ دوسری احادیث میں ہتھیلی اور گٹ وغیرہ کی وضاحت ہونے کی وجہ سے وہی متعین حصہ لیا جائے گا۔

اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنا سنت ہے۔ غیر مقلدین اکثر اس روایت کو اپنی دلیل بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اس حدیث کی تشریح تفصیل سے کی جاتی ہے۔ اس روایت میں انسانی اعضاء میں سے دو کا ذکر ہے: (۱) ہاتھ، (۲) ذراع

ید (ہاتھ)

لغت کی مشہور و معروف کتاب: "لسان العرب" میں ہے:

الْيَدُ: الْكَفُّ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْيَدُ مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى الْكَفِّ.

(لسان العرب، ج ۱۵ ص ۳۱۹۔ المؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقي رحمته (المتوفى ۱۱۷۰ھ)۔ الناشر: دار صادر، بيروت. الطبعة: الثالثة ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ ید ہتھیلی ہے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہاتھ انگلیوں کے کنارے سے لے کر ہتھیلی تک ہے۔

۲ ذراع (بازو)

الذِّرَاعُ: مَا بَيْنَ طَرْفِ الْمِرْفَقِ إِلَى طَرْفِ الْإِصْبَعِ الْوَسْطَى.

(لسان العرب، ج ۸ ص ۹۳۔ المؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقي رحمته (المتوفى ۱۱۷۰ھ)۔ الناشر: دار صادر، بيروت. الطبعة: الثالثة ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ ذراع: کہنی کے سرے سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے کے درمیانی حصہ تک۔

اب اس حدیث مبارکہ کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے:

”دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھیں۔“

غور طلب بات یہ ہے کہ ہاتھ تو مکمل ذراع پر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ ذراع ہاتھ سے بڑی ہے۔ ہاتھ کو ذراع کے کون سے حصہ پر رکھنا ہے؟ اس روایت میں اس جگہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا ہے کہ ذراع کے کس مقام پر ہاتھ رکھا جائے۔ اگر گٹ پر گٹ رکھ کر دیکھا جائے تو بھی ہاتھ مکمل ذراع پر نہیں آ سکتا کہ مکمل ذراع پر رکھنا مراد ہو۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ مکمل ذراع پر تو ہاتھ آئے گا ہی نہیں۔

اگر گٹ سے کچھ آگے (یعنی کہنی کی طرف) ہاتھ رکھا جائے تو اس صورت میں ہاتھ ذراع پر نہیں بلکہ ذراع پر ذراع آئے گا۔ جیسا کہ غیر مقلدین کا طریقہ ہے۔ تو یہ خلاف سنت ہوگا کیونکہ ذراع پر ذراع رکھنے کا حکم ہی نہیں بلکہ ذراع پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ ذراع کا ایسا حصہ ہے جس پر ہاتھ رکھنے سے ذراع پر ذراع کا اطلاق نہ ہو بلکہ ذراع پر ہاتھ کا اطلاق ہو۔

یقیناً اس سے مراد ہتھیلی کا وہ حصہ ہے جو انگوٹھے سے متصل ہے۔ اس کو گٹ پر رکھا جائے گا۔ تب ہی ذراع پر ہاتھ کا اطلاق ہوگا۔ ورنہ اگر ہاتھ کا وہ حصہ گٹ سے تھوڑا سا بھی آگے رکھا جائے گا تو ذراع پر ذراع کا اطلاق ہوگا۔

اس حدیث میں ذراع کا وہ مقام مبہم ہے جس پر ہاتھ رکھنا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قَوْلُهُ عَلَى ذِرَاعِهِ: أُنْبِئُهُمْ مَوْضِعَهُ مِنَ الذِّرَاعِ. وَفِي حَدِيثِ وَائِلٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ. وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِدُونِ الزِّيَادَةِ. "وَالرُّسْغُ" بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَبَةٌ. هُوَ الْمَفْصَلُ بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْكَفِّ. وَسَيَأْتِي أَثَرُ عَلِيِّ نَحْوُهُ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ.

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۲ ص ۲۲۳ المؤلف: أحمد بن علو، بن حجر أبو

الفضل العسقلانی الشافعی (المتوفی ۸۵۲ھ)۔ الناشر: دارالمعرفة، بیروت
۱۳۷۹ھ۔ رقم کتبہ وأبوابہ وأحادیثہ: محمد فؤاد عبد الباقی۔ قام بإخراجه و صححه
وأشرف علی طبعه: محب الدین الخطیب)

ترجمہ اس حدیث میں لفظ ”ذراع“ کا مقام مبہم ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث
جو ابوداؤد اور نسائی میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:
”آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، اس کے جوڑ اور کلانی
پر رکھا۔“

اس کو ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں بھی لفظ:
”رُسْع“ کے بغیر ہے اور یہ کلانی اور ہتھیلی کے درمیان والا جوڑ ہے۔ اس مضمون کا
ایک اثر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کتاب الصلوٰۃ کے آخر میں بھی آئے گا۔
علامہ بدرالدین عینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قوله: ”علی ذراعہ الیُسْرٰی“، لم یبین مَوْضِعَهُ مِنَ الذِّدَاعِ. وَفِي حَدِيثِ
وَائِلٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ النَّسَائِيِّ: ”ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الِیْمَنِیَّ عَلٰی ظَهْرِ كَفِّهِ
الِیُسْرٰی وَالرَّسْعَ مِنَ السَّاعِدِ“. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ. وَالرَّسْعُ،
بِضْمِ الرَّاءِ وَسُكُونِ السِّینِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي آخِرِهِ عَيْنٌ مُّعْجَمَةٌ: هُوَ الْمَفْصَلُ
بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْكَفِّ.

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج ۵ ص ۴۷۹، ۴۸۰۔ المؤلف: أبو محمد محمود
بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی رضی اللہ عنہ (المتوفی
۸۵۵ھ)۔ الناشر: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

ترجمہ اس حدیث میں ”ذراع“ کے مقام کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ
کی حدیث جو ابوداؤد اور نسائی میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:
”آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، اس کے جوڑ اور کلانی
پر رکھا۔“

اس کو ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ لفظ: ”رُسْع“ کا معنی کلانی اور ہتھیلی کے

درمیان والا جوڑ ہے۔

☆ لہذا معلوم ہوا کہ اس حدیث میں ”ذراع“ کا مقام مبہم ہے کہ ہاتھ کے کس حصہ پر رکھا جائے۔ اس کی وضاحت ہم دوسری احادیث مبارکہ میں دیکھیں گے۔ اس کی وضاحت کئی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جن میں بعض کو اس باب میں بیان بھی کر دیا گیا ہے۔ یہاں صرف ایک حدیث مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے۔

حدیث نمبر 21: حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ بِنِ قَدَامَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسُغِ وَالسَّاعِدِ. الْحَدِيث.

(المنتقى من السنن المسندة، ص ۶۲ رقم ۲۰۸، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور بمكة ^{مسند} (المتوفى ۳۰۵ھ) المحقق: عبد الله عمر

البارودي، الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، الطبعة: الأولى، ۱۳۰۵ھ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف ضرور دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ لہذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، پھر تکبیر کہی، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ ان کو اپنے کانوں کے برابر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور گٹ اور کلائی پر رکھا۔

علامہ بدرالدین عینی ^{مسند} فرماتے ہیں:

فِي صَفَةِ الْوَضْعِ: وَهِيَ أَنْ يَضَعَ بَطْنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى رَسْغَةِ الْيُسْرَى. فَيَكُونُ الرُّسْغُ وَسْطَ الْكَفِّ وَقَالَ الْإِسْبِجَابِيُّ: عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ:

يَقْبِضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى رَسْغَ يَدِهِ الْيُسْرَى. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَضَعُهَا كَذَلِكَ وَيَكُونُ الرِّسْغُ وَسْطَ الْكَفِّ. وَفِي "الْمُفِيدِ": وَيَأْخُذُ رَسْغَهَا بِالْخَنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ، وَهُوَ الْبُخْتَارُ. وَفِي "الدِّرَايَةِ": يَأْخُذُ كَوْعَهُ الْأَيْسَرِ بِكَفِّهِ الْأَيْمَنِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي رِوَايَةٍ: يَضَعُ بَاطِنَ أَصَابِعِهِ عَلَى الرِّسْغِ طَوْلًا، وَلَا يَقْبِضُ. وَاسْتَحْسَنَ كَثِيرٌ مِنْ مَشَائِخِنَا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَيَحْلِقُ بِالْخَنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى الرِّسْغِ.

(عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج ۵ ص ۴۷۹، ۴۸۰. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني رحمته (التونى ۸۵۵ھ). الناشر: مكتبه رشيديه، كوثه)

ترجمہ ہاتھ باندھنے کی کیفیت یہ ہے: اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی اندرونی جانب کو بائیں ہاتھ کے گٹ پر رکھے۔ تو اس طرح گٹ ہتھیلی کے درمیان آجائے گا۔

۱ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے گٹ کو پکڑ لے۔

۲ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وہ اسی طرح رکھے۔ تو اس طرح گٹ ہتھیلی کے درمیان ہو جائے گا۔

۳ کتاب: "المفید" میں ہے: بائیں ہاتھ کے گٹ کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ لے۔ اور یہی مختار مذہب ہے۔

۴ کتاب: "درایہ" میں ہے: دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے گٹ سے پکڑ لے۔ یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔

۵ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے: دائیں ہاتھ سے انگلیوں کی اندرونی جانب سے گٹ پر لمبائی کے رخ رکھے اور اس کو پکڑے نہیں۔

۶ ہمارے بہت سے مشائخ عظام رحمۃ اللہ علیہم نے اس کو مستحسن سمجھا ہے کہ دونوں حدیثوں کو

جمع کیا جائے۔ وہ اس طرح کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے تاکہ رکھنے والی پر بھی عمل ہو جائے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے گھیرا بنا کر بائیں ہاتھ کے جوڑ کو پکڑے تاکہ پکڑنے والی پر بھی عمل ہو جائے۔

حدیث نمبر 22: حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعُوا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ". قَالَ أَبُو حَازِمٍ: "وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا يُنْمَى ذَلِكَ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُنْمَى: يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إسناده صحيح على شرط الشيخين.

تحقیق

وہو فی "الموطأ" 159/1، ومن طریق مالک أخرجه البخاری (740)، والطبرانی فی "الکبیر" (5772)، والبیہقی 28/2، ولم يذكر فيه الطبرانی قول أبي حازم في آخره. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. انظر حديث جابر السالف برقم (15090). (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 398 رقم 22829 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

(مسند احمد ج 2 ص 25 رقم 2323 طبع بيت الافكار الدولية، بيروت - سنده على شرط

البخاری)

ترجمہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں وہ اپنے دائیں (ہاتھ) کو اپنے بائیں (ہاتھ) پر رکھیں۔

☆ محدثین رضی اللہ عنہم نے دوسری احادیث کے پیش نظر بائیں ہاتھ سے ہتھیلی اور گٹا مراد لیا ہے۔ یہی صورت خشوع کے زیادہ قریب ہے۔

حدیث نمبر 23:- حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ، أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، أَنْ يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى رُسْغِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ، وَيَزِيحُ بِبَصَرِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ.

(موطأ مالک بروایة محمد بن الحسن الشیبانی، ص ۱۰۳ رقم ۲۹۱، المؤلف: مالک بن

أنس بن مالک بن عامر الأصبحي المدني رضی اللہ عنہ (المتوفى ۱۷۹ھ) تعليق وتحقيق: عبد

الوهاب عبد اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الثانية)

(موطأ امام محمد ج ۱ ص ۳۱۸ رقم ۲۹۰ طبع مکتبۃ البشرى، کراچی)

ترجمہ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھیں۔

حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف یہی معلوم ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔

حضرت امام محمد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

نماز پڑھنے والے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ اپنے بائیں ہاتھ کے گٹ پر ناف کے نیچے رکھے۔ اور (کھڑے ہونے کی حالت میں) اپنی نظر کو اپنے سجدہ کی جگہ رکھے۔ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

حدیث نمبر 24:- حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

وَوَضَعَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ.

(بخاری، ترجمة الباب: بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ ج ۱ ص ۱۵۹ طبع قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (نماز میں) دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا۔

تخریج

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَادٍ أَبُو ظَالُوتَ الْجَرِيرِيُّ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّحَ ثَوْبَهُ، أَوْ يَحْكَّ جَسَدَهُ."

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن ابن شيبه) ج ۲ ص ۲۵۵ رقم ۸۷۲۲. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي رحمته (المتوفى ۲۳۵ھ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، ۱۴۰۹ھ)

□ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَادٍ الْعَبْدِيُّ أَبُو ظَالُوتَ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلَّا أَنْ يُصَلِّحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحْكَّ جَسَدَهُ."

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج ۲ ص ۷۷. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي رحمته (المتوفى ۴۶۳ھ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة علوم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ۱۳۸۷ھ)

اس حدیث کی تخریج میں حافظ ابن رجب رحمته فرماتے ہیں:

روى وكيع في "كتابه" عن عبد السلام بن شداد الجريري، عن غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه، قال: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رُسغِهِ، فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده.

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۹ ص ۲۸۳. بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي رحمته (المتوفى ۹۵۰ھ). الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين، القاهرة. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۵ھ)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو (نماز میں) دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح ہاتھوں کو رہنے دیتے تھے یہاں تک رکوع میں چلے جاتے تھے، مگر یہ کہ (بوقت ضرورت) کپڑے کی اصلاح مقصود ہوتی تھی، یا اپنے جسم کو کھجلا نا مقصود ہوتا تھا۔

حدیث نمبر 25: - حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبٍ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى".

تحقیق

إسناده محتمل للتحسين، حجاج بن أبي زينب مختلف فيه، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وحسن له الحافظ ابن حجر حديثه هذا في "الفتح" 2/224، وقد اختلف عليه في إسناده. فروى عنه عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود، وروى عنه عن أبي عثمان النهدي مرسلًا، وروى عنه عن أبي سفيان عن جابر، كما هو مبين في التعليق على "المسند" (1509).

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (964)، وابن ماجه (811) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وصرح هشيم عند ابن ماجه بساعه له من حجاج.

(سنن أبي داود، ج ۲ ص ۲۹ رقم ۷۵۵. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رحمته (المتوفى: ۲۷۵ھ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ
 الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
 قَالَ: «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَتْ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي
 الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي». (سنن النسائي رقم ۸۸۸)

(واسنادہ حسن آثار السنن: ص ۱۰۴؛ البانی نے بھی اسے حسن کہا ہے: سنن ابی داؤد ص ۱۳۴ طبع

مکتبۃ المعارف، ریاض ۱۳۲۷ھ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ (یعنی خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ) نماز
 پڑھ رہے تھے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ لیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دیکھا تو ان کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔

حدیث نمبر 26: حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ
 الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِي مِنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ
 شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ.

(سنن الدارقطنی ج ۲ ص ۳۰ رقم ۱۰۹۴ المؤلف: أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد بن

مہدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی رضی اللہ عنہ (التونسی ۳۸۵ھ)۔

حققہ وضبط نصہ وعلق علیہ: شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبی، عبد

اللطیف حرز اللہ، أحمد برہوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة:

الأولى ۱۳۲۳ھ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز

میں اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے۔

اس حدیث میں بھی بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا ذکر ہے۔

حديث نمبر 27: - حديث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

□ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُحَّادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلَى لَهُمَا أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: "أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، - وَصَفَ هَمَّامٌ جِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ التَّحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى". (مسلم رقم 401: 52)

□ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ".

تحقیق

إسناده صحيح، رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجراح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 390/1 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/1 - ومن طريقه المزي في "تهذيبه" (ترجمة

موسى بن عمير) - والبيهقي في "السنن" 28/2 من طريق أبي نعيم، عن موسى بن

عمير، به. وزاد الطبراني: ورأيت علقمة يفعله.

وأخرجه النسائي 125/2-126 من طريق عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عمير

العنبري وقيس بن سليم العنبري، قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، قال:

رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى

شماله.

وسيرد بالأرقام: (18852)، (18853)، (18854)، (18866)، (18870)، (18871)

(18873)، (18875)، (18876)، (18878).

وفي الباب عن جابر، سلف برقم (15090)، وانظر تمة شواهد هناك.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 31، ص 30، رقم 18846. المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رضي الله عنه (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٤٢١ھ

□ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ وَايِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ: «لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ يُصَلِّي؟» قَالَ: فَانْظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسُغِ وَالسَّاعِدِ. الْحَدِيثُ

تحقیق

حدیث صحیح دون قولہ: "فرأيتہ یحرکها یدعو بہا" فهو شاذ انفراد بہ زائدہ۔ وهو ابن قدامة۔ من بین أصحاب عاصم بن کلب کما سیأتی مفصلاً۔ ورجال الإسناد ثقات۔ عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعید العنبري۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٣١ ص ١٦٠ رقم ١٨٨٤٠ المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى ٢٤١هـ)۔ المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي۔

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٤٢١ھ

(سنن نسائي رقم ٨٩٠؛ سنن ابی داؤد رقم ٤٢٤؛ اسنادہ صحیح، آثار السنن، ص ١٠٣ طبع مکتبۃ البشرى، کراچی)

ترجمہ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع کی تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک بلند کیا اور تکبیر کہی پھر چادر لپیٹ لی۔ پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے تھام لیا۔

دوسری روایت میں ہے: پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت، گٹ اور کلائی پر رکھا۔

حدیث نمبر 28: حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَايِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى

عَلَى الْيُسْرَى قَرِيبًا مِنَ الرَّسْغِ.

(مسند الدارمی المعروف ب (سنن الدارمی) ج ۲ ص ۷۹۰ رقم ۱۲۷۷. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمی التميمي السمرقندی رحمه الله (المتوفى ۲۵۵هـ). تحقيق: حسين سليم أسد الدارانی. الناشر: دار المغنى للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى ۱۳۱۲هـ: سنن دارمی کے محقق کہتے ہیں: اس کی سند صحیح ہے)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر گٹ کے قریب رکھا ہوا تھا۔

حدیث نمبر 29: حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عمرو بن عثمان الجُمَيْصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنَ الرَّسْغِ.

(المعجم الكبير، ج ۲۲ ص ۲۵ رقم ۵۲. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمه الله (المتوفى ۳۶۰هـ). المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر گٹ کے قریب رکھا ہوا تھا۔

حدیث نمبر 30: حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا زَائِدَةُ ثنا عاصم بن كليب الجرمي قال: أخبرني أبي، أن وائل بن حجر، أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كيف يصلي، قال: فنظرت إليه، قام

وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتْهَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ
الْيُسْرَى، وَالرُّسْغَ مِنَ السَّاعِدِ.

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۲۳ رقم ۲۳۲۵. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
الخضري وجردي الخراساني. أبو بكر البيهقي رحمته الله (المتوفى ۳۵۸هـ). المحقق: محمد عبد
القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳هـ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں دیکھوں گا کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں
ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی
پشت اور بازو کے گٹ پر رکھا۔

حدیث نمبر 31: حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حِينَ قَامَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتْهَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى،
وَالرُّسْغَ. وَالسَّاعِدِ. الْحَدِيثُ

(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ۵ ص ۱۷۰ رقم ۱۸۶۰. المؤلف: محمد بن
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي رحمته الله
(المتوفى ۳۵۳هـ) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي رحمته الله (المتوفى
۳۹۹هـ). حقه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة
الرسالة، بيروت الطبعة: الأولى، ۱۴۰۸هـ. صحيح ابن خزيمة باب وضع بطن الكف
اليمنى على كف اليسرى والرُسغ والساعد جميعاً - رقم الحديث ۳۶۳؛ سنن دارمي ج ۲
ص ۸۵۶ رقم ۱۳۹۷؛ سنن دارمي کے محقق کہتے ہیں: اس کی سند صحیح ہے)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں دیکھوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت اور بازو کے گٹ پر رکھا۔

تشریح مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طریقہ سے تھا کہ گٹ اور بازو کے کچھ حصہ تک پہنچا ہوا تھا۔ اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بائیں ہاتھ کی پشت اور گٹ پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کے گٹ سے آگے کچھ بازو پر رکھی ہوئی ہوں۔

حدیث نمبر 32: حدیث حضرت ہلب بن علی رضی اللہ عنہ

□ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمِنًا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ وَايِلِ بْنِ نُجَيْرٍ، وَعُظَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. حَدِيثُ هُلَيْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. (ترمذی رقم ۲۵۲؛ ابن ماجہ رقم ۸۰۱)

□ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التَّرْسِيُّ، وَهَنَّادُ بْنُ الشَّرِيحِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ هُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمِنًا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

تحقیق صحیح لغیرہ۔ وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيلة بن هلب أبو الأحوص: هو سلام بن سليم.

وأخرجه مقطوعاً الترمذی (252) و (301)، وابن قانع 3/198-199، وابن حبان في كتاب الصلاة كما في الإيماني. 636/13، والطبرانی 22/424 من طرق عن أبي

الأحوص، بهذا الإسناد. وقال الترمذی: حديث حسن. وانظر (21967).

□ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا".

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

تحقيق

وأخرجه المزي في ترجمة قبيصة من "التهديب" 495_494/23 من طريق عبد الله بن أحمد بهذا الإسناد.

وأخرجه مقطوعاً ابن ماجه (809) و(929)، والطبراني 22/420 من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وانظر (21967).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 36 ص 303 رقم 21945، 21943. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (الوفى 231هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ) (مسند أحمد رقم 22322، 22325 طبع بيت الأفكار الدولية، بيروت)

ترجمہ حضرت قبيصة بن هلب رضي الله عنه اپنے والد حضرت هلب رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے تھے، تو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے۔

حدیث نمبر 33: حدیث حضرت ہلب رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُخْبُوفِيُّ، نَا أَبُو عَيْسَى، نَا قُتَيْبَةُ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَبِيصَةُ بْنُ هَلْبٍ الطَّائِيُّ، وَاسْمُ هَلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ.

(شرح السنة، ج ۳ ص ۳۱ رقم 570. المؤلف: محیی السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۷۵ھ). تحقیق: شعیب الأرنؤوط، محمد زہیر الشاویش۔ الناشر: المکتب الإسلامی، دمشق، بیروت۔ الطبعة: الثانية، ۱۴۰۳ھ)

ترجمہ حضرت قبیسہ بن ہلب رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ہلب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے تھے، تو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے۔“

فائدہ حدیث ہلب رضی اللہ عنہ میں بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا ذکر ہے۔ پکڑنے کے لیے ہتھیلی اور انگلیاں استعمال ہوتی ہیں۔ دیگر احادیث سے صاف طور پر بائیں ہاتھ کو گٹ کے قریب سے پکڑنا معلوم ہوتا ہے۔

تنبیہ حدیث ہلب رضی اللہ عنہ کے راوی سماک بن حرب رضی اللہ عنہ اگرچہ ضعیف ہیں مگر یہ روایت دوسری روایات کی وجہ سے حسن ہے جیسا کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے۔

حدیث نمبر 34: حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بَن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا مَبَشَّرَ الْأَنْبِيَاءَ أَمْرًا أَنْ نُوْخِرَ سَحُورًا وَنَعَجَلَ فِطْرًا وَأَنْ تُمَسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا»

تحقیق إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى: صدوق من رجال مسلم. ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه الطبرانی في الكبير (11485) من طريق حرملة بن يحيى. بهذا الإسناد. وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (2/10/63). والسيوطي في

”تنوير الحوالك“ 174/1.

أخرجه الطبرانی أيضاً (10851) من طريق سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار.
عن طاووس. عن ابن عباس.

وأورده الهيثمي في ”مجمع الزوائد“ 105/2 وقال: رواه الطبرانی. ورجاله رجال
الصحيح.

(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج 5 ص 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000)

وهذا إسناد في الظاهر على شرط مسلم.
(فتح الباری شرح صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب وضع الیمنى علی
الیسرى فی الصلاة، ج 2 ص 360. المؤلف: زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن
رجب بن الحسن، السّلامی، البغدادی، ثمّ الدمشقی، الحنبلی رحمته (التوفی 95هـ).
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقیق دار
الحرمین، القاهرة. الطبعة: الأولى، 1315هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
”ہم انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کا گروہ ہیں۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور
اپنی افطاری میں جلدی کریں اور یہ کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنے دائیں ہاتھوں سے
اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑیں۔“

حدیث نمبر 35:۔ حدیث حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا
مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا
عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲، ص ۱۰۵، رقم ۲۶۰۹، المؤلف: أبو الحسن نور الدين
على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حسام الدين
القدسى. الناشر: مكتبة القدسى، القاهرة ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”ہم انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کا گروہ ہیں۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور اپنی افطاری میں جلدی کریں اور یہ کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنے دائیں ہاتھوں کو اپنے بائیں ہاتھوں پر رکھیں۔“

حدیث نمبر 36: حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْعَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ
نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا، وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ».

(مسند أبي داود الطيالسي، ج ۳، ص ۳۷۷، رقم ۲۷۷۶، المؤلف: أبو داود سليمان بن
داود بن الجارود الطيالسي البصري رحمته (المتوفى ۲۰۳ھ). المحقق: الدكتور محمد بن
عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر، مصر. الطبعة: الأولى ۱۹۱۹ھ؛ الدارقطني
ج ۱ ص ۲۸۳؛ بيهقي ج ۳ ص ۲۳۸)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”ہم انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کا گروہ ہیں۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور اپنی افطاری میں جلدی کریں اور یہ کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنے دائیں ہاتھوں سے اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑیں۔“

نوٹ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم کی سنت ہے اور اس کا انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے نہ کہ چھوڑ دینا۔

حدیث نمبر 37:- حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا النَّظْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْرُنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نَعَجَلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سَحُورَنَا وَنَضْرِبَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ.

(سنن الدارقطنی، ج ۲ ص ۳۱ رقم ۱۰۹۶، المؤلف: أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۳۸۵ھ)۔
حققہ وضبط نصہ وعلق علیہ: شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبی، عبد اللطیف حرز اللہ، أحمد برہوم۔ الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان۔ الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳ھ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں (غروب ہوتے ہی) جلدی کریں، اور ہم سحری میں تاخیر کریں (یعنی رات کے آخری حصے میں صبح صادق ہونے سے پہلے سحری کھائیں) اور ہم نماز میں اپنے داہنے ہاتھوں کو بائیں ہاتھوں پر رکھیں۔“

فائدہ اس حدیث کی سندہ عمدہ ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی معتبر ہیں۔ البتہ نظر بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے صدوق اور امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقہ فرمایا ہے اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صالح فرمایا ہے۔ (دیکھئے: تہذیب الکمال ج ۱۲ ص ۷۲، رقم الترجمہ ۶۲۱۶)

حديث نمبر 38: - حديث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ يَعْنِي الْمُرَزِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْحَجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَيْنَبِ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَاَنْتَزَعَهَا، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى."

تحقیق

إسناده ضعيف، الحجاج بن أبي زينب الصيقل فيه ضعف، وقد اضطرب في إسناده هذا الحديث، فرواه في هذا الإسناد من حديث جابر، ورواه عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي، عن ابن مسعود، ورواه عن أبي عثمان مرسلًا.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7853)، وابن عدى في "الكامل" 648/2.

والدارقطني في "السنن" 287/2 من طريق محمد بن الحسن، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (755)، والنسائي 126/2، وابن ماجه (811)، والعقيلي في

"الضعفاء" 284-283/1، وابن عدى في "الكامل" 647/2، والدارقطني في "السنن"

287-286/2، والبيهقي 28/2 من طريق هشيم بن بشير، والدارقطني 287/2 من

طريق محمد بن يزيد الواسطي، كلاهما عن حجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي،

عن ابن مسعود: أنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال الدارقطني في "العلل" 339/5:

قول هشيم أصح، وحسن الحافظ هذا الإسناد في "الفتح" 224/2.

وأخرجه مرسلًا ابن عدى 648/2 من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج عن أبي

عثمان: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر برجل وهو قائم يصلي ... فذكر نحوه.

وفي باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عن علي بن أبي طالب، سلف برقم

(875).

وعن سهل بن سعد، سيأتي 336/5، وأخرجه البخاري (740).

وعن وائل بن حجر، سيأتي 316/4، وأخرجه مسلم (401).

وعن الحارث بن غضيف، وهلب الطائي، وسيأتيان 105/4 و226/5.

وعن عبد الله بن الزبير عند أبي داود (754).

وعن عبد الله بن عباس عند ابن حبان (1770).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۲۳ ص ۳۱۳ رقم 15090. المؤلف: أبو عبد الله

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ھ) المحقق:

شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن

التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ۱۴۲۱ھ)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ
يُصَلِّي قَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى
عَلَى الْيُسْرَى.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّطَبَّرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۱۰۴ رقم ۲۶۰۷- المؤلف: أبو الحسن نور الدين

علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (المتوفى ۸۰۷ھ) - المحقق: حسام الدين

القدسى. الناشر: مكتبة القدسى، القاهرة ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زور سے ہٹا کر بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔

حدیث نمبر 39:- حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا
هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
وَاضِعُ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى
الْيُسْرَى.

(سنن ابن ماجہ رقم ۸۱۱ واللفظ له؛ سنن ابی داؤد رقم ۷۵۵؛ سنن نسائی رقم ۸۹۰؛ حافظ ابن

حجر رحمته نے فتح الباری (ج ۲ ص ۲۲۳ تحت حدیث بخاری رقم ۷۴۰) میں اس کو حدیث

حسن کہا ہے۔ اس حدیث کی نسبت صحیح ابن اسکن کی طرف بھی کی ہے، اور ابن ماجہ کی طرف نسبت نہیں کی ہے؛ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب: ”مجموع“ (ج ۳ ص ۳۱۲) میں فرمایا ہے: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم؛ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد نے بھی اس کو صحیح کہا ہے)۔

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور میں نے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کو رکھا ہوا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔

نوٹ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے، نہ کہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو۔ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو پکڑے گا، تو یہ خلاف سنت ہوگا۔

حدیث نمبر 40: حدیث حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقِ الْعَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۱۸، ۳۱۹ رقم ۳۹۵ طبع ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے اخلاق میں سے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔

فائدہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، بلکہ بخاری کی شرط پر ہے۔

حدیث نمبر 41: حدیث حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقِ الْعَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ التَّبْكِيْزُ فِي الْإِفْطَارِ، وَالْإِبْلَاحُ فِي

السُّحُورِ، وَوَضَعَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ..
(مصنف ابن أبي شيبة ج ٦ ص ١٢٨ رقم ٩٠٥٠ - طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه،
كراچی ١٣٢٨ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے اخلاق میں سے افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔
فائدہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اس کے راوی پہلی روایت والے ہی ہیں، سوائے ابومعاویہ رضی اللہ عنہ کے۔ اور ابومعاویہ رضی اللہ عنہ بھی بخاری کے رجال میں سے ہیں۔

حدیث نمبر 42: حدیث حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَفَعَهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ
وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ ..»
رَوَاهُ الظَّهْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَالْمَوْقُوفُ صَحِيحٌ.
وَالْمَرْفُوعُ فِي رِجَالِهِ مَنْ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ٢ ص ١٠٥ رقم ٢٦١١، المؤلف: أبو الحسن نور الدين
على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رضي الله عنه (المتوفى ٨٠٤ھ) المحقق: حسام الدين
القدسى. الناشر: مكتبة القدسى، القاهرة. ١٣١٢ھ)

ترجمہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے اخلاق میں سے افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔

حدیث نمبر 43: حدیث حضرت حارث بن غطفان رضی اللہ عنہ

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ - أَوْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ - قَالَ: مَا نَسِيتُ
مِنَ الْأَشْيَاءِ لَمْ أَنْسِ أُنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالظَّهْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ٢ ص ١٠٣ رقم ٢٦٠٦، المؤلف: أبو الحسن نور الدين

علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی رضی اللہ عنہ (التونی ۸۰۷ھ)۔ المحقق: حسام الدین

القدسی۔ الناشر: مكتبة القدسی، القاهرة۔ ۱۴۱۲ھ

ترجمہ حضرت حارث بن عطفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں جن چیزوں کو کبھی نہیں بھولا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے ہوئے تھے۔“

حدیث نمبر 44: حدیث مرسل حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۲۳، ۳۲۴ رقم ۳۹۶۴ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ (جو مخضرمی اور بہت بڑے تابعی تھے) مرسل روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص (حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) کے قریب سے گزرے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کو رکھا ہوا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔

2.6.1: احادیث پر عمل کی عمدہ تطبیق

بعض احادیث میں بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑنے اور بعض احادیث میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا ذکر ہے۔ ان دونوں قسم کی احادیث میں فقہائے کرام رضی اللہ عنہم نے یوں تطبیق دی ہے: دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور درمیان کی تین انگلیوں کو تو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے (اس سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے والی احادیث پر عمل ہو جائے گا)۔ اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کے گٹ کو پکڑ لیا جائے (اس سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے والی احادیث پر عمل ہو جائے گا)۔

لہذا بعض لوگوں کا اس طریقہ کو احادیث اور سنت کے خلاف قرار دینا درست نہیں۔ البتہ خواتین کو صرف ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنے پر اکتفاء کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں نماز میں ٹھم، اور جسم کے حصوں کو سکیر کر رکھنے کی تعلیم ہے۔ اس میں ان کے لیے پردہ کی زیادہ رعایت ہے۔

تنبیہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دونوں ہاتھ کہنیوں تک پہنچا کر کہنیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل سنت کے صریح خلاف ہے۔ علاوہ ازیں یہ طریقہ تواضع والا نہیں ہے بلکہ متکبرین کا طریقہ ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور تواضع کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔

2.7: نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے

حدیث نمبر 45: حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَمِيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاِئِلِ بْنِ مُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ".

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ج 3 ص 320-322 رقم 3959 المؤلف:

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى 235هـ) المحقق: محمد عوامة الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچی. الطبعة: الثانية 1428هـ)

(شيخ محمد عوامة فرماتے ہیں: هذا اسناد صحيح. ابن أبي شيبة ج 3 ص 320؛ علامہ نیوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسنادہ صحيح، آثار السنن ص 111 طبع مکتبۃ البشرى كراچى)

ترجمہ حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ اپنے والد یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے فرمایا: "میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ نماز میں آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔"

نوٹ یہ حدیث سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔ اس سند کے سارے راوی کوئی ہیں اور کوفہ میں عملی تو اتر بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔

حدیث نمبر 46: حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْكُفِّ عَلَى الْكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتِ السُّرَّةِ».

(سنن ابوداؤد ج 1 ص 287 رقم 756 - طبع دارالمعرفہ، بیروت 1422ھ)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز میں (دائیں ہاتھ کی) ہتھیلی کو (بائیں ہاتھ کی) ہتھیلی (کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔“

حدیث نمبر 47: حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ لُؤَيْنٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدِ السُّوَائِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضَعُ الْأُكُفِّ عَلَى الْأُكُفِّ تَحْتِ السُّرَّةِ».

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1 ص 109 رقم 875. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى 241هـ). الناشر: بيت الأفكار الدولية، الأردن. الطبعة: الرابعة، 2010ء)

تخریج وأخرجه الدارقطني 186/1، ومن طريقه البيهقي 31/2 من طريق أبي كريب، عن يحيى بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (756) من طريق حفص بن غياث، والدارقطني 186/1 من طريق أبي معاوية، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق به.

وأخرجه الدارقطني 186/1، ومن طريقه البيهقي 31/2 من طريق حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد عن علي والنعمان بن

سعد مجهول لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق.

قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" 91/3: واختلف في موضع الوضع فعنه (أى: عن الإمام أحمد): فوق السرة، وعنه تحتها، وعنه أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل، كل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٢٢ ص ٢٢٢ رقم 875. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ٢٤١هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز میں (دائیں ہاتھ کی) ہتھیلی کو (بائیں ہاتھ کی) ہتھیلی (کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔“

حدیث نمبر 48: حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن زائدة أبو سعيد، عن عبد الرحمن بن اسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي، قال: إنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأُكْفِ عَلَى الْأُكْفِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص ٤٢، ٤٣ رقم ٢٦٠. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى ٢٤١هـ) المحقق:

زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز میں (دائیں ہاتھ کی) ہتھیلی کو (بائیں ہاتھ کی) ہتھیلی (کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔“

حدیث نمبر 49: حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن اسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي رضي الله عنه قال: ”مِنَ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ

الأیدی علی الأیدی تَحْتِ السُّرْرِ.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج ۳ ص ۳۲۲ رقم 3966. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسی رحمته (المتوفى ۲۳۵هـ). المحقق: محمد عؤامة. الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچی. الطبعة: الثانية ۴۲۸هـ)

(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ج ۳ ص ۹۳ رقم 1290. المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمته (المتوفى ۳۱۹هـ). تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار طيبة، الرياض، السعودية. الطبعة: الأولى ۳۰۵هـ)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز میں دائیں ہاتھ (کی ہتھیلی) کو بائیں ہاتھ (کی ہتھیلی کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔“

حدیث نمبر 50: حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَعِيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، قَالَ: ”وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتِ السُّرَّةِ مِنَ السُّنَّةِ.“

(أحكام القرآن الكريم، ج ۱ ص ۱۸۵ رقم ۳۲۷. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمته (المتوفى ۳۲۱هـ). تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال. الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول. الطبعة: الأولى ۴۱۶هـ)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز میں دائیں ہاتھ (کی ہتھیلی) کو بائیں ہاتھ (کی ہتھیلی کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔“

حدیث نمبر 51:- حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ".

(السنن الكبرى، ج ۲ ص ۲۸ رقم 2341, 2342. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى ۳۵۸هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳هـ).

(الخلافات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، ج ۲ ص ۲۵۲، ۲۵۵ رقم 1485، 1486. المؤلف: أبو بكر البيهقي رحمته (384هـ - 458هـ). تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال. الناشر: الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولى 1436هـ - 2015م).

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز میں دائیں ہاتھ (کی ہتھیلی) کو بائیں ہاتھ (کی ہتھیلی کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔“

حدیث نمبر 52:- حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ".

(سنن الدارقطني، ج ۲ ص ۳۵ رقم ۱۱۰۳ المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمته (المتوفى ۳۸۵هـ) حقه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد

اللطف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان
الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ھ

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھے۔“

نوٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس بارے میں صریح ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ (کی ہتھیلی) کو بائیں ہاتھ (کی ہتھیلی کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا ہی سنت ہے۔

حدیث نمبر 53:۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدثنا مسدد، أخبرنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن اسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: قال ابو هريرة: أخذ الأُكْفَ عَلَى الْأُكْفِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ الشُّرَّةِ.

(سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۸۷ رقم 758 - طبع دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۲ھ)

(المحل بالآثار، ج ۳ ص ۳۰، المؤلف: أبو محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم)

الأندلسی القرطبی الظاہری رحمہ اللہ (المتوفی ۴۵۶ھ)، الناشر: دار الفکر، بیروت)

ترجمہ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔“

حدیث نمبر 54:۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ الشُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ.

وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: تَحْتَ الشُّرَّةِ أَقْوَى فِي الْخَبِيثِ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ.

(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ج ۳ ص ۹۴ رقم 1291. المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمته الله (الوفى ۳۱۹ھ). تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار طيبة، الرياض، السعودية. الطبعة: الأولى ۱۴۰۵ھ).

(المخلافات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، ج ۲ ص ۲۵۵ رقم 1487. المؤلف: أبو بكر البيهقي رحمته الله (384 هـ - 458 هـ). تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال. الناشر: الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولى 1436 هـ - 2015 م).

ترجمہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز کی (ایک) سنت دائیں ہاتھ کو (بائیں) ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔“

☆

یہی قول حضرت سفیان ثوری رحمته الله اور اسحاق رحمته الله کا ہے۔ اور حضرت اسحاق بن راہویہ رحمته الله نے یہ فرمایا: ”ناف کے نیچے کی حدیث زیادہ قوی ہے اور تو وضع کے بھی زیادہ قریب ہے۔“

فائدہ

حضرت سفیان ثوری رحمته الله فقیہ ہونے کے علاوہ بڑے محدث بھی ہیں۔ اور محدث و فقیہ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمته الله کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کو قوی تر اور تو وضع کے زیادہ لائق قرار دینا ان کے نزدیک اس حدیث کے نقلاً و عقلاً معتبر و مستند ہونے کی دلیل ہے۔

حدیث نمبر 55:- حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ الشُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ... وَسَقَطَ مِنَ الْحَدِيثِ الْيَدُ الْيُسْرَى.

(أحكام القرآن الكريم، ج ۱ ص ۱۸۵ رقم ۳۲۸. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن

سلامة بن عبد الملك بن سئمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي رحمه
(المتوفى ٣٢١هـ). تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال. الناشر: مركز البحوث

الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي . استانبول. الطبعة: الأولى ١٣١٦هـ)

ترجمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی (ایک) سنت دائیں ہاتھ کو (بائیں) ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔

نوٹ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس بارے میں صریح ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ (کی ہتھیلی) کو بائیں ہاتھ (کی ہتھیلی کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا ہی سنت ہے۔

حدیث نمبر 56: حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ

ذَكَرَ الْأَثْرُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
عَاصِمِ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَبَانَ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. قَالَ: وَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ الشُّرَّةِ.

(التبهيدي لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ج ٢٠ ص ٤٨. المؤلف: أبو عمر يوسف بن
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي رحمه (المتوفى ٤٦٣هـ). تحقيق:
مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف
والشؤون الإسلامية. المغرب ١٣٨٤هـ).

(الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. ج ٢ ص ٢٥٣ رقم 1481
المؤلف: أبو بكر البيهقي رحمه (384 هـ - 458 هـ) تحقيق ودراسة: فريق البحث
العلمي بشركة الروضة. بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال. الناشر:
الروضة للنشر والتوزيع. القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى 1436
هـ - 2015 م)

ترجمہ حضرت عقبہ بن صہبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر میں فرماتے ہوئے سنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھیں۔

نوٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ (کی

ہتھیلی) کو بائیں ہاتھ (کی ہتھیلی کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنا ہی قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے۔

حدیث نمبر 57: حدیث مرسل حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ

محمدٌ قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حمادٍ، عن ابراهيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يعتمدُ باحدى يديه على الأخرى في الصلاة، يتواضعُ لله تعالى. قال محمد: ويضعُ بطنَ كفه الأيمنِ على رُسغِه الأيسرِ تحتَ السُّرَّةِ، فيكونُ الرُّسغُ في وَسْطِ الكفِّ.

(کتاب الآثار امام محمد ج ۱ ص ۱۴۰ رقم الحدیث ۱۲۰ طبع مکتبہ حقانیہ، پشاور)

ترجمہ

مشہور فقیہ و محدث حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ایک (یعنی دائیں) ہاتھ کو دوسرے (یعنی بائیں) ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع (اور عاجزی) اختیار کرتے ہوئے رکھ لیا کرتے تھے۔

حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کے گٹ پر ناف کے نیچے رکھ لے، جس سے اس کے بائیں ہاتھ کا گٹ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے درمیان آجائے گا۔“

فائدہ

نماز کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بندے کی طرف سے تواضع پر ہے۔ لہذا ہاتھ باندھنے کی جو حالت تواضع کے زیادہ قریب ہوگی اور اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہوگی۔ اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوگئی۔ چونکہ ناف کے نیچے مذکورہ طریقہ پر ہاتھ رکھنے میں بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ تواضع، عاجزی اور تعظیم پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے اس طریقے کو ترجیح دی ہے۔

حدیث نمبر 58: حدیث مرسل حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ

قَالَ: ثنا يُوْسُفُ بْنُ أَبِي يُوْسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى
عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ يَتَوَاضَعُ بِذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى.

(الأثار، ص ۶۷ رقم الحدیث ۳۳۲. المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب
بن سعد بن حبة الأنصاري رضی اللہ عنہ (الوفاء الناشر: دار
الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ مشہور فقیہ و محدث ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع (اور عاجزی) اختیار کرتے ہوئے رکھ لیا کرتے تھے۔

اس روایت کے تمام راوی معتبر ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تواضع و عاجزی کے زیادہ قریب اور غیروں نیز متکبرین کے طریقے و مشابہت سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت کے راوی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مروی ہے۔

حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سید التابعین ہیں۔ آپ دارالعلم کوفہ کے مفتی تھے۔ یہ شہر دارالعلم تھا۔ ہزاروں محدثین اور فقہاء کا مسکن تھا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہی پیدا ہوئے اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی جلالت علم کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے۔ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم ہی میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل اور فتویٰ نماز میں ناف کے نیچے ہی باندھنے کا تھا۔ لیکن کسی ایک صحابی نے اس پر انکار نہ فرمایا کہ یہ فتویٰ خلاف سنت ہے حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ سنت کے کس قدر شیدائی تھے۔ وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ اتباع سنت کے واسطے نچھاور کرنے کے لئے ہر آن تیار رہتے تھے۔ لیکن حضرت

ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور فتوے کے خلاف نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی آواز اٹھتی ہے، نہ تابعی رضی اللہ عنہ کی، نہ تبع تابعی رضی اللہ عنہ کی۔ نہ کوئی تقریر نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے خلاف ہوتی ہے۔ نہ کوئی رسالہ لکھا جاتا ہے، نہ تو کسی مسجد میں لڑائی جھگڑا کھڑا کر کے مناظروں کے چیلنج دیئے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جن کی روایت کو سینے پر ہاتھ رکھنے کی دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی اس وقت کوفہ میں موجود ہیں لیکن اس فتویٰ کے خلاف کوئی حدیث نہیں پڑھتے۔

نوٹ حضرت ابراہیم نخعی کی مرسل احادیث مرفوع کے حکم میں ہیں۔ اس کا بیان میری دوسری کتاب: "السُّنَّةُ الْغُرَّةُ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ الشُّرَّةِ (نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ)" کے باب نمبر 2 میں مفصل موجود ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں باب 6 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

حدیث نمبر 59: حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا اثر

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السَّرَّةِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

(کتاب الآثار امام محمد رقم الحدیث ۱۲۱ باب الصلاة قاعداً۔ وسندہ حسن)

ترجمہ مشہور فقیہ و محدث ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔

حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "یہی ہمارا مذہب ہے۔ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔" یہی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

حدیث نمبر 60: حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا اثر

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ.

(مصنف ابن ابی شیبہ طبع کراچی ۱۰/ ۳۹۰ طبع اول؛ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۲۲ رقم ۳۹۶۰ طبع ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۲۸ھ؛ علامہ نیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسنادہ حسن، آثار السنن ص ۱۱۲ طبع مکتبۃ البشریٰ کراچی) ترجمہ مشہور فقیہ و محدث حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نمازی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔“

حدیث نمبر 61: حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا اثر

قَالَ (عبد الرزاق): قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَرْقِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ السُّرَّةِ، يَعْنِي تَحْتَهَا.

(الأمالي في آثار الصحابة للحافظ الصنعاني. ص ۵۲ رقم ۵۳. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليمني الصنعاني (المتوفى ۲۱۱ھ). المحقق: مجدي السيد إبراهيم الناشر: مكتبة القرآن، القاهرة)

ترجمہ حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سعید رحمۃ اللہ علیہ سے، انھوں نے فرقید رحمۃ اللہ علیہ سے، انھوں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔

☆ لہذا اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ثقہ اور کبیر تابعی حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف پر امام اعظم محدث کبیر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول اور فتویٰ ہے۔ لہذا اس اثر کی حیثیت مزید ممتاز ہو جاتی ہے۔

حدیث نمبر 62: حضرت ابو جہل رحمۃ اللہ علیہ کا اثر

حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا الحجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلز. أو سألته. قال: قلت: كيف أصنع؛ قال: يضع باطن كف يمينه

على ظاهر كف شماله، ويجعلها اسفل من السرة.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۲۳ رقم ۳۹۶۳ طبع ثانی؛ علامہ نیوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسنادہ

صحیح، آثار السنن ص ۱۱۲ طبع مکتبۃ البشریٰ کراچی)

ترجمہ حجاج بن حسان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلز رحمہ اللہ سے سنا، یا ان سے پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کس طرح رکھوں؟ تو انھوں نے بتایا کہ دائیں ہتھیلی کے اندرونی حصہ کو بائیں ہتھیلی کے اوپری حصہ پر ناف سے نیچے رکھے۔

نوٹ حضرت ابو مجلز رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ انھوں نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے علم دین حاصل کیا ہے۔ ان کی یہ حدیث اس بارے میں صریح ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ (کی ہتھیلی) کو بائیں ہاتھ (کی ہتھیلی کی پشت) پر ناف کے نیچے رکھنے کا ہی حکم دیا ہے۔

2.7.1: محدث حضرت اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کی تصریح

نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث کے بارے میں مشہور محدث امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی رو سے یہی قوی اور بہتر ہے۔
حضرت امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال إسحاق: كما قال تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع.

(مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راہویہ، ج ۲ ص ۵۵۱، مسئلہ نمبر ۲۱۴۔
المؤلف: إسحاق بن منصور بن بہرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوجي
(المتوفى ۲۵۱ھ). الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۵ھ)

ترجمہ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرح ناف کے نیچے رکھنے کو اقویٰ فی الحدیث (حدیث کے لحاظ سے سب سے قوی) اور اقرب الی التواضع (خشوع خضوع کے زیادہ قریب) فرمایا ہے۔

۲ حضرت امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: تَحْتَ الشَّرِّهِ أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُّعِ.

(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ج ۳ ص ۹۳ تحت رقم ۱۲۹۱. المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمۃ اللہ علیہ (التونسي ۱۹۳۱ھ). تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار طيبة، الرياض، السعودية. الطبعة: الأولى ۱۴۰۵ھ)

ترجمہ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث کی رو سے انتہائی قوی اور تواضع کے انتہائی قریب ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث کو مضبوط سمجھتے تھے، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہے۔

2.8: ثناء پڑھنا

(10) تکبیر تحریمہ اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد دعائے استفتاح یعنی ثنا پڑھیں۔

حدیث نمبر 63: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوِيهِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ."

(الدعاء للطبرانی، ج ۱ ص ۷۳ رقم 506. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمۃ اللہ علیہ (التونسي ۱۹۶۰ھ). المحقق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۳ھ)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ كَانَ إِذَا كَثُرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي أُذُنَيْهِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوثِقُونَ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ٢ ص ١٠٤ رقم 2622. المؤلف: أبو الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى ٨٠٤هـ). المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ١٣١٢هـ)

(وقال العلامة النيموي: وإسناده جيد. آثار السنن: ص ١١٣)

حديث أنس فله عنه طريقان:

تحقيق

الأول: يرويه مخلد بن يزيد الحراني عن عائذ بن شريح عن أنس أن النبي صلى الله عليه

وسلم كان إذا استفتح الصلاة يكبر، ثم يقول: فذكره.

أخرجه الطبراني في "الدعاء" (505) و"الأوسط" (3063)

وقال: "لا يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به مخلد بن يزيد"

قلت: وإسناده ضعيف لضعف عائذ بن شريح.

الثاني: يرويه الفضل بن موسى السيناني عن حميد الطويل عن أنس قال: كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: فذكره.

أخرجه الطبراني في "الدعاء" (506) عن محمود بن محمد الواسطي ثنا زكريا بن يحيى

زحمويه ثنا الفضل بن موسى به.

ومحمود الواسطي ترجمه الذهبي في "السير" (14/ 242) وقال: الحافظ المفيد

العالم كان من بقايا الحفاظ ببلده.

والباقون كلهم ثقات، لكن لا أدري أسمع السيناني من حميد أم لا.

لكنه لم ينفرد به بل تابعه أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر عن حميد عن أنس به.

أخرجه أبو يعلى (3735) عن الحسين بن علي بن الأسود العجلي ثنى محمد بن الصلت

ثنا أبو خالد الأحمر به.

وأخرجه الدارقطني (300/1) عن يحيى بن محمد بن صاعد ثنا الحسين بن علي به.

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (483) وقال: "هذا إسناد كلهم

ثقات"

(أَنيس السَّارِي فِي تَخْرِيجِ وَتَحْقِيقِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَافِظُ ابْنُ تَجْرٍ الْعَسْقَلَانِي فِي فَتْحِ الْبَارِي، ج ٣ ص ٢٣٦٨ رقم 1686. المؤلف: أبو حذيفة. نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي. المحقق: نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة. الناشر: مؤسَّسة السَّباحة، مؤسَّسة الرِّيَّان، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو سبحانک اللہم الخ پڑھتے۔

حدیث نمبر 64:- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

(سنن نسائی: ص ١٣٣ رقم 899، 900، قال الالبانی: صحیح۔ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض؛ ابوداؤد رقم ٤٤٥؛ ابن ماجہ رقم ٨٠٦؛ مشکوٰۃ رقم ٨١٥)

تحقیق حدیث ابی سعید فأخرجه عبد الرزاق (2554) عن جعفر بن سليمان الضُّبَعِيِّ عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته كبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك. ثم يهلل ثلاثاً، ويكبر ثلاثاً، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم".

ومن طريقه أخرجه النسائي (102/2) وفي "الكبرى" (972) والطبراني في "الدعاء" (501) والمحاظ في "نتائج الأفكار" (412/1).

وأخرجه ابن أبي شيبة (232/1) وأحمد (50/3 و 69) والمؤمل بن إهاب في "جزئه" (28) والدارمي (1242) وحنبل بن إسحاق في "جزئه" (54) وأبو داود (775) وابن ماجه (804) والترمذی (242) وعبد الله بن أحمد في "زيادات الزهد" (ص 280) والنسائي في "الكبرى" (973) وابن خزيمة (467) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/1)

197-198, 198) والطبرانی فی "الدعاء" (501) وابن المقرئ فی "المعجم" (624) والدارقطنی (1/298-299) وتمام (117) والبیہقی (2/34) وفی "معرفة السنن" (2/348) وابن الجوزی فی "التحقیق" (484) وفی "العلل" (707) والذهبی فی "تذكرة الحفاظ" (2/459) والمخاف فی "نتائج الأفكار" (1/411-412) من طرق عن جعفر بن سلیمان الضبعی به.

زاد أبو داود وغيره من همزة ونفخه ونفثه، ثم يقرأ.

قال الترمذی: "حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث".

وقال أبو داود: "وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلًا، الوهم من جعفر".

وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات "المجمع" 238/4

وقال المخاف: هذا حديث حسن. وقد وثق علي بن علي ابن معين وأحمد وأبو حاتم وآخرون، وسائر رواه رواة الصحيح "نتائج الأفكار" 1/412-414

وقال الشيخ أحمد شاكر: الحديث حديث صحيح "سنن الترمذی" 2/11

قلت: الضبعی والرفاعي صدوقان والناجی ثقة، فالإسناد حسن.

(أنيس الساري في تخریج وتحقیق الأحاديث التي ذكرها المخاف ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 3 ص 12 13 14 15 رقم 1686. المؤلف: أبو حذيفة.

نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصرة الكويتي. المحقق: نبيل بن منصور بن يعقوب البصرة. الناشر: مؤسسه الساحة، مؤسسه الريان، بيروت -

لبنان. الطبعة: الأولى (1426هـ)

ترجمہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو سبحانک اللہم الخ پڑھتے۔

حدیث نمبر 65:- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمَلَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ

عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

تحقيق

صحيح لغيره. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن عبد السلام بن حرب - وإن كان ثقة - له مناكير. وقد انفرد به من بين أصحاب بديل كما قال المصنف. أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربيعي.

وأخرجه الترمذي (241). وابن ماجه (806) من طريق حارثة بن أبي الرجال. عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشة. وحارثة فيه كلام من جهة حفظه وانظر شواهدة فيما قبله.

(سنن أبي داود ج ٢ ص ٨٣ رقم 776. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: ٢٤٥هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى ١٣٣٠هـ)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

التعليق - من تلخيص الذهبي - على شرطهما

(المستدرک علی الصحیحین ج ١ ص ١٩٤ رقم ٣٨٤. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى ١٣١٥هـ)

حديث عائشة فله عنها طرق:

تحقيق

الأول: يرويه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، فكبّر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".

أخرجه إسحاق في "مسند عائشة" (1000) وابن ماجه (806) والترمذي (243)

وابن خزيمة (470)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (226) وابن المنذر في الأوسط (81-82/3)، والطحاوي في شرح المعاني (198/1) والعقيلي (288/1) - 289) وابن الأعرابي (ق 163/أ) والطبراني في الدعاء (502) وابن عدي (2/617) والدارقطني (301/1) والحاكم (235/1) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/46) والبيهقي (34/2) وفي معرفة السنن (346/2) والخطيب في الموضح (66/2) والبعثي في شرح السنة (573) ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في المشيخة الكبرى (331) وابن عساكر في معجم الشيوخ (1518) والمزني (5/315) - 316) والمافظ في نتائج الأفكار (408/1)

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه.

وقال ابن خزيمة: -وحارثة بن محمد ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه-

وقال العقيلي: -روى هذا الحديث من غير هذا الوجه بأسانيد جيدة-

وقال البيهقي في المعرفة: -وحارثة بن محمد ضعيف لا يحتج به، ضعفه ابن معين وأحمد والبخاري وغيرهم-

وقال في الكبرى: وهذا لم نكتبه إلا من حديث حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف-

وقال ابن الجوزي: ونحن لا نرضى طريق حارثة، فإنه ضعيف عند الكل -التحقيق: 288/1-

وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد.

وقال الذهبي: صحيح وفي حارثة لين.

قلت: هو متروك الحديث كما قال النسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة.

الثاني: يرويه بديل بن ميسرة البصري عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك

اسمك، وتعالى جنتك ولا إله غيرك.

أخرجه أبو داود (776) والدارقطني (299/1) والبيهقي في المعرفة (2/347) -

348) وابن الجوزي في التحقيق (485) عن حسين بن عيسى البسطامي

والحاكم (1/235) والبيهقي (2/33-34) والمحافظ في نتائج الأفكار (1/406).

407) عن العباس بن محمد الدوري

قالا: ثنا طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حرب المُلَائي عن بديل بن ميسرة به.
قال أبو داود: "وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه
إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئاً
من هذا".

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"

وتعقبه المحافظ في "نتائج الأفكار" فقال: قلت: رجاله من رجالها في الجملة،
وليس على شرط واحد منهما، فإن حسين بن عيسى هو البسطامي وطلق بن غنام
جميعاً من شيوخ البخاري، وليس لواحد منهما شيء في صحيح مسلم، وأبو الجوزاء
واسمه أوس بن عبد الله وإن أخرج له الشيخان فروايتهم عن عائشة عند مسلم
خاصة. وقد ذكر بعضهم أنه لم يسمع منها. والراوى عنه بديل بن ميسرة من
رجال مسلم دون البخاري، وعبد السلام من رجالها جميعاً.

وحكى عن شيخه العراقي أنه قال: "رجالها ثقات".

وقال في "التلخيص" (1/229): "ورجال إسنادة ثقات لكن فيه انقطاع".

الثالث: يرويه أبو عامر سهل بن عامر البجلي ثنا مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح عن
عائشة بمثل حديث أبي الجوزاء.

أخرجه الطبراني في "الدعاء" (503) والدارقطني (1/301).

قال المحافظ: هذه الطريق ضعيفة وسهل بن عامر متروك. نتائج الأفكار (1/409).

410

(أنيس الساري في تخریج و تحقیق الأحادیث التي ذكرها المحافظ ابن حجر
العسقلاني في فتح الباري ج 3 ص 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ انْطَرِ هَتَّى -

حدیث نمبر 66:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَجْهَرُ بِأَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ... (صحیح مسلم رقم: 52-399)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ..

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: نَا وَكَيْعٌ، قَالَ: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ..

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: نَا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالُوا لَهُ: "احْفَظْ لَنَا مَا اسْتَطَعْتَ". فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: فِيمَا حَفِظْتُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ، وَنَتَرَ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا كَبَّرَ، أَوْ فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ..

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 208، 209 رقم 2387-2390 المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى 235هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد الرياض، الطبعة: الأولى، 1409هـ)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذِي الْحَلِيفَةِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ،

وَتَعَالَى جَدُّكَ.

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۱۹۸ رقم ۱۱۷۵ المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی (المتوفى ۳۲۰هـ) حققه وقدم له: محمد زهری النجار. محمد سید جاد الحق من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلی. الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۳۱۳هـ)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا يَحْيَى بْنُ أَنبَاءٍ مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

(المستدرک علی الصحیحین ج ۱ ص ۳۶۱ رقم ۸۶۰ المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى ۴۰۵هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى ۱۳۱۳هـ)

ترجمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (بغرض تعلیم کبھی کبھی) ان کلمات یعنی

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
کو بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے۔
مشہور غیر مقلد علامہ شوکانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاخْتِيَارُ هَؤُلَاءِ يَعْني الصَّحَابَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ بِهَذَا الْاِسْتِفْتَا حَ وَجَهْرُ عُمَرَ بِهِ اَحْيَانًا مَعْظَمٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لِتَعْلِيْمِهِ النَّاسَ مَعَ اَنَّ السُّنَّةَ اِخْفَاؤُهُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ الْاَفْضَلُ. وَاَنَّهُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ غَالِبًا. وَاِنَّ اسْتِفْتَا حَ بِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ اَوْ اَبُو هُرَيْرَةَ فَحَسَنٌ لِصِحَّةِ الرَّوَايَةِ. اَنْتَهٰی.

(نیل الأوطار ج ۲ ص ۲۲۸ المؤلف: محمد بن علی بن محمد بن عبد الله الشوكاني
اليمنى (المتوفى: 1250 هـ) تحقيق: عصام الدين الصبايطي الناشر: دار
الحديث، مصر الطبعة: الأولى 1413 هـ - 1993 م)

ترجمہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ابوالبرکات عبدالسلام بن عبداللہ المعروف بابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنتقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کی روایتوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا دعائے استفتاح کے لئے **اللَّهُمَّ اَلْحِ** کا اختیار کرنا نیز دعائے استفتاح کو آہستہ پڑھنے کے مسنون ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو سکھانے کی غرض سے کبھی کبھی اسے بلند آواز سے پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ **اللَّهُمَّ اَلْحِ** کا پڑھنا ہی افضل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں اسی پر مداومت فرماتے تھے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس کے بجائے وہ دعا پڑھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تو بھی خوب ہے، کیونکہ یہ دعائیں بھی ثابت ہیں۔

2.9: تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھیں

اگر امامت کر رہے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو ثنا سے فارغ ہو جانے پر آہستہ آواز میں **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** پڑھیں۔

آیت نمبر 1:- **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** ○
(النحل: ۹۸)

ترجمہ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطانِ رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔

حدیث 67:- **حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الْفَاتِحَةِ: 2**

تحقیق إسنادہ صحیح علی شرط الشیخین

وأخرجه أبو يعلى (2980) من طريق إسماعيل ابن عليه. بهذا الإسناد وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (121). وأبو يعلى (2981) و (2984) و (3131). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 202/1. وأبو عوانة 122/2. وابن حبان (1798) و (1803) من طريق سعيد بن أبي عروبة. به- وقرن ابن حبان في الموضوع الأول بسعيد حميداً الطويل.

وأخرجه الحميدي (1199). والبخاري في "جزء القراءة" (124). والترمذي (246). والنسائي 133/2. وابن ماجه (813). وابن خزيمة (491) من طريق أبي عوانة اليشكري. عن قتادة. به.

وأخرجه البخاري في "جزء القراءة" (120). ومسلم (399) (52). والطحاوي 203/1 من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. والبخاري (128) من طريق مالك بن دينار. والطحاوي 203/1 من طريق محمد بن سيرين والحسن البصري ومحمد بن نوح. خمستهم عن أنس بن مالك.

والحديث بهذا اللفظ سيأتي عن قتادة بالأرقام (12084) و (12135) و (12887) و (13125) و (13337) و (13680) و (13890) و (13891) و (14077). وعن قتادة وثابت برقم (13103). وعن قتادة وثابت وحميد برقم (12714) و (14051).

وسياتي بلفظ "لم أسمع أحداً يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم" عن قتادة. عن أنس بالأرقام (12810) و (12845) و (13337) و (13892) و (13915). وعن ثابت برقم (13784). وعن أبي نعامه الحنفى برقم (13259).

قال الإمام البيهقي في "شرح السنة" 54/3: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية. بل يُسرُّ بها. منهم أبو بكر وعمر. وعثمان. وعلى وغيرهم. وهو قول إبراهيم النخعي. وبه قال مالك. والثوري. وابن المبارك. واحمد. وإسحاق. وأصحاب الرأي. وروى عن عبد الله بن مغفل قال: سمعتُ أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أي بُني. إياك والمحدث. قد صليت مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومع أبي بكر. ومع عمر. ومع عثمان. فلم أسمع أحداً منهم يقولها. فلا تقلها. إذا أنت صليت. فقل: (الحمد لله رب العالمين). أخرجه أحمد

85/4، والنسائی 135/2، والترمذی (244)، وحسنه.

ونهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاحة والسورة جميعاً. وبه قال من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جبیر، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، واحتجوا بحديث ابن عباس: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الترمذی (245) وقال: وليس إسنادة بذلك. وقال العقيلي: ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث. وانظر "نصب الراية" 1/330-332.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 19 ص 199 رقم 11991 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني عمه (الترغيب والترهيب) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى 1421هـ)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "رسول اللہ ﷺ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (نماز میں) قراءت "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" کے ساتھ شروع فرماتے تھے۔"

حدیث نمبر 68:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ الْفَاتِحَةَ: 1. (صحیح مسلم رقم: 50-399)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے ان حضرات میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے (اوپنی آواز سے) نہیں سنا۔"

حدیث نمبر 69:- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

”صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ. وَعُمَرَ. وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ: بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَاتِحَةَ: 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيتكرر برقم (13915).

تحقیق

وأخرجه ابن خزيمة (495). والدارقطني 315/1 من طريق وكيع بن الجراح بهذا الإسناد. وانظر (12810).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 20، ص 219، رقم 12845. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ).

ترجمہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز ادا کی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ یہ سب حضرات نماز میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔“

حدیث نمبر 70:- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي الصَّلَاةِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

(صحيح ابن خزيمة، ج 1، ص 249، رقم 498. المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري رحمته (المتوفى 311هـ). حقيقه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة: الثالثة، 1423هـ).

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

[1]

رَوَاهُ الظَّهْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوثِقُونَ.

تجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 2، ص 108، رقم 2631. المؤلف: أبو الحسن نور الدين

علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۵۸۰ھ) المحقق: حسام الدین القدسی. الناشر: مكتبة القدسی، القاهرة ۱۴۱۳ھ

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے۔“

حدیث نمبر 71:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

(المصنف، ج ۲ ص ۸۶ رقم 2589 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 211ھ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمۃ اللہ علیہ. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية. 1403)

ترجمہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھتے تھے۔“

حدیث نمبر 72:- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَاءِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، بِهَا، أَنبَأَ أَبُو سَهْلٍ بِشَرِّ بْنِ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ حَمَزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، ثنا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ الْخُزَاعِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ». ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». ثُمَّ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَدَأَ لَهُ مِنَ الْقُرْآنِ».

(السنن الكبرى، ج ۲ ص ۵۳ رقم 2358 المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۳۵۸ھ). المحقق: محمد عبد

القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة: الثالثة ۱۴۲۳ھ)

(سنن دارقطنی: ج ۲ ص ۶۲ رقم 1147؛ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲ رقم ۱۲۲۱)

طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۳۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ مشہور تابعی اسود بن یزید نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ عظیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر سبحانک اللہم الخ پڑھتے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ کہتے۔

حدیث نمبر 73:- وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: ”كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِالتَّعْوِيدِ وَلَا بِالتَّأْمِينِ“.

رَوَاهُ الظَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَالُ وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۲ ص ۱۰۸ رقم 2632 المؤلف: أبو الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رضی اللہ عنہ (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۳۱۳ھ)

ترجمہ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بسم اللہ، اعوذ باللہ اور آمین کو بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔

2.10:- قراءتِ قرآن

(12) تعوذ و تسمیہ کے بعد فرض کی پہلی دو رکعتوں اور بقیہ سب نمازوں کی کل رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا کم از کم تین چھوٹی یا ایک بڑی آیت پڑھیں۔

آیت نمبر 1:- فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: ۲۰)

ترجمہ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔

حدیث نمبر 74:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ

حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ“ (مسلم رقم 42-396)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بغیر قراءت کے کوئی نماز نہیں۔“

حدیث نمبر 75:- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي

نُضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: "أَمَرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَبِعَتْ."

إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاہم

تحقیق

البصری، وھمام: هو ابن یحیی العوذی، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة.

وصحیح إسناده الحافظ ابن سید الناس، والحافظ ابن حجر.

وأخرجه عبد بن حميد (879)، والبخاری فی "القراءة خلف الإمام" (16)، والبيهقي

60/2 من طریق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (10998) و(11415) و(11922)، وأبو يعلى (1210)، وابن حبان

(1790)، والبيهقي 60/2 من طرق عن همام، به.

وأخرجه ابن ماجه (839)، والترمذی (235) من طریق أبي سفيان السعدی، عن

أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ ب (الحمد لله) وسورة في

فريضة أو غيرها". وسنده ضعيف لضعف أبي سفيان السعدی.

(سنن أبي داود، ج 2 ص 111، 112 رقم 818. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن

إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 245هـ).

المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلي. الناشر: دار الرسالة العالمية.

الطبعة: الأولى، 1433هـ)

ترجمہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "ہمیں (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

سے) حکم دیا گیا ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ میسر ہو پڑھیں۔"

حدیث نمبر 76:- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ،

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رِوَايَةً يَبْلُغُ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا

صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ."

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

تحقیق

وأخرجه الحميدى (386)، وابن أبي شيبة 360/1، والبخارى فى "الصحيح" (756).

وفى "القراءة خلف الإمام" (2) و(299)، وفى "خلق أفعال العباد" (520) و(521)

و(522)، ومسلم (394) (34)، وأبو داود (822)، وابن ماجه (837)، والترمذی

(247). والنسائی 137/2. وابن الجارود (185). وابن خزيمة (488). وأبو عوانة (6664). والشاشی فی "مسنده" (1277) و (1278). وابن حبان (1782). والدارقطنی 321/1 و 322. والحاکم 238/1. والبیہقی فی "السنن الکبریٰ" 38/2 و 164. وفی "القراءة خلف الإمام" (17-21). والبعغوی (576) من طریق سفیان بن عیینة. بهذا الإسناد.

وزاد أبو داود فیہ: فصاعداً. وهذه الزیادة ستأتی برقم (22749). ولفظه عند الدارقطنی 322/1. والحاکم. والبیہقی فی "القراءة" (21): "أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضاً".

وأخرجه الدارمی (1242). والبخاری فی "القراءة" (6). ومسلم (394) (34). وأبو عوانة (1667) و (1699). والشاشی (1276). والطبرانی فی "الصغیر" (211). والدارقطنی 322/1. والبیہقی فی "السنن" 61/2 و 164. وفی "القراءة" (22) و (23) و (25) و (26) و (29) و (30) و (31) و (32) و (135) من طرق عن الزهري. به. وسيأتی من طریق الزهري برقم (22743) و (22749).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣٤ ص ٣٥١ رقم 22678 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى ٢٤١هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ١٤٢١هـ)

ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔"

حدیث نمبر 77:- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ، الَّذِي فَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِنْ بَطْنِهِمْ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا.
(مسلم رقم 37-394)

ترجمہ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ اور (اس کے بعد قرآن میں سے) کچھ اور نہ پڑھے۔“

حدیث نمبر 78: - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وَهَيْبٌ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا». وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: ثنا مَعْمَرٌ بِهَذَا.

(خلق أفعال العباد، ص ۱۰۶۔ المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ). المحقق: د. عبد الرحمن عميرة الناشر: دار المعارف السعودية - الرياض)
(خلق الأفعال العباد امام بخاری ص ۱۶۸، ۱۶۹ رقم ۵۲۳، ۵۲۵۔ تحقیق بدرالبدور، طبع الدار السلفية، کویت، ۱۴۰۵ھ)

ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ اور (اس کے بعد قرآن میں سے) کچھ اور نہ پڑھے۔“

حدیث نمبر 79: - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا».

(مستخرج أبي عوانة ج ۱ ص ۴۰ د ۱۶۶۵ المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى ۳۱۶ھ) تحقيق: أمين بن عارف الدمشقي الناشر: دار المعرفة، بيروت الطبعة: الأولى ۱۴۱۹ھ)

(مسند ابوعوانہ ج ۱ ص ۳۵۵ رقم ۱۳۱۹ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ اور (اس کے بعد قرآن میں سے) کچھ اور نہ پڑھے۔“

حدیث نمبر 80:- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا.

(احکم الألبانی، صحیح نسائی ص ۱۵۱ رقم ۹۱۱ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض ۱۴۲۹ھ)

ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ اور (اس کے بعد قرآن میں سے) کچھ اور نہ پڑھے۔“

حدیث نمبر 81:- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا. قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ.

تحقیق إسناد صحیح. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله أبو الطاهر المصري وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) (34)، وابن ماجه (837)، والترمذي (245)، والنسائي في الكبرى (984)، و(7955) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- وليس فيه عندهم "فصاعداً".

وأخرجه مسلم (394) (35) من طريق يونس بن يزيد و (36) من طريق صالح ابن كيسان ومسلم (394) (37)، والنسائي (985) من طريق معمر، ثلاثهم عن الزهري به- زاد معمر في روايته: "فصاعداً".

(سنن أبي داود ج ۲ ص ۱۱۵ رقم 822 المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق

بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: ٤٥٢هـ) المحقق:
شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلی الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة:
الأولى، ١٣٣٠هـ)

ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”جو شخص سورۃ فاتحہ اور اس کے آگے کچھ اور نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔“
حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں: ”یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے، جو اکیلا
نماز پڑھ رہا ہو۔“

حدیث نمبر 82: - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن
عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: ”لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ
بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا“ .

(مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٩٣ رقم ٢٦٢٣ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه، كراچي؛ مصنف عبد
الرزاق ج ٢ ص ٦١ رقم ٢٦٢٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠١٠ء)

ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس
شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ اور (اس کے بعد قرآن میں سے) کچھ اور نہ
پڑھے۔“

حدیث نمبر 83: - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
الرَّبِيعِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ”لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا“ .
تحقیق: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وہو فی ”مصنف“ عبد الرزاق (2623)، ومن طریقہ أخرجه مسلم (294) (37)،
وأبو عوانة (1665)، وابن حبان (1786) و(1793)، والبيهقي في السنن 374/2،
وفي القراءة خلف الإمام (27) و(28)، والبخاري (577).

قال ابن حبان: قوله: ”فصاعداً“، تفرد به معمر عن الزهري دون أصحابه. قلنا: بل
هو متابع في ذلك كما سيأتي.

وأخرجه البخاري في ”خلق أفعال العباد“ (524) من طريق وهيب، والنسائي

137/2-138 من طریق عبد الله بن المبارك. كلاهما عن معمر.

وعلقه البخاری فی "القراءة خلف الإمام" ص 8، وقال: وعامة الثقات لم يتابع معبراً في قوله: "فصاعداً" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: "فصاعداً" غير معروف، ما أراد به حرفاً أو أكثر من ذلك؛ إلا أن يكون كقوله: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً" فقد تقطع اليد في دينار، وفي أكثر من دينار.

وأخرجه أبو داود (822) من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي في "القراءة" (29) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، و (30) من طريق الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة، أربعهم عن الزهري، به - وفيه لفظة: فصاعداً. قال البخاری في "القراءة": عبد الرحمن يعني ابن إسحاق- ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. قلنا: لم ينفرد به عبد الرحمن بن إسحاق كما سبق.

وانظر (22671).

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (9529)، ولفظه: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد".

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (10998)، ولفظه: أمرنا نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وإسناده صحيح.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 312، رقم 22749، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، (المتوفى 241هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ)

(مسند أحمد ج 2، ص 332، رقم 23129، طبع بيت الأفكار الدولية، لبنان، 2010، طبع رابع)

ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اس

شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ اور (اس کے بعد قرآن میں سے) کچھ اور نہ

پڑھے۔"

حدیث نمبر 84:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا

هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسَبِّعُنَا الْآيَةَ أحيانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

(صحیح بخاری رقم: 762؛ صحیح مسلم رقم: 155-451، واللفظ له)

ترجمہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے تھے۔ کبھی ہمیں سورت کی کوئی آیت سنا دیتے تھے۔ اور آخری دو رکعتوں میں سورت فاتحہ ہی پڑھتے تھے۔“

باب 3

ترکِ قراءت خلف الامام

مسئلہ اگر امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں۔ خود قراءت نہ کریں بلکہ امام کی قراءت کی جانب خاموشی کے ساتھ دھیان لگائے رکھیں۔

3.1: نماز میں قراءت قرآن کے وقت سننا اور خاموش

رہنا واجب ہے

آیت 1:- **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** ○

(الاعراف: ۲۰۴)

ترجمہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

فائدہ یعنی قراءت جہری ہو رہی ہو، تب تو کان لگا کر غور سے سنو۔ اگر تمہیں قراءت قرآن کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو، قراءت سری ہو رہی ہو، یعنی امام پست آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ جیسا کہ سری نمازوں یعنی ظہر و عصر میں ہوتی ہے، یا قراءت تو بالجمہر ہی ہو لیکن تم لوگ امام یا قاری سے دور ہونے کی وجہ سے قراءت سننے پر قادر نہ ہو، تب بھی تم ضرور خاموش رہا کرو، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔

3.1.1: رسول اللہ ﷺ سے آیت کریمہ کی تفسیر

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں ”باب تأویل قوله عز وجل
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ کا عنوان باندھ
کر اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی ہے:

حدیث 1:- أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا
كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا“۔ الحدیث

(سنن نسائی رقم 921، 922؛ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نسائی بتحقیق علامہ
البانی ص ۱۵۲ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”امام اس لیے مقرر
کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اور جب وہ
قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ۔“

☆ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ
نے رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث ”اذا قرأ فانصتوا“ (جب امام قراءت کرے
تو تم مقتدی خاموش رہو) کو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اور تاویل میں نقل کر کے
یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچا دی ہے کہ گویا رسول اللہ ﷺ بھی قرآن کی اس آیت کا
نزول نماز اور نمازیوں کے حق میں ہی بیان فرماتے ہیں۔

(أَحْسَنُ الْكَلَامِ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، ص ۱۲۱۔ المؤلف: حضرت مولانا محمد سرفراز
خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ (التونى ۱۴۳۰ھ)۔ الناشر: مکتبہ صفدریہ، نزد مدرسہ نصرۃ العلوم، گھنٹہ گھر، گوجرانوالہ۔ طبع
11، اپریل ۲۰۰۹ء)

☆ حضرت مولانا عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اس باب میں اس حدیث کے لائن میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بتا گئے ہیں کہ آیت

کریمہ: ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“ کا اصل نزول مسئلہ امامت ہے۔ اور ”وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا“ کا فرمودہ جملہ حدیث میں اسی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ گویا یہ حدیث شریف اس آیت سے ماخوذ ہے۔ باب تاویل کا یہی معنی ہے۔ تاویل کا معنی مصداق اور تفسیر ہے۔ هَذَا تَأْوِيلٌ رُوِيَ فِي مِثْلِ هَذِهِ مَعْنَى هِيَ“۔ (تدقیق الکلام ج ۱ ص ۳۹)

3.1.2:- تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

اثر 1:- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا الْمُعَارِبِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بَشِيرِ (يُسَيْرِ) بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَمِعَ نَاسًا، يَقْرَأُونَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: ”أَمَا أَنْ لَكُمْ أَنْ تَفْقَهُوا؛ أَمَا أَنْ لَكُمْ أَنْ تَعْقِلُوا؟“ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“ [الأعراف: 204] كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ“.

(تفسیر الطبری = جامع البیان عن تأویل آی القرآن ج ۱۰ ص ۶۵۹۔ المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الأملی، أبو جعفر الطبری رحمہ اللہ (التونی ۳۱۰ھ)۔ تحقیق: الدكتور عبد اللہ بن عبد المحسن التركي۔ بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة۔ الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان۔ الطبعة: الأولى، ۱۴۲۲ھ) (صحیح۔ رجالہ ثقات من رجال الجماعة۔ اعلاء السنن ج ۳ ص ۵۲؛ احسن الکلام ج ۱ ص ۱۲۲-۱۲۵)

ترجمہ حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بعض لوگ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○
جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا اور خاموش رہو۔ اس کے باوجود تم اس

بات کو نہیں سمجھتے، کیا اب بھی تمہارے سمجھنے کا وقت نہیں آیا؟“۔

فائدہ یہ روایت وضاحت سے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قراءت کر رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو عقل و فہم سے کام نہ لینے پر تنبیہ کرتے ہوئے قراءت سے منع کیا اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو استماع اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ جو امام کے ساتھ اس کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہوں۔

فائدہ اس حدیث کے راوی حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن حبان رضی اللہ عنہ ان کو ثقات میں لکھتے ہیں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ ان کو من ثقات اصحاب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ ان کو صحابی بتلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اہل میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔

(تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۷۹۳ رقم 738)

حافظ ابو عمر بن عبد البر رضی اللہ عنہ بھی ان کو صحابی بتلاتے ہیں

(الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ج ۲ ص ۱۵۸۳ رقم 2811)

تنبیہ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر کے بعض نسخوں میں کاتب کی غلطی سے بشیر بن جابر لکھا گیا ہے، جو قطعاً غلط ہے۔ مسند احمد (رقم 3643)، مسند طیالسی (رقم 392) اور صحیح مسلم (رقم 37- (2899)؛ 37) کی سندوں میں یسیر بن جابر رضی اللہ عنہ ہی آیا ہے، جو صحیح ہے۔ مزید تشریح کے لیے نووی شرح مسلم (ج ۱ ص ۳۹۲ طبع قدیمی کراچی) اور تجرید اسماء الصحابة للذہبی رضی اللہ عنہ (ج ۲ ص ۱۵۳) وغیرہ کی طرف مراجعت کیجیے۔

(أَحْسَنُ الْكَلَامِ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، ص ۱۲۵۔ المؤلف: حضرت مولانا محمد سرفراز

خان صفدر رضی اللہ عنہ (التونى ۱۳۳۰ھ)۔ الناشر: مكتبة صفدرية، نزد مدرسہ نصرۃ العلوم، گھنٹہ گھر، گوجرانوالہ۔ طبع

11، اپریل ۲۰۰۹ء)

اثر 2: - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: "أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ".

(المصنف، ج ٢ ص ١٣٤ رقم 2803. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمه الله (المتوفى: 211 هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403)

□ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ..

(المعجم الكبير، ج ٩ ص ٢٦٣ رقم 9311. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمه الله (المتوفى سنة ٢٦٠ هـ). المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

□ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ الْعَدْلِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ، بَغْدَادِيُّ، نَائِحِيُّ بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، نَا أَيُّوبَ، عَنْ مَنْصُورٍ، ثُمَّ لَقِيْتُ مَنْصُورًا، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: "أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ كَمَا أُمِرْتَ؛ فَإِنَّ فِي الْقِرَاءَةِ لَشُغْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ.."

(كتاب القراءة خلف الإمام، ص ١٠٩ رقم 257. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخنزر وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمه الله (المتوفى: 458 هـ). المحقق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى، 1405 هـ)

(السنن الكبرى ج ٢ ص ٢٢٩ رقم 2900. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخنزر وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمه الله (المتوفى سنة ٤٥٨ هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٣٢٣ هـ) (صحیح: احسن الكلام ج ١ ص ١٢٦، ١٢٧)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کیونکہ خود پڑھنے سے امام کی قراءت سننے سے آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا امام کا پڑھنا ہی تمہیں کافی ہے (الگ قراءت کی ضرورت باقی نہیں رہتی)۔“

فائدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح ہے۔ خطاب ان لوگوں کو تھا جو امام کے پیچھے اس کی اقتداء کر رہے تھے، جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے۔ یہ سڑی اور جہری تمام نمازوں کو شامل اور فاتحہ اور غیر فاتحہ سب کو حاوی ہے۔ اس روایت میں گو ”أُمِرْتُ“ ہے۔ لیکن پہلی روایت میں تصریح ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور امر نَوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ سے واضح ہے۔

3.1.3:- تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

اثر 3:- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْكِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِوَيْسٍ، نَا عُمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا". (الأعراف: 204) يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ. (كتاب القراءة خلف الإمام، ص 109 رقم 254. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخشروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمه الله (المتوفى: 458 هـ). المحقق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى. 1405 هـ) (اعلاء السنن ج 3 ص 52؛ احسن الكلام ج 1 ص 128-129)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نَوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ (الأعراف: 204)۔ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

فائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اس آیت میں

استماع اور انصات کا جو حکم آیا ہے۔ وہ شانِ نزول کے لحاظ سے صرف فرضی نماز کو شامل ہے۔ گو غیر فرضی نمازوں (مثلاً نماز عید اور تراویح وغیرہ) اور خطبہ کو بھی عموم کے لحاظ سے شامل ہے۔

اثر 4:- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بْنِ بَغْدَادَةَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّدَّادُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ، نَا مَسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "الْمُؤْمِنُ فِي سَعَةٍ مِنَ الْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ مَّفْرُوضَةٍ أَوْ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ يَوْمِ أَضْحَى يَعْنِي: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا" (الأعراف: 204)۔

(کتاب القراءة خلف الإمام، ص ۱۰۸ رقم 253، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخنزرجردی الخراسانی، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى: 458 هـ)، المحقق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405 هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عام حالات میں جب قرآن پڑھا جائے تو مومن پر کوئی پابندی نہیں اس کو گنجائش ہے کہ سنے یا نہ سنے مگر آیت: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" کے پیش نظر فرض نماز، جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کے لیے نہ سننے کی کوئی گنجائش نہیں امام کی قراءت سنا ضروری ہے۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سابقہ روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ آیت مذکورہ کا شانِ نزول فرضی نماز ہے۔ اس روایت میں وہ عموم الفاظ کے پیش نظر جمعہ، عیدین کی نماز اور خطبہ وغیرہ کا حکم بھی استماع و انصات ہی میں بیان کرتے ہیں۔

حصہ اول: احادیث مرفوعہ

3.2: حدیث حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

صحیح مسلم شریف کی درج ذیل حدیث میں خود رسول اللہ ﷺ نے امام اور مقتدی کی ذمہ داریوں کا تعین فرما دیا ہے۔ بعض میں تو امام اور مقتدی شریک ہیں جب کہ بعض میں شریک نہیں۔ لہذا حکم نبوی کے مطابق امام اور مقتدی کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرنی چاہیے۔

حدیث نمبر 2: - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ

الْجَحْدَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ -، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: «أَقْرَبِ الصَّلَاةَ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ».. قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟».. قَالَ: فَأَرَمَ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟».. فَأَرَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ! قُلْتَهَا».. قَالَ: «مَا قُلْتَهَا».. وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: «أَنَا قُلْتَهَا، وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ».. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَحَدَكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحة: 7)، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمْ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ».. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ» وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ.. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ" الحديث

(صحیح مسلم: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 303 رقم 62 - (404) المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري رحمته (المتوفى: 241هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَائِيِّ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، حِينَ جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ: "أَقْرَبِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ". فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟". فَأَرَمَ الْقَوْمُ، قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِي: أَرَمَ: السُّكُوتُ، قَالَ: "لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ! قُلْتَهَا؟" لِحِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: "وَاللَّهِ! إِنْ قُلْتَهَا، وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا. قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: "أَنَا قُلْتَهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ". فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: "أَلَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَبْنَا سُنَّتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَقْرُوكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةَ: 7 فَقُولُوا: آمِينَ. يُجِبْكُمْ اللَّهُ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا، وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ". فَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". فَقُولُوا: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، وَإِذَا كَبَّرَ

الإمامُ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوا، وَاسْجُدُوا؛ فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ". الْحَدِيثُ

تحقيق

إسناده صحيح على شرط مسلم. حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشِي من رجاله. وبقيّة رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه أبو داود (972) من طريق الإمام أحمد. بهذا الإسناد وفيه: "فليؤمكم أحدكم" قد أثبت رواية أبي عوانة عن قتادة.

وأخرجه بتمامه ومختصراً النسائي في "المجتبى" 2/241-242، و3/41-42، وفي "الكبرى" (760) و(1203)، وابن خزيمة (1584) و(1593)، وابن حبان (2167) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (517) - ومن طريقه أبو عوانة 2/128-129، والبيهقي 2/141- وأخرجه مسلم (404) (63) من طريق معاذ بن هشام، وابن ماجه (901) من طريق ابن أبي عدي، ثلاثهم عن هشام الدستوائي به. وقرن ابن ماجه بهشام سعيد بن أبي عروبة، وقد سلفت رواية سعيد برقمي (19595) و(19627).

وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (404) (62)، وأبو داود (972)، وأبو عوانة 2/129، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/238 من طريق أبي عوانة (وهو الوضاح اليشكري)، وأبو عوانة 2/129، أيضاً من طريق أبان وشعبة، والطحاوي 1/221 و238 و265 من طريق أبان وهمام أربعهم عن قتادة، به. ولم يسق أبو عوانة لفظه.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" 1/292 (16) (17) من طريق النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن حِطَّان، عن أبي موسى قال: هل أريكم صلاة رسول الله، فكبر ورفع يديه، ثم كبر ورفع يديه للركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم رفع يديه، ثم قال: هكذا، فاصنعوا، ولا يرفع بين السجدين، ثم أخرجه الدارقطني من طريق زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، بإسناده عن النبي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه. قال الدارقطني في "السنن": رفعه هذان- يعني النظر وزيد بن الحباب- ووقفه غيرهما. وانظر "العلل" 254/7. وقد سلف برقم (19504).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳۲ ص ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳ رقم 19665. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى ۲۴۱هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ۱۴۲۱هـ)

ترجمہ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہمیں سنت سکھائی اور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لیا کرو۔ پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کرائے جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھ لے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا اور جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو۔ واضح رہے کہ امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے اور تم سے پہلے اٹھتا ہے جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ”اللھم ربنا لك الحمد“ کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بتایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو۔“

حدیث نمبر 3:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْبِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ. وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا" وَلَيْسَ فِي

حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ، وَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ (مسلم رقم 63-404)

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں پہلے اوپر ذکر کردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ذکر فرمائی ہے۔ پھر اس کی متعدد سندیں ذکر فرمائی ہیں۔ اور

حدثنا اسحق بن ابراهيم ، قال أخبرنا جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن يونس بن جبیر، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى الأشعريّ کی سند ذکر کر کے فرمایا کہ اس میں "اذا قرأ فانصتوا" کا اضافہ ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "کیا تو سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حافظ چاہتا ہے؟"۔

اس اضافہ کو اگر طویل حدیث کے نماز سے متعلق حصہ کے ساتھ ملایا جائے۔ تو روایت کے الفاظ اس طرح ہو جاتے ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَواتَنَا. فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَثُرَ كَبِيرُوَا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ."

ترجمہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور ہمارے سامنے سنت کا بیان فرمایا۔ ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا۔ اور ہمیں بتایا کہ ہم نماز میں کیا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب نماز کا ارادہ کرو، تو پہلے اپنی صفیں درست کر لو۔ پھر چاہیے کہ تم میں سے ایک امام بنے۔ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لے تو تم آمین کہو۔"

تشریح اب اس حدیث میں امام کی قراءت کے عوض مقتدیوں کو انصاف کا حکم فرمایا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم کو الگ دعا کے مانگنے کی حاجت نہیں کیونکہ تم نے امام کے ساتھ آمین کہہ لی تو تم اور امام سب دعائیں شریک ہو گئے اور تم سب کی دعا مقبول ہو گئی۔

حدیث 4:- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُؤَمِّمَكُمُ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا".

تحقیق

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الله - وهو ابن المديني، فمن رجال البخاري، وحيطان بن عبد الله الرقاشي، فمن رجال مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو غلاب: هو يونس بن جبير.

وأخرجه أبو عوانة 133/2 من طريق علي بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (404) (63)، وأبو يعلى (7326)، والبيهقي 155/2-156 من طريق إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه (847)، والدارقطني في "السنن" 330/1-331 من طريق يوسف بن موسى القطان، كلاهما عن جرير ابن عبد الحميد، به، ولم يسق مسلم لفظه، إنما ذكر هذه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" في حديث سليمان التيمي.

وأخرجه أبو داود (973)، والنسائي في "المجتبى" 242/2، وفي "الكبرى" (761)، وأبو عوانة 132/2-133، والدارقطني في "السنن" 330/1-331، و351-352 من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان التيمي، به، وزاد فيه معتمر عن سليمان: "وحدثة لا شريك له". قال الدارقطني في "العلل" 253/7: لم يذكر هذا سواه وقال أبو داود: قوله: "فأنصتوا" ليس بمحفوظ، لم يجهء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث.

قلنا: وأعله كذلك الدارقطني في "العلل" 254/7 بتفرد سليمان التيمي به من الثقات، وأنه لم يتابعه إلا سالم بن نوح، وليس بالقوى، وأن الحديث رواه هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام، وأبو عوانة، وأبان، ومعمير، وعدى

بن أبي عمارة. كلهم عن قتادة. فلم يقل أحد منهم: وإذا قرأ فأنصتوا. وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. ونقل نحو ذلك البيهقي في السنن 156/2 عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم رمال إلى قوله النووي في شرح صحيح مسلم 123/4.

قلنا: لكن مسلماً لم يُؤثّر عنده تفرّد سليمان التيمي به. فصححه لثقة سليمان وحفظه. فقد قال له أبو إسحاق- وهو سفيان بن إبراهيم راوي صحيحه: كما ذكر عقب الحديث (404) (63) -: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث. (يعني طعن فيه. وقدح في صحته) فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان!

وقد روى من حديث أبي هريرة كما سلف برقم (8889). لكن تكلم فيه أبو داود وابن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني كما سلف بسطه هناك. غير أن مسلماً صححه كذلك. فقال- كما ذكر عقب الحديث (404) (63) -: هو عندي صحيح. فُسئِل: لِمَ لَمْ تضعه في صحيحك؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا. إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. قلنا: ورد المنذري على أبي داود توهينه للحديث في مختصره لسنن أبي داود 313/1.

وذكر ابن عبد البر في التمهيد 34/11 بسنده إلى أحمد بن حنبل أنه صحح حديثي أبي موسى وأبي هريرة.

وقال الشيخ أنور الكشميري في حاشية نصب الراية 15/2: قد صحح حديث الإنصات أحمد بن حنبل وإسحاق. وصاحبه أبو بكر بن الأثرم ثم مسلم ثم النسائي. ثم ابن جرير. ثم أبو عمر وابن حزم. ثم المنذري. ثم ابن تيمية. وابن كثير في تفسيره. ثم الحافظ في الفتح وآخرون. وجمهور المالكية والحنابلة. وقد وردت أخبار في أن قوله تعالى (وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) أنها نزلت في الصلاة. وجاء في "المغني" 261/2 لابن قدامة: قال أحمد في رواية أبي داود: وأجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. وسلف برقم (19504).

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7270) والتعليق عليه. (مسند الإمام أحمد بن حنبل 3/323 ص 396 رقم 19723 المؤلف: أبو عبد الله

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ٢٤١هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد، وآخرون إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ١٤٢١هـ)

ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (دین کا) علم سکھایا۔ (اور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم نماز پڑھنے لگو تو تم میں سے کوئی ایک امامت کرائے جب امام قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ“

حدیث نمبر 5:- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ

النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَبِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي غَلَابٍ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُمْ صَلُّوا مَعَ أَبِي مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبْنَا فَكَانَ مَا بَيْنَ لَنَا مِنْ صَلَاتِنَا وَيُعَلِّمُنَا سُنَّتَنَا قَالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. الحديث

(مستخرج أبي عوانة، ج ١ ص ٢٥٤ رقم 1696. المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني رحمته (المتوفى ٣١٦هـ). تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. الناشر: دار المعرفة، بيروت. الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ)

ترجمہ حضرت حطان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان کیا جس میں یہ بھی ارشاد فرمایا: بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا۔ ہمیں سنت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نماز میں صفوں کو درست کرو۔ پھر تم میں سے ایک امامت کروائے۔ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ۔“

حدیث نمبر 6:- حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ.

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ أَبِي غَلَابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنَا سُنتَنَا وَبَيَّنَّ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

(مستخرج أبي عوانة، ج 1 ص 354، 358، رقم 1697 المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن

إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى 312هـ) تحقيق: أيمن

بن عارف الدمشقي الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الأولى 1319هـ)

ترجمہ حضرت حطان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ہمیں سنت کی تعلیم دی، اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ۔“

حدیث نمبر 7: - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ الْجُنْدِيُّ سَابُورِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

رُشَيْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَائِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةِ: 7 فَقُولُوا آمِينَ.

(مستخرج أبي عوانة، ج 1 ص 358، رقم 1698 المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق

بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى 312هـ) تحقيق: أيمن بن

عارف الدمشقي الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الأولى 1319هـ)

ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب

امام قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھ لے، تو تم آمین کہو۔“

حدیث نمبر 8: - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَابٍ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ . يَعْنِي الْإِمَامُ . فَكَبِّرُوا . وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا .

احکم حسین سلیم اسد : إسنادہ صحیح

(مسند أبي يعلى ج 13 ص 113 رقم 7326. المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن

يحيى بن عيسى بن هلال التيمي، الموصلى لله (المتوفى سنة ٢٥٣هـ). المحقق: حسين

سلیم اسد. الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق. الطبعة: الأولى ١٣٠٢هـ)

ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب امام تکبیر کہے، تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب امام قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ۔“

حدیث نمبر 9:- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ

التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي

مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ

الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ

التَّشَهُدُ.

تحقیق

إسنادہ صحیح. جریر: هو ابن عبد الحمید. وسليمان التيمي: هو ابن طرخان وقتادة:

هو ابن دعامة. وأبو غلاب: هو يونس بن جبیر.

وأخرجه مسلم (404)، وأبو داود (973) من طريقين عن سليمان التيمي. بهذا

الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (19723). وقال أبو داود: قوله: "وأَنْصِتُوا" ليس

بمحفوظ. لم يحيى به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. وكذلك أعلاه الدارقطني في

"العلل" 7/ 254 تفرد سليمان التيمي به. قلنا: بل تابعه عمر بن عامر السلمي. فقد

أخرجه البزار (3060)، وابن عدى في ترجمة سالم بن نوح من "الكامل" 3/ 1184.

والبيهقي 2/ 156 من طريق محمد بن يحيى القطعي. عن سالم بن نوح العطار. عن

عمر بن عامر. عن قتادة. به. وقرن عمر بن عامر بسعيد بن أبي عروبة عند البزار

وابن عدى. وقال ابن عدى: وهذا قد رواه أيضاً عن قتادة سليمان التيمي. وهو به

أشهر من رواية سالم عن عمر ابن عامر وابن أبي عروبة. قلنا: والقطعي ثقة.

وسالم وعمر صدوقان. أما ابن أبي عروبة فقد ذكره الدارقطني فيمن خالف

التیمی، ولم يذكر الزيادة، فلعله اختلف عليه فيه، أو أن سالم بن نوح حمل رواية سعيد على رواية عمر، والله أعلم.

وسیاتی حدیث التّشہد مطوّلاً برقم (901) ونخرجه هناك.

(سنن ابن ماجه، ج 3 ص 559، 560 رقم 2512 المؤلف: ابن ماجه - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله (المتوفى: 234هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله. الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 1430هـ)

وفيه ما أسلفناه من تصحيحه عند جماعة من الحفاظ.

(شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام، ج 1 ص 1330 المؤلف:

مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين رحمه الله (المتوفى: 762هـ). المحقق: كامل عويضة. الناشر: مكتبة نزار مصطفى

الباز - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1999م)

(حكم الألباني: صحيح: ابن ماجه رقم 827 طبع مكتبة المعارف، رياض؛ علامه الباني نے اس کو صحیح

کہا ہے: ابن ماجه ص 158؛ صحیح سنن ابن ماجه رقم 690-827؛ وأثبت تصحيحه الحافظ

مغلطائي عن جماعة من الحفاظ. الإعلام قلمي ج 3 ص 81 بحواله مجموعہ مقالات ج 3

ص 368)

ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب امام قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ اور جب قعدہ میں ہو تو تم میں سے ہر ایک کا اولین ذکر تشہد ہونا چاہیے۔“

3.3: حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 10: - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا

قَالَ: أَوَّلًا الضَّالِّينَ، الْفَاتِحَةَ: 7. فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

تحقيق

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن ميسر الصاغانى لكنه متابع. وأخرجه الدارقطنى 330/1، وابن عدى فى "الكامل" 2232/6، ومن طريقه البيهقى فى "القراءة خلف الإمام" (312) من طريق محمد بن ميسر الصاغانى بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبى شيبه 377/1 و326/2 و175/14، والبخارى فى "القراءة خلف الإمام" تعليقا (265)، وأبو داود (604)، وابن ماجه (846)، والنسائى 142-141/2، والدارقطنى 327/1، والبيهقى فى "القراءة خلف الإمام" (311) من طريق أبى خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبى صالح، عن أبى هريرة - وبعضهم يرويه مختصرا. وقال أبو داود: وهذه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة. الوهم من أبى خالد، كذا قال أبو داود، مع أن أبى خالد قد توبع على هذه الزيادة، لكن قال النسائى: لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا".

وسياتى الحديث من طريق أبى خالد الأحمر فى "المسند" مختصرا برقم (9438). وأخرجه النسائى 142/2، والدارقطنى 328/1، والخطيب فى "تاريخه" 320/5 من طريق محمد بن سعد الأشهل الأنصارى، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، به. ومحمد بن سعد الأشهل وثقه ابن معين والنسائى ومحمد بن عبد الله المخرمى، وقال أبو حاتم: ليس بمشهور، وقال الحافظ فى "التقريب": صدوق.

وأخرجه الدارقطنى 329/1، والبيهقى فى "ننه" 156/2 من طريق إسماعيل بن أبان الغنوى، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل، عن أبى صالح، به. وقال الدارقطنى: إسماعيل بن أبان ضعيف، وأسند البيهقى عن ابن معين أنه قال: حديث ابن عجلان: "إذا قرأ فأنصتوا" قال: ليس بشيء. وأسند عن ابن أبى حاتم وهو فى "علله" 164/2 - قوله عن أبيه: ليست هذه الكلمة محفوظة، هى من تخاليط ابن عجلان، قال: وقد رواه خارجة بن مصعب أيضا يعنى

عن زيد بن أسلم، وخارجة أيضاً ليس بالقوى، ثم قال البيهقي بإثر ذلك: ورواه يحيى بن العلاء الرازي كما رويها، ويحيى بن العلاء متروك.

قلنا: وصح حديث أبي هريرة هذا الإمام مسلم في "صحيحه" ص 304 دون أن يخرجها، وصححه أيضاً الطبري في "تفسيره" 166/9، وابن حجر في "الفتح" 242/2، وانظر "تهذيب السنن للحافظ المنذرى 313/1.

وأخرجه البخاري تعليقاً في "القراءة خلف الإمام" (266) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن مصعب بن محمد والقعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم، ثلاثهم عن أبي صالح، به - دون قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا".

وكاتب الليث سيء الحفظ.

وأخرجه أيضاً (267) من طريق بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرج الدارقطني 331/1 من طريق محمد بن يونس الكديمي، عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فأنصتوا. ومحمد بن يونس ضعيف.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة من غير هذه الزيادة، انظر (7144)، وانظر بحثنا في القراءة خلف الإمام عند الحديث السالف برقم (7270).

وقوله: "وإذا قال: (ولا الضالين) فقولوا: آمين" سلف من طريق ابن المسيب وأبي سلمة بسند صحيح برقم (7187).

وفي باب الإنصات عند قراءة الإمام حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (404) (63)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مسند أبي موسى الأشعري 415/4.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 13، ص 19، رقم 8889 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، (الوفى 241 هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور اس کی اقتداء یہ ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ ”وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے، تو تم آمین کہو۔ جب وہ رکوع کرے، تو تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ رکوع سے اٹھتے وقت ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہے، تو تم ”رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ کہو۔ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے، تو تم بھی سب ہی بیٹھ کر نماز پڑھو۔“

1 امام مسلم رضی اللہ عنہ کی حدیث: ”وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا“ کی تصحیح

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: ”فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟“ فَقَالَ: ”هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا“ فَقَالَ: ”هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ“ فَقَالَ: ”لِمَ لِمَ تَضَعُهُ هَا هُنَا؟“ قَالَ: ”لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا. إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ“ (مسلم تحت رقم 63-404)

ترجمہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امام مسلم رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی بابت پوچھا، تو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”یہ حدیث صحیح ہے یعنی جس میں ”وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا“ کا جملہ آیا ہے وہ میرے نزدیک صحیح ہے۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا: ”پھر آپ نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں کیوں نہیں رکھا ہے؟“ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہو، اس کو میں صحیح مسلم میں بیان نہیں کیا ہے۔ صحیح مسلم میں میں نے صرف اس حدیث کو بیان کیا ہے جن پر محدثین کرام رضی اللہ عنہم نے اجماع کیا ہے۔“

2 علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد کی حدیث ”وإذا قرأ: فأنصتوا“ کی تحسین

إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر: فكبروا. وإذا قرأ: فأنصتوا
(1) أخرجه {ابن أبي شيبة (1/97/1) = (3799/331/1)}. وأبو داود (99/1) والنسائي (146/1). وابن ماجه (279/1). والطحاوي (128/1) والدارقطني (124) وأحمد (420/2) من طريق أبي خالد سليمان بن حَيَّان عن محمد ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وهذا سند حسن. وقد أُعِلَّ بعلتين:

الأولى: تفرد أبي خالد عن محمد بن عجلان.

والأخرى: تفرد ابن عجلان عن أبي صالح.

أما الأولى: فقال أبو داود: قوله: فأنصتوا: ليست بمحفوظة: الوهم من أبي خالد.

قلت: أبو خالد: ثقة. أخرج له الجماعة. فنسبة الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على أن ابن عجلان أحسن حالاً عنده من أبي خالد! وهذا أعجب. فإن ابن عجلان فيه كلام. وأبو خالد ثقة بلا شك - كما قال ابن التركماني وغيره -. ثم إنه لم يتفرد به: بل تابعه عليه جمع:

منهم: محمد بن سعد الأنصاري: عند النسائي. ومن طريقه الدارقطني (125) وهو ثقة - كما ذكر النسائي -.

ومنهم: أبو سعد الصاغانى محمد بن مُيَسَّر - بتحتانية ومهمله: وزن محمد -.

أخرجه الدارقطني. وأحمد (376/2). وقال الأول: ضعيف .

وإسماعيل بن أبان الغنوي: عنده. وعند البيهقي (156/2) وضعفه الدارقطني أيضاً.

قلت: ومتابعة هذين - على ضعفهما - يعطى الحديث قوة - كما لا يخفى -: ولا سيما وقد تابعا ثقتين: سليمان بن حيان ومحمد بن سعد. فانتفت العلة الأولى.

وأما العلة الأخرى: فالحق يقال: إنها أقوى من الأولى. فروى البيهقي (157/2) عن ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي - وذكر هذا الحديث، فقال أبي -: ليست هذه الكلمة محفوظة: هي من تخاليط ابن عجلان. قال: وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاً - يعني: عن زيد بن أسلم - وخارجة أيضاً: ليس بالقوى. قال البيهقي: وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي - كما رويها -: ويحيى بن العلاء: متروك. اهـ
وفي التقريب: رمى بالوضع. وعن خارجة: متروك. وكان يدللس عن الكذابين.

فمتابعة هذين لا تعطى الحديث قوة: فيبقى متفرداً به ابن عجلان وهو وإن كان ثقة: ففيه كلام من جهة حفظه - كما أشار أبو حاتم إلى ذلك -. وفي "التقريب": صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. اهـ

وهو حسن الحديث ما لم يخالف. وقد خولف هنا: فقد رواه الأعمش عن أبي صالح به: بدون قوله: وإذا قرأ: فأنصتوا.
أخرجه ابن ماجه (305/1)، وأحمد (440/2).

وسنده صحيح على شرطها.

وكذلك رواه مصعب بن محمد عن أبي صالح بدون هذه الزيادة. وقد مضى لفظه في (التكبير).

وكذلك روى الحديث من طرق عن أبي هريرة: عند البخاري (166/2 - 172).

ومسلم (19/2 - 20) وابن ماجه أيضاً (374/1). والدارمي (300/1). وأحمد (230/2، 214، 411، 438) بدونها.

فهذا مما يجعل النفس لا تطمئن لتفرد ابن عجلان بها. ومع ذلك: فقد صححها الإمام مسلم - كما سيأتي -. وابن حزم في المحلى (240/3). والإمام أحمد. وابن خزيمة - كما في إمام الكلام (113) -. وغيرهم من الأئمة. فراجع (التعليق) عن نصب الراية (15/2).

و نحن نقطع بأنه صحيح لغيره. فإن له شاهداً من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم. وإذا قرأ الإمام: فأنصتوا. أخرجه أحمد (415/4) والسياق له. ومسلم (15/2). (وأبو عوانة

{133/2} ، وابن ماجه (279/1) ، والدارقطنى (125) ، والبيهقى (155/2) من طريق جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن جطان بن عبد الله الرقاشى عنه.

وهذا سند صحيح. {وهو مخرج في "الإرواء" (332 و 394)}.

وقد أخرجه {أبو عوانة} {133/2} ، وأبو داود (154/1) من طريق المعتبر بن سليمان قال: سمعت أبي: ثنا قتادة به. ثم أعله بقوله: "وقوله: "فأنصتوا" ليس بمحفوظ؛ لم يجهى به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث".

كذا قال! وليس بصواب: فقد تابعه عليه سفيان الثوري ، فقد قال الدارقطنى - بعد أن ساق الحديث -: "وكذلك رواه سفيان الثوري عن سليمان التيمي، ورواه هشام الدستوائى وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدى بن أبي عمارة كلهم عن قتادة. فلم يقل أحد منهم: "وإذا قرأ: فأنصتوا". وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه".

قلت: وقد أخرجه مسلم وغيره عن بعض هؤلاء عن قتادة به مطولاً - كما سيأتى في (التأمين) -. ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.

لكن لا يخفى أنها زيادة من ثقتين حجتين فيجب الأخذ بها. لا سيما وأنها لا تخالف المزيد، بل توافق معناه: فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته: لم يكونوا مؤتمين به - كما قال شيخ الإسلام (144/2) -. على أنه لم ينفردا بها، بل تابعهما جمع آخر: منهم: عمر بن عامر، وسعيد بن أبي عروبة.

أخرجه الدارقطنى، وعنه البيهقى (156/2) من طريق سالم بن نوح عنهما. ثم قال: "سالم بن نوح: ليس بالقوى".

قلت: وهو من رجال مسلم، وفي "التقريب": "صدوق له أوهام".

وكذا قال في شيخه عمر بن عامر، وهو من رجال مسلم أيضاً.

وأما سعيد بن أبي عروبة: فمن رجال الشيخين، وهو من أثبت الناس في قتادة.

وبالجملة: فهذه الزيادة صحيحة من حديث أبي موسى، وقد صحها مسلم، ففي

"صحيحه" بعد أن ساق الحديث: "قال أبو إسحاق - يعنى: صاحب مسلم وراوى

كتابه -: قال أبو بكر ابن أخت أبي النظر في هذا الحديث - أي: طَعَنَ فيه -. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟! فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة، فقال: هو صحيح - يعني: "وإذا قرأ: فأنصتوا" -. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم تضعه ها هنا - يعني: في كتابه -؛ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه. قال أبو الحسنات: وبالجملة: فالحكم بصحة هذا الحديث هو الأرجح بالنظر الدقيق؛ فيكفي للاستدلال به. ومن حكم بضعفها: ليس له دليل معتد به يقبله أرباب التحقيق.

وهذا الحديث كالأية المذكورة سابقاً في الدلالة على وجوب الاستماع لقراءة القرآن من الإمام، ولكنه أعم منها - كما لا يخفى -. وهو - كهي - يشمل بعمومه {الْفَاتِحَةَ} وغيرها. وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم بما عدا {الْفَاتِحَةَ} . وقالوا بوجوب قراءتها، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي احتجوا به على الوجوب لا يدل على ذلك؛ بل على الإباحة، والإباحة المرجوحة - كما سلف بيانه عن الكشميري -.

وحيثُ إذا كان لا بد من المصير إلى التخصيص؛ فإنما يخص بجواز قراءة {الْفَاتِحَةَ} جوازاً مرجوحاً؛ لا بوجوبها، وحيثُ فالتباين بين هذا الجواز وبين النهي المستفاد من الآية والحديث يسير؛ لأن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام. وهذا هو المطلوب.

هذا يقال: إن أردنا أن نذهب منذهب الجمع، ولكننا قد بينا أن حديث الجواز منسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية. وبين أيضاً شيخ الإسلام أن الاعتبار يدل على بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدق الكلام عنه - ما قيل فيها.

(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1 ص 353-359 المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله (المتوفى: 1420 هـ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة: الأولى 1427 هـ - 2006 م)

3.4:- حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 11:- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا جَعْفَرُ الْخُدْرِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ، نَا الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا. (كتاب القراءة: بیہقی: رقم ۳۱۳)

ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب امام قراءت کرے، تو تم خاموش رہو۔“

تشریح اس روایت میں بھی امام کا فریضہ قراءت کرنا اور مقتدی کا کام (نماز) میں خاموشی بتایا گیا ہے۔ پھر چونکہ جہری یا سری کی تصریح نہیں اس لئے یہ ہر نماز کو شامل ہے۔

3.5:- حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ

طریق الاول

حدیث جابر رضی اللہ عنہ: ابی الزبیر المکی رضی اللہ عنہ کا طریق ہے۔ اس کے پھر دو طریق ہیں۔

☆ حدیث جابر رضی اللہ عنہ روایت ابی الزبیر المکی رضی اللہ عنہ کا طریق اول

پہلا طریق: الحسن بن صالح عن ابی الزبیر عن جابر۔ یہ طریق مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

حدیث نمبر 12 (1):- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلِّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 331 رقم 3802)

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى

العيسى (التموز ۲۳۵ھ) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد

الرياض الطبعة: الأولى ۲۰۹ھ)

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج ۳ ص ۲۸۲، رقم الحديث ۳۸۲۳:
المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي
العيسى رحمته (المتوفى ۲۳۵ھ). المحقق: محمد عوامة الناشر: إدارة القرآن والعلوم
الاسلامية، كراچی. الطبعة: الثانية (۱۴۲۸ھ)

(واسنادہ صحیح و صححہ العلامة الماردینی فی "الجوهر النقی" ج ۲ ص ۱۵۹: قال
العینی: طریق صحیح، عمدۃ القاری ج ۶ ص ۸۶ طبع مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر وہ شخص جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو امام کی
قراءت مقتدی کی قراءت کے حکم میں ہے۔“

حدیث نمبر 13 (۲): - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ
إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ."

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۲۳ ص ۱۲ رقم 14643. المؤلف: أبو عبد الله أحمد
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ھ). المحقق: شعيب
الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ۱۴۲۱ھ)
(سند صحیح ہے، احسن الكلام ج ۱ ص ۳۴۰)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی قراءت اس کی بھی
قراءت ہے۔“

نوٹ علامہ مزی رحمته اسی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں:

ورواه أبو نعيم، عن الحسن بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر - ولم
يذكر جابر الجعفي.

(تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ج ۲ ص ۲۹۱. المؤلف: جمال الدين أبو الحجاج

یوسف بن عبد الرحمن المزنی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: 742ھ) المحقق: عبد الصمد شرف
الدين. طبعة: المكتب الإسلامی، والدار القیمة الطبعة: الثانية. 1403ھ
1983م)

و كذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير ولم يذكر
الجعفی كذا فی اطراف المزنی۔

(الجوهر النقی علی سنن البیهقی، ج ۲ ص ۱۵۹، المؤلف: علاء الدین علی بن عثمان بن
إبراهیم بن مصطفى الماردینی، أبو الحسن، الشهير بأبن الترمذی رحمۃ اللہ علیہ
(المتوفی: ۵۰۰ھ). الناشر: دار الفكر)

أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن
جابر رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقَرَأَ تَهْ لَهُ قِرَاءَةً.

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ج ۳ (۵) ص ۱۳۱ المؤلف:
شهاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۷۲۰ھ)
المحقق: علی عبد الباری عطیة الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت الطبعة:
الثالثة، ۲۰۰۹ء)

(اتحاف الخیرة المہرة بزوائد المسانید العشرة ج ۲ ص ۳۳۲ للامام البوصیری: اتحاف
الخیرة ج ۲ ص ۲۱۶ باب ترک القراءة خلف الامام رقم الحدیث ۱۸۳۲، بروایت مسند عبد بن حمید وقال
الامام البوصیری والالوسی: صحیح علی شرط مسلم، روح المعانی ج ۳ (۵) ص ۱۳۱؛ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے
ہیں: نقلہ الشیخ ابن الہمام عن مسند عبد بن حمید و کذا فی النسخة
المطبوعة من مسند أحمد ج ۲ ص ۲۳۹ فَضَّلَ الْخُطَابُ فِي مَسْنَدِ أَمْرِ الْكِتَابِ
ص ۱۲۴ طبع ادارة القرآن، کراچی)

ترجمہ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی قراءت اس کی بھی
قراءت ہے۔“

حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حضرت امام احمد بن حنبلہ، ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الدین بن قدامت بن حنبلہ، حافظ مزین بن حنبلہ، علامہ مارد بن حنبلہ، حافظ ابن ہمام بن حنبلہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوق بن حنبلہ وغیرہ یہ سند اسی طرح اسی طرح نقل کرتے ہیں:

حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير... الخ
اور اس میں جابر جعفی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تک نہیں کرتے۔

(أَحْسَنُ الْكَلَامِ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ص ۳۳۳۔ المؤلف: حضرت مولانا محمد سر فرراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۱۳۳۰ھ)۔ الناشر: مكتبة صفدرية، نزد مدرسہ نصرۃ العلوم، گھنٹہ گھر، گوجرانوالہ۔ طبع 11 اپریل ۲۰۰۹ء)

☆ حدیث جابر رضی اللہ عنہ بروایت ابی الزبیر المکی رحمۃ اللہ علیہ کا طریق ثانی

دوسرا طریق الحسن بن صالح عن جابر الجعفی ولیث بن ابی سلیم وصالح بن حی والد الحسن عن ابی الزبیر عن جابر۔ یہ طریق ابن ماجہ، طحاوی، دارقطنی، بیہقی، ابن عدی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے جو ایک دوسرے کے شاہد اور مؤید ہیں۔

حدیث نمبر 14 (۳): - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

(ابن ماجہ رقم 850؛ علامہ البانی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ ص ۱۵۸ رقم ۸۵۰ تحقیق، تخریج علامہ ناصر الدین البانی طبع ثانی ۱۴۲۹ھ، مکتبۃ المعارف، ریاض؛ صحیح ابن ماجہ رقم ۶۹۲۔۔۔ ۸۵۰ طبع مکتب التریبۃ لدول الخلیف، ریاض؛ الارواء، الغلیل: ۸۵۰: اصل صفحہ صلاۃ النبی ص ۳۵۵ تا ۳۵۹ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض ۱۴۲۷ھ)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی قراءت اس کی بھی

قراءت ہے۔“

نوٹ اوپر جو سند نقل کی گئی ہے، وہ ابن ماجہ مطبوعہ مکتبۃ المعارف، ریاض سے نقل کی گئی ہے۔ اس کی ایک اور سند بھی ہے۔

حدثنا علی بن محمد، حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، عن الحسن بن صالح، عن جابر، و عن ابي الزبير، عن جابر۔

(ابن ماجہ مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی بحوالہ الدلیل المبین ص ۲۲۱)

اس کے متعلق حضرت مولانا محمد حسن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ابن ماجہ جو کہ مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی کا ہے اور اس پر حاشیہ جناب مولانا محدث، مفسر لاثانی، فخر زمن مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور حقیقت میں وہ حاشیہ قطب وقت، غوث الدین شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور مولوی فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصحح ہیں۔ اس میں تو یہ سند دو طور سے لکھی ہے۔ جس کا مال یہ ہے کہ حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں طور پر روایت ہے۔ خود حضرت ابوالزبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اور بواسطہ جابر جعفی رحمۃ اللہ علیہ اور لیث بن ابی سلیم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی“۔ (الدلیل المبین ص ۲۲۱)

حدیث نمبر 15 (۴): - ثنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(المنتخب من مسند عبد بن حميد، ج ۲ ص ۱۳۹ رقم 1048. المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشي ويقال له: الكشي بالفتح والإعجام) (المتوفى: 249هـ). تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية 1423هـ - 2002م)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا أَبُو نَعِيمٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ

(حلیۃ الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج ۷ ص ۳۳۲. المؤلف: أبو نعیم أحمد بن عبد اللہ بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصبہانی رحمہ (المتوفی ۲۳۰ھ). الناشر: السعادة. بجوار محافظة مصر. ۱۳۹۳ھ)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہے۔“

طریق الثانی

حضرت مولانا محمد حسن فیض پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

طریق ثانی: حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما: عن موسی بن أبی عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر رضی اللہ عنہ.

یہ حدیث اس سند کے ساتھ زمین کے مشرق اور مغرب میں مشہور و معروف ہے۔ اس حدیث میں جس کسی نے بھی کلام کیا ہے وہ از روئے حسد اور عداوت ہے۔ اس لیے کہ یہ حدیث حدیث عباد رضی اللہ عنہما سے سند زیادہ صحیح ہے اور بڑے بڑے ائمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی مسانید اور کتب میں درج کیا ہے۔

(الدلیل المبین ص ۱۹۱)

حدیث نمبر 16 (5): - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: أَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثنا سفيان

وشریک، عن موسى ابن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ".

قُلْتُ: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

قُلْتُ: إِسْنَادُ حَدِيثِ جَابِرِ الْأَوَّلِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج ۲ ص ۸۰ رقم 1075 / 1؛ ج ۲ ص

۱۶۸ رقم 1264 / 1 المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل

بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي رحمه (المتوفى: ۸۲۰ھ).

تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار النشر: دار الوطن للنشر. الرياض. الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ)

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً..."

وَإِسْنَادُ حَدِيثِ جَابِرٍ الْأَوَّلِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

(فتح القدير. ج ١ ص ٣٣٨. المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام رحمته الله (المتوفى ٨٦١هـ). الناشر: دار الفكر)

علامہ آلوسی رحمته الله بھی اس حدیث کو صحیح علی شرط الشیخین قرار دیتے ہیں:
(روح المعانی ج ٣ (٦،٥) ص ١٢١ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت ٢٠٠٩ء)
علامہ انور شاہ کشمیری رحمته الله فرماتے ہیں:

أما صحة الحديث، فقد أخرج أحمد بن منيع في مسنده بسند علي شرط الشيخين، كما نقله الشيخ ابن الهمام (الحديث).

(فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ص ١٣٣ - المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه کشمیری الہندی رحمته الله (المتوفى: 1353ھ). الناشر: المجلس العلمي، کراتھی - پاکستان. الطبعة: الثانية - 1424ھ - 2004م)

یعنی یہ روایت شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

حضرت عبد الرحمن مبارک پوری رحمته الله غیر مقلد اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”بظاہر صحیح ہے کیونکہ موصول بھی ہے۔ اس کے تمام روایات بالاتفاق ثقہ ہیں اور کوئی علت قاذمہ بھی بظاہر اس میں نہیں پائی جاتی“۔ (تحقیق الکلام ج ٢ ص ١٣٨)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہے۔“

استدلال: اس صحیح حدیث میں سرّی اور جہری کی کوئی قید نہیں۔ علاوہ ازیں حدیث کی ابتداء لفظ ”مَنْ“ سے ہے، جو اپنے عمومی معنی پر نص ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جس نے امام کی اقتداء کر لی، تو اب اسے بغیر تخصیص کے امام کے پیچھے الگ سے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ امام کی قراءت شرعاً مقتدی کی قراءت مان لی گئی ہے۔

حدیث نمبر 17 (۶): - أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ، عَنْ جَابِرِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ."

(مسند الامام الاعظم ص ۱۹۰ رقم ۱۰۴ - طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

(مسند أبي حنيفة رواية المحصفي، رقم 25. المؤلف: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن مالك (المتوفى: 150هـ). تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود. الناشر: الآداب - مصر)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُبَيْشٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَبِيبِ التَّمَّارِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ."

(مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم، ص ۳۲. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ۲۴۰هـ). المحقق: نظر محمد الفارياي. الناشر: مكتبة الكوثر - الرياض. الطبعة: الأولى، ۱۵/۱۳۱۵هـ)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہے۔“

حدیث نمبر 18 (۷): - قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ

مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ

فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْزُوقِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ
قِرَاءَةٌ».

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص ۱۶۱ رقم 117 المؤلف: مالك بن
أنس بن مالك بن عامر الأصبغى المدني رحمته (المتوفى ۱۷۹ھ) تعليق وتحقيق: عبد
الوهاب عبد اللطيف الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الثانية)
(الحجة على أهل المدينة، ج ۱ ص ۱۱۸، ۱۱۹. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن
فرقد الشيباني رحمته (المتوفى: 189ھ). المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري.
الناشر: عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الثالثة، 1403ھ)

طَرِيقٌ صَحِيحٌ.

(عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج ۶ ص ۱۲. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد
بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني رحمته (المتوفى ۸۵۵ھ).
الناشر: دار إحياء التراث العربى، بيروت)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی قراءت اس کی بھی
قراءت ہے۔“

حدیث نمبر 19 (۸): - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنِ النُّعْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي
عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۱۷ رقم 1294 المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن
سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصرى المعروف بالطحاوى رحمته)

(المتوفى ۳۲ھ) حققه وقدم له: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما؛ جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہے۔“

فائدہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”میرے نزدیک اس حدیث کی سب سے عالی شان اور احسن سند امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے:

من طریق ابن وهب، قال: أخبرنا الليث، عن يعقوب (أبي يوسف)، عن النعمان (أبي حنيفة) الخ.

اس سند میں چار ائمہ فقہاء اور محدث ہیں۔ ایسی عالی شان سند کی نظیر نہیں ملتی۔ (معارف السنن ج ۳ ص ۲۵۵)

حدیث نمبر 20 (9): - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَقْرَأُ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَتَنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَازَعَا حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(الأثار لمحمد بن الحسن، ج ۱ ص ۱۶۹، ۱۸۵، رقم 86 المؤلف: الامام المحافظ ابی عبد

اللہ محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، (المتوفى ۱۸۹ھ) المحقق: أبو الوفا الأصفهانی دار

النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)

ترجمہ

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی۔ ایک شخص نے آپ ﷺ کے پیچھے قراءت کی۔ نبی ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایک شخص نے اس کو نماز میں قراءت سے منع کیا۔ (لیکن وہ قراءت سے باز نہ آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے) تو قراءت کرنے والے نے منع کرنے والے کو کہا: ”کیا تم مجھے جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قراءت سے روکتے ہو؟“۔ دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے یہاں تک کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے امام کی اقتداء کی، اس کو (الگ قراءت نہیں کرنی چاہئے بلکہ) امام کی قراءت ہی اس کو کافی اور بس ہے۔“

حدیث نمبر 21 (۱۰): - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمِيدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ يَقْرَأُ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَتَنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَنَازَعَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۲۲۷ رقم 2896 المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

الخنزري وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى ۴۵۸ھ) المحقق: محمد عبد

القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۲ھ)

ترجمہ

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قراءت کی۔ نماز کے دوران ایک

آدمی نے اس کو قراءت سے منع کیا۔ (لیکن وہ قراءت سے باز نہ آیا)۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، تو قراءت کرنے والے نے منع کرنے والے کو کہا: ”تم مجھے جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قراءت سے کیوں روکتے ہو؟“۔ دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اس کا ذکر جناب رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس کو (الگ قراءت نہیں کرنی چاہئے بلکہ) امام کی قراءت ہی اس کو کافی اور بس ہے۔“

حدیث نمبر 22 (11): - أَخْبَرَنَا هُ مَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ قُرَيْشٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرٍ، نَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، نَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ. فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَكَ تُخَالِجِنِي أَوْ قَالَ: تُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ خَلْفَ إِمَامٍ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(کتاب القراءۃ خلف الإمام، ص ۱۳۸ رقم 338، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن

موسى الخنزر وجردي الحراساني، أبو بكر البيهقي، (المتوفى: 458هـ) المحقق:

محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة:

الأولى، 1405هـ)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهَبٍ، ثنا عَمِي، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنِ النَّعْمَانِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ

لَيْسَكُتُونَ. ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ: «أَنَا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيهَا».

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَتْنَهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَتَذَاكَرَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ».

(سنن الدارقطني، ج ۲ ص ۱۱۰، ۱۱۱، رقم 1235، 1236 المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى ۳۸۵هـ) حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳هـ)

ترجمہ

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے ایک شخص کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کس نے میرے پیچھے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى پڑھی ہے؟“۔ تو کسی آدمی نے جواب نہ دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو تین بار دہرایا۔ تو پھر ایک آدمی نے کہا: ”یا رسول اللہ! میں نے پڑھی ہے“۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے قرآن کریم کی قراءت میں منازعت اور کشمکش کر رہا ہے۔ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس کو (الگ قراءت نہیں کرنی چاہئے بلکہ) ایہم کی قراءت ہی اس کو کافی اور بس ہے“۔

تشریح

حضرت مولانا محمد حسن فیض پوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہر خاص و عام کو واضح ہو کہ حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث جو کہ سر یہ نماز میں منع عن القراءت میں وارد ہے۔ مرفوع قولی تو صریح ہے اور مرفوع تقریری بھی، بایں وجہ کہ

جب آپ ﷺ کے پیچھے فقط ایک نے قراءت کی اور باقی سب لوگ خاموش تھے۔ اور آپ ﷺ نے ان کو قراءت کا حکم نہ دیا، بلکہ جس نے پڑھا اس کو روکا۔ تو اب حدیث سے قوی اور تقریری دونوں سے عدم قراءت خلف امام ثابت ہوا۔ نیز واضح ہو کہ یہ حدیث اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث دونوں متحد ہیں اور اس میں یہی وجہ بیان کی گئی ہے۔ (حاشیہ الدلیل المبین ص ۱۹۲)

حدیث نمبر 23 (۱۲): - آخر جہ أبو عبد الله الحاكم، قال حدثنا أبو محمد بن

بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، حدثنا مكي بن ابراهيم، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي ﷺ ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف، أقبل عليه الرجل، قال: أتتهاني عن القراءة خلف رسول الله ﷺ، فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي ﷺ، فقال ﷺ: "من صلى خلف الامام، فإن قراءته الامام له قراءة". وفي رواية لأبي حنيفة: "ان ذلك كان في الظهر أو العصر". وهي: أن رجلاً قرأ خلف رسول الله ﷺ في الظهر أو العصر، فأومأ إليه، فنهاه، فلما انصرف، قال: أتتهاني الحديث (روح المعاني ج ۴ (۶،۵) ص ۱۴۱ طبع دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۰۹ھ؛ رواه ثقات، احسن الكلام ج ۱ ص ۳۵۳)

ترجمہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قراءت کی۔ نماز کے دوران ایک آدمی نے اس کو قراءت سے منع کیا۔ (لیکن وہ قراءت سے باز نہ آیا)۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، تو قراءت کرنے والے نے منع کرنے والے کو کہا: تم مجھے جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قراءت سے کیوں روکتے ہو؟ دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اس کا ذکر جناب رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس کو (الگ

قراءت نہیں کرنی چاہئے بلکہ) امام کی قراءت ہی اس کو کافی اور بس ہے۔
 دوسری روایت میں ہے: ”ظہر یا عصر کی نماز میں ایک شخص جناب رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پیچھے قراءت کر رہا تھا۔ نماز کے دوران ہی ایک آدمی نے اشارہ سے اس کو قراءت سے منع کیا۔ مگر وہ قراءت سے باز نہ آیا۔ نماز کے بعد کہنے لگا: تم مجھے جناب رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پیچھے قراءت سے کیوں روکتے ہو؟“ الحدیث۔

حدیث نمبر 24 (۱۳): - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوْ العَصْرِ، قَالَ: قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنهَاهُ فَأَبَى، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: "أَتَنهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" فَتَذَاكَرْنَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ."

(الأثار، ص ۲۳، ۲۴ رقم 113 المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبة الأنصاري (المتوفى ۱۸۲هـ). المحقق: أبو الوفاء الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ”ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پیچھے ظہر یا عصر کی نماز میں قراءت کی۔ تو ایک آدمی نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کو قراءت سے منع کیا۔ لیکن وہ قراءت سے باز نہ آیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا۔ تو قراءت کرنے والے نے منع کرنے والے کو کہا: تم مجھے جناب رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پیچھے قراءت سے کیوں روکتے ہو؟ ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا یہاں تک جناب رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے سن لیا۔ تو آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس کو (الگ قراءت نہیں کرنی چاہئے بلکہ) امام کی قراءت ہی اس کو کافی اور بس ہے۔“

حدیث نمبر 25 (۱۳): - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَلِي الحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ

بُن سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوْ العَصْرِ يَعْنِي فَقْرًا، فَأَوْفَى إِلَيْهِ رَجُلٌ فَتَهَاةُ فَأَبَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَتَنَهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَتَذَاكَرَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

(كتاب القراءة خلف الإمام، ص ۱۳۹ رقم 339، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخنزر وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458 هـ)، المحقق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405 هـ)

(حدیث صحیح ہے، احسن الکلام ج ۱ ص ۳۴۹)

ترجمہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ظہر یا عصر کی نماز میں ایک شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قراءت کی۔ نماز کے دوران ایک آدمی نے اشارہ سے اس کو قراءت سے منع کیا۔ لیکن وہ قراءت سے باز نہ آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، تو قراءت کرنے والے نے منع کرنے والے کو کہا: تم مجھے جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے قراءت سے کیوں روکتے ہو؟ دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کی گفتگوسن لی، اور ارشاد فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس کو (الگ قراءت نہیں کرنی چاہئے بلکہ) امام کی قراءت ہی اس کو کافی اور بس ہے۔“

تشریح اس صحیح روایت میں ظہر یا عصر کی نماز کا ذکر ہے، جو بالاتفاق ساری نمازیں ہیں۔ اور آپ ﷺ کے پیچھے قراءت کرنے والا صرف ایک شخص تھا۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح نماز اور جماعت کی پابندی کرتے، ایسی اور کس سے ہو سکتی

ہے!! اور ان میں سے ہر ایک کی یہی دلی خواہش ہوتی تھی کہ جناب رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے، مگر باوجود اتنی بڑی جماعت کے، کثیر التعداد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سزای نماز میں آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پیچھے قراءت کرنے والا صرف ایک ہی شخص ملتا ہے اور باقی سب خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس ایک شخص کی قراءت کو بھی گوارا نہیں فرماتے اور اس کو امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے قراءت کی اجازت ہوتی، خصوصاً سزای نمازوں میں۔ تو یقیناً آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس کی تائید فرماتے اور قراءت سے روکنے والے کو تنبیہ فرماتے۔ اگر امام کے پیچھے قراءت کی گنجائش ہوتی بالخصوص سزای نمازوں میں، تو عین نماز کی حالت میں احسانِ صلوة سے صرف نظر کرتے ہوئے منع کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ قراءت کرنے والے کو منع کرنے کی کبھی جرأت نہ کرتے۔ اگر سزای نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کا استحباب یا جواز بھی ہوتا، تو منع کرنے والے کو آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمادیتے کہ ایک جائز اور مستحب حکم کی وجہ سے تم نے نماز میں اپنی توجہ کیوں دوسری طرف مبذول کر دی تھی؟ دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی منع کرنے والے کو یہ نہیں کہتے: بھائی! تم نے نماز کے درمیان بلا وجہ اس سے الجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی تو اچھا کام کر رہا تھا۔ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو بغیر کسی خارجی قرینہ کے یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جہری نمازیں تو ایک طرف، ان میں تو بھلا امام کے پیچھے قراءت کی اجازت کب نکل سکتی ہے؟ سزای نمازوں میں بھی امام کے پیچھے قراءت کرنا نہ تو جائز ہے اور نہ مستحب، پھر ضروری کہاں سے ہوگا؟۔ چونکہ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مطلق قراءت سے منع کیا ہے۔ اس لیے اس کو محض اپنی رائے سے فاتحہ کے علاوہ قراءت پر محمول کرنا باطل اور مردود ہے۔ یہ روایت حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو قراءت کا اولین مصداق سورت فاتحہ اور ام الكتاب میں منحصر سمجھتے ہیں۔ لہذا قراءت کو ما زاد علی الفاتحہ پر محمول کرنا توجیہ القول بما لایرضی بہ قائلہ کا ارتکاب کرنا ہوگا جو محض بے بنیاد اور بیکار ہے۔

(احسن الکلام ج ۱ ص ۳۵۰)

3 حدیث حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 26 (15):۔ قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصْرِ، قَالَ: فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَغَمَزَهُ الَّذِي يَلِيهِ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى قَالَ: لِمَ غَمَزْتَنِي؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَامَكَ، فَكِرِهْتُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَهُ، فَسَبَّحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(موطأ مالک بروایة محمد بن الحسن الشیبانی، ص ۶۲، ۶۳ رقم 124 المؤلف: مالک بن انس بن مالک بن عامر الأصبغی المدنی (المتوفى ۱۷۵ھ). تعلیق و تحقیق: عبد الوہاب عبد اللطیف. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الثانية)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجُلٌ يَنْهَاهُ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ أَقْرَأُ وَكَانَ هَذَا يَنْهَانِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(المصنف، ج ۲ ص ۱۳۶ رقم 2797 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى اليماني الصنعاني (المتوفى ۲۱۱ھ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة: الثانية، ۱۴۰۳ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی امامت کرائی۔ ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قراءت کی۔ جو نمازی اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے اس کا بدن ذرا دبا دیا تاکہ وہ قراءت سے باز آجائے۔ جب نماز ادا ہو چکی تو اس نے کہا: ”تم نے مجھے کیوں ٹولا اور دبا دیا

تھا؟“۔ منع کرنے والے نے کہا: ”چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے قراءت کرتے تھے، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تم بھی قراءت کرو۔“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس کو (الگ قراءت نہیں کرنی چاہئے بلکہ) امام کی قراءت ہی اس کو کافی اور بس ہے۔“

حدیث نمبر 27 (۱۶): - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَجَرِيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن ابن شيبه) ج ۱ ص ۳۳۰ رقم 3779. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسی (المتوفى ۲۳۵ھ). المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، ۱۴۰۹ھ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس کو (الگ قراءت نہیں کرنی چاہئے بلکہ) امام کی قراءت ہی اس کو کافی اور بس ہے۔“

4 علامہ بدرالدین عینی رضی اللہ عنہ کی حدیث ”من كان له

إمام؛ فقرأة الإمام له قراءة“ کی تصحیح

تحقیق وَقَالَ أَيُّضًا: اسْتَدَلَّ مِنْ أَسْقَطِهَا أَى: مَنْ أَسْقَطَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ عَنْ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا يَعْنِي أَسْرَ الْإِمَامِ أَوْ جَهْرَ كَالْحَنْفِيَّةِ بِحَدِيثِ: (مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ). لَكِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْحَفَازِ. وَقَدْ اسْتَوْعَبَ طَرَفَهُ وَعَلَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ. قُلْتُ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُمْ. فَحَدِيثُ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ قِرَاءَةً لَهُ . وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي (الْأَوْسَطِ) عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي (سَنَنِهِ) مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ سَوَاءً. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: "يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتْ أَوْ جَهَرَ". وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي (كِتَابِ الضُّعْفَاءِ) : عَنْ غَنِيمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً. فَإِنْ قَلْتُ: فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ وَهُوَ مُجْرُوحٌ. كَذَبَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَجِيحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو مَوْقُوفٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رَفَعَهُ وَهُمْ: وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَحْمَدَ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ: وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَصِحُّ عَنْ سُهَيْلٍ، وَتَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ غَنِيمِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ حَبَّانٍ: هُوَ مُخَالَفُ الثِّقَاتِ فِي الرِّوَايَاتِ فَلَا تَعْجَبْنِي الرِّوَايَةُ عَنْهُ، فَكَيْفَ الْإِحْتِجَاجُ؟ قُلْتُ: أَمَا حَدِيثُ جَابِرِ فَلَهُ طَرُقٌ أُخْرِي يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا: مِنْهَا طَرِيقٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي (الْمَوْظَأِ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ

قِرَاءَةٌ: فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي (سَنَنِهِ) ثُمَّ
 الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ مَقْرُونًا بِالْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ
 وَحَدَهُ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُسْنَدْهُ عَنْ جَابِرِ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ. وَقَدْ رَوَاهُ
 سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ وَأَبُو خَالِدٍ
 الدَّالَانِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي
 عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.
 وَهُوَ الصَّوَابُ. قُلْتَ: لَوْ تَأَدَّبَ الدَّارِقُطْنِيُّ وَاسْتَحْيَى لَهَا تَلْفِظَ بِهَذِهِ
 اللَّفْظَةِ فِي حَقِّ أَبِي حَنِيْفَةَ فَإِنَّهُ إِمَامٌ طَبَقَ عَلَيْهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ. وَلَبَّأِ
 سُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْهُ فَقَالَ: ثِقَّةٌ مَأْمُونٌ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا ضَعْفَهُ. هَذَا
 شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ يَكْتُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَحْدِثَ وَشُعْبَةُ شُعْبَةٌ. وَقَالَ أَيْضًا:
 كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ ثِقَّةً مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالصَّدْقِ وَلَمْ يَتَّهَمْ بِالْكَذِبِ. وَكَانَ
 مَأْمُونًا عَلَى دِينِ اللَّهِ تَعَالَى. صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ. وَأَثْنِي عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ
 الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ. وَيَعُدُّ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَسُفْيَانُ بْنُ
 عُيَيْنَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَوَكَيْعٌ. وَكَانَ
 يُفْتِي بِرَأْيِهِ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَآخَرُونَ كَثِيرُونَ.
 وَقَدْ ظَهَرَ لَكَ مِنْ هَذَا تَحَامُلُ الدَّارِقُطْنِيِّ عَلَيْهِ وَتَعْصِبُهُ الْفَاسِدُ. وَلَيْسَ
 لَهُ مِقْدَارٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَوْلَاءِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ فِي إِمَامٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى هَوْلَاءِ فِي
 الدِّينِ وَالتَّقْوَى وَالْعِلْمِ. وَبِتَضْعِيفِهِ إِتْيَاهُ يَسْتَحِقُّ هُوَ التَّضْعِيفَ. أَفَلَا
 يَرْضَى بِسُكُوتِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَقَدْ رَوَى فِي (سَنَنِهِ) أَحَادِيثَ سَقِيمَةً
 وَمَعْلُولَةً وَمَنْكَرَةً وَغَرِيبَةً وَمَوْضُوعَةً؛ وَلَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً فِي
 كِتَابِهِ (الْجَهْرُ بِالْبِسْمَلَةِ) وَاحْتَجَّ بِهَا مَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. حَتَّى إِنْ بَعْضُهُمْ
 اسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَلَقَدْ صَدَّقَ
 الْقَائِلُ:

حسدوا الْفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيِهِ فَالْقَوْمُ أَعْدَاءُ لَهُ وَخُصُومٌ
 وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ... إِلَى آخِرِهِ فَلَا يَضُرُّنَا. لِأَنَّ الزِّيَادَةَ
 مِنَ الثِّقَّةِ مَقْبُولَةٌ. وَلَئِنْ سَلِمْنَا فَالْمُرْسَلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ. وَجَوَابُنَا عَنْ
 الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَالُوا: فِي أَسَانِيدِهَا ضَعْفَاءٌ، إِنَّ الضَّعِيفَ يَتَّقَى
 بِالصَّحِيحِ وَيُقَوِّى بَعْضَهَا بَعْضًا. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي بَعْضِهَا: فَهُوَ مَوْقُوفٌ.
 فَالْمَوْقُوفُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ عُدُولٌ. وَمَعَ هَذَا رَوَى مَنْعُ الْقِرَاءَةِ
 خَلْفَ الْإِمَامِ عَنْ ثَمَانِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِبَارِ مِنْهُمْ: الْمُرْتَضَى
 وَالْعَبَادِلَةُ الثَّلَاثَةُ وَأَسَامِيهِمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَكَانَ اتِّفَاقُهُمْ
 بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ، فَمِنْ هَذَا قَالَ صَاحِبُ (الْهُدَايَةِ) مِنْ أَصْحَابِنَا: وَعَلَى
 تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَسَمَاءُ إِجْمَاعًا بِاعْتِبَارِ
 اتِّفَاقِ الْأَكْثَرِ، وَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى إِجْمَاعًا عِنْدَنَا.

(عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج ٦ ص ١٢، ١٣. المؤلف: أبو محمد محمود بن
 أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني رحمته
 (المتوفى ٨٥٥هـ). الناشر: دار إحياء التراث العربى، بيروت)

5 علامہ البانی رحمته اللہ غیر مقلد کی حدیث ”من كان له

إمام؛ فقرأة الإمام له قراءة“ کی تحسین

”من كان له إمام؛ فقرأة الإمام له قراءة“

هو من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. رواه أبو حنيفة الإمام قال: ثنا أبو
 الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه مرفوعاً به.
 أخرجه الإمام محمد فى ”الموطأ“ (94-96) وفى ”الإثارة“ (16)، والطحاوى (128/1).
 والدارقطنى (122 و 123)، والبيهقى (159/2)، كلهم عن أبي حنيفة به.
 ورواه عبد الله بن المبارك عنه، وعن غيره مرسلأ، بدون ذكر: جابر.

أخرجه البيهقى (160/2) عنه: أنبا سفيان وشعبة وأبو حنيفة عن موسى بن أبي

تحقيق

عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره. وكذا رواه الطحاوي من طريق سفيان وحده. وكذلك رواه منصور بن المعتمر. وابن عيينة، وإسرائيل بن يونس، وأبو عوانة، وأبو الأحوص، وجريز بن عبد الحميد، وغيرهم من الثقات الأثبات عن موسى عن ابن شداد مرسلًا. قال الدارقطني والبيهقي: "وهو الصواب".

قلت: وتعقبها ابن الهمام في "الفتح" (239/1) بقوله: "قال أحمد بن منيع في "مسندة": أخبرنا إسحاق الأزرق: ثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر رضى الله عنه مرفوعاً به". ثم قال: "وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فقد وصله سفيان وشريك؛ فبطل عداهم فيمن رواه مرسلًا". قلت: فإذا صح وثبت هذا الإسناد في "مسند أحمد بن منيع" - فإنه مفقود اليوم، حتى إنها لم تكن عند الحافظ ابن حجر كما ذكر الكشميري في "الفيض" (277/2).

أقول: إذا ثبت ذلك؛ فالحديث صحيح موصولاً، ويكون أبو حنيفة لم ينفرد به، وإلا: فهو مرسل صحيح الإسناد. ثم إن مرسله عبد الله بن شداد من كبار التابعين الثقات، ولد على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان معدوداً في الفقهاء - كما في "التقريب" - وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق: "ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل".

قلت: ولا سيما وأن له طرقاً أخرى يشد بعضها بعضاً - كما قال الزيلعي في "نصب الراية" (7/2):

الطريق الأولى: عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر.

أخرجه ابن ماجه (280/1) ، والطحاوي، والدارقطني (126) من طريقين عن الحسن بن صالح عن جابر الجعفي به.

وجابر: ضعيف. وقد تابعه ليك بن أبي سليم، وهو خير منه؛ فإنه ضعيف لسوء حفظه.

أخرجه الطحاوي، والدارقطني، والبيهقي (160/2) من طريق يحيى بن أبي بكير

وإسحاق بن منصور السُّلُولى قالوا: ثنا الحسن بن صالح بن حُخى عن جابر وليث بن أبي سُلَيْمٍ عن أبي الزبير به. قال الدارقطنى:
"جابر وليث: ضعيفان".

قلت: وقد ورد بإسقاطها من بين الحسن بن صالح وأبي الزبير: قال ابن التركمانى: "قلت: فى "مصنف ابن أبى شيبه": ثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعاً.

وهذا سند صحيح. وكذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبى الزبير. ولم يذكر الجعفى. كذا فى "أطراف المزى".

وتوفى أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومئة. ذكره الترمذى وعمرو بن على. والحسن ابن صالح ولد سنة مئة، وتوفى سنة سبع وستين ومئة. وسماعه من أبى الزبير ممكن.

ومذهب الجمهور: إن أمكن لقاءه لشخص، وروى عنه: فروايته محمولة على الاتصال، فيُحتمل على أن الحسن سمعه من أبى الزبير مرة بلا واسطة. ومرة أخرى بواسطة الجعفى وليث. اهـ

وما ذكره عن أبى نعيم لعله رواية عنه، وإلا: فقد رواه الدارقطنى من طريقه عن الحسن عن جابر به.

وقد رواه أحمد فى "المسند" (339/3) - مثل ابن أبى شيبه { (1/97/1) } - فقال: ثنا أسود بن عامر: أنا حسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعاً. ونقل المعلق على "نصب الراية" عن "الشرح الكبير للمقنع" (2/11) أنه قال: "وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات: الأسود بن عامر روى له البخارى. والحسن بن صالح أدرك أبا الزبير: ولد قبل وفاته بنيف وعشرين سنة". اهـ

قلت: وفى قوله أنه "متصل" نظر: فإن أبا الزبير مشهور بالتدليس، وقد عنعن. ولم يصرح بالسماع: فهو محمول على الانقطاع.

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن أبى الزبير.

أخرجه الإمام محمد فى "الموطأ" (96)، والدارقطنى (154)، والطبرانى فى "الأوسط" عن سهل بن العباس الترمذى: ثنا إسماعيل ابن عُلَيْتَةَ عن أيوب عن

أبي الزبير به. وقال الدارقطني: "هذا حديث منكر. وسهل بن العباس: متروك".
وتراجع طرق هذا الحديث في كتاب "إمام الكلام" (ص 133-138). ثم قال في
نهاية ذلك: "والحاصل: أن طرق الحديث بعضها صحيحة أو حسنة، وبعضها ضعيفة
ينجبر ضعفها بغيرها من الطرق الكثيرة. فالقول بأنه حديث غير ثابت، أو غير
محتاج به، ونحو ذلك، غير معتد به".

وللحديث شواهد كثيرة عن ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس.
خرجها الزيلعي في "نصب الراية" (2/10-12)، والحافظ ابن حجر في "الدراية"
(93).

{وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في "الفروع" لابن عبد الهادي (ق 2/48)،
وصح بعض طرقه البوصيري، وقد تكلمت عليه بتفصيل، وتتبع طرقه في
"إرواء الغليل" (500)}.

(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1 ص 355-359. المؤلف: محمد
ناصر الدين الألباني رحمه الله (المتوفى: 1420 هـ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع - الرياض. الطبعة: الأولى 1427 هـ - 2006 م)

3.6: حديث حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

حديث نمبر 28:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ زَكْرِيَّا التَّمَّارُ، ثنا أَبُو مُوسَى
الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
خَافَتَ أَوْ جَهَرَ".

(سنن الدارقطني، ج 2 ص 122 رقم 1252. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمه الله (المتوفى 385 هـ)
حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد
اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الطبعة:
الأولى، 1423 هـ)

(حدیث حسن، اعلاء السنن ج ۳ ص ۸۲)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تجھے نماز میں امام کی قراءت ہی کافی ہے، چاہے وہ قراءت جہری کرے یا سری۔“
فائدہ یہ روایت کتنی واضح ہے اور اس میں صاف صاف جہری اور سری نمازوں کا حکم جناب رسول اللہ ﷺ نے بیان فرما دیا ہے کہ صرف امام پڑھے اور مقتدی نہ پڑھے بلکہ اس کی طرف سے بھی امام ہی کا پڑھنا کافی ہے۔

3.7: حدیث حضرت ابو دردا غرضی رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 29:- عُمَرُ، نَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّدَاءِ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟" فَقَالَ: "نَعَمْ." فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: "وَجَبَتْ هَذِهِ." فَقَالَ لَهُ - وَكَانَ أَقْرَبُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ -: "مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ."

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن ابن شيبه) ج ۷ ص ۳۷ رقم 34)

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي (المتوفى ۲۳۵ھ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، ۲۰۰۹ھ)

□ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيِّ حَدِيثُ بَنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّدَاءِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟" قَالَ: "نَعَمْ." قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: "وَجَبَتْ هَذِهِ." فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: "مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا

أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ..

(السنن الكبرى ج ١ ص ٤٦٣ رقم 997. المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي رحمته (المتوفى ٢٠٣هـ) حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي. أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط. قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى ١٣٢١هـ)

□ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْجَبَّارِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِّي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَ هَذَا؟.. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا قرَأَ إِلَّا كَافِيًا..

(مسند الشاميين ج ٣ ص ٢٦٣، ٢٦٥ رقم 2223. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى: ٣٦٠هـ). المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى ١٣٠٥هـ)

□ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "أَمِّي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟" قَالَ: "نَعَمْ.. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: "وَجَبَتْ هَذِهِ" فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ: "مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ.."

(السنن الكبرى ج ٢ ص ٢٣٢ رقم 2909. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى ٣٥٨هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٣٢٣هـ) (مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٣٣ رقم ٢٦٣٣ رواه الطبراني في الكبير واصله حسن؛ سنن دارقطني رقم 1262؛

مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۷۳ رقم ۲۸۰۸۰ طبع بیت الافکار الدولیہ، بیروت؛ نسائی ص ۱۵۲، ۱۵۳ رقم ۹۲۳،

قال الالبانی: صحیح الاسناد طبع مکتبۃ المعارف، ریاض؛ کتاب القراءة رقم ۳۷۷، ۳۷۸ (۳

ترجمہ حضرت ابو دردا غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ”کیا ہر نماز میں قراءت ہے؟“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں“۔ قوم میں سے ایک شخص کہنے لگا: ”پھر تو قراءت ضروری ہو گئی؟“۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تو یہی جانتا ہوں کہ امام کی قراءت مقتدیوں کو کافی ہے۔“

دارقطنی (رقم 1262) اور سنن کبریٰ بیہقی (رقم 2909) کی روایت میں ہے کہ

حضرت ابو دردا غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں تمام اہل مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ”میں تو یہی جانتا ہوں کہ امام کی قراءت مقتدیوں کو کافی ہے۔“

فائدہ

اس روایت میں حضرت ابو دردا غنی رضی اللہ عنہ اس بات کی تصریح فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا۔ جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس بات کی بھی تصریح کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے وقت اور جواب دیتے وقت خاص طور پر میری طرف توجہ فرمائی تھی۔ یہ قوی قرائن بتاتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ (رقم ۹۲۳) نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا ہے: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، بلکہ حضرت ابو دردا غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے (موقوف روایت کو آثار صحابہ رضی اللہ عنہم میں پیش کیا جائے گا)، لیکن اوپر ذکر کردہ دلائل سے فرمان نبوی ہی ہے۔

اس روایت میں سری اور جہری نماز کی کوئی قید مذکور نہیں ہے، اس لیے یہ تمام نمازوں کو شامل ہے۔ لہذا نہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قراءت ہے نہ سری نمازوں میں۔

3.8: حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث منازعت بھی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت اور انصاف کے حکم کو امام اور مقتدی کے درمیان تقسیم کر دیا

ہے۔ پس ہر ایک کو اس کا حق انصاف کے ساتھ اس طرح عطا کیا کہ مخالف کو کلام کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن جب مقتدیوں میں سے بعض لوگ آپ ﷺ کے پیچھے پڑھنے سے باز نہ آئے۔ ان کا قراءت کرنا یا تو کسی شبہ کے سبب تھا جو ان کو پیش آیا۔ یا تو قراءت کی تخصیص کے احتمال کے ساتھ، یا کسی نماز کی تخصیص کے ساتھ، یا ان کو قراءت سے نہی کی حدیث، جو اس بارے میں صریح تھی، نہ پہنچی ہو۔ یا ان کے مانند اور عوارضات کی وجہ سے۔ پس کسی شخص نے جناب رسول اللہ کے پیچھے قراءت کر دی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو زجر کی۔ آپ ﷺ نے جہری نمازوں میں بطور استقلال قراءت پر ڈانٹا تھا اور اسی طرح سری نمازوں میں بھی استقلالاً زجر کی تھی، ساتھ اس کے کہ دونوں واقعوں میں اتحاد ثابت ہوتا ہے۔

(الدلیل المبین علی ترک القراءۃ للمقتدین ص ۱۳۱، ۱۳۲ مطبع مجبائی پرنٹنگ پریس، بیرون دروازہ شیرانوالہ، لاہور)

یہ حدیث حنفیہ کے مسلک پر صریح ہونے کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کر رہی ہے کہ قراءت خلف الامام کو منازعت القرآن (قرآن کے بارے میں امام کے ساتھ جھگڑنا) قرار دیئے جانے کے بعد صحابہ کرام نے قراءت خلف الامام کو ترک کر دیا تھا۔ اس حدیث میں یہ تاویل بھی نہیں ہو سکتی کہ اس میں قراءت سورت خلف الامام سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ قراءت فاتحہ خلف الامام سے کیونکہ آپ ﷺ نے ممانعت کی علت بھی بیان فرمادی ہے۔ اور وہ ہے قرآن پڑھنے سے متعلق امام کے ساتھ منازعت (جھگڑا) کرنا۔ اور یہ علت جس طرح قراءت سورت میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح قراءت فاتحہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا دونوں کا حکم ایک ہے۔

حدیث نمبر 30 (۱): - مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنِ اَبِي

هُرَيْرَةَ: اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِنْفَاءً؟" فَقَالَ رَجُلٌ: "نَعَمْ. اَنَا، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!" قَالَ: "فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِنِّي اَقُوْلُ مَا لِي اَنْزَعُ الْقُرْآنَ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

التَّخْرِيجُ: أخرجه أبو مصعب الزهري، 250 في النداء والصلاة والحدثاني، 93 في الصلاة والشيباني، 111 في الصلاة وابن حنبل، 7994 في م 2 ص 301 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 919 في الافتتاح عن طريق قتيبة، وأبو داود 826 في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 312 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1849 في م 5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقاسبي، 80. كلهم عن مالك به.

(الموطأ، ج 2 ص 118 رقم 286 / 79 المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى 91هـ) المحقق: محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبوظبي، الإمارات. الطبعة: الأولى، 1425هـ)

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے فارغ ہو کر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت جہر (بلند آواز) سے کی تھی، فرمایا: ”کیا تم میں سے کسی نے اس وقت میرے ساتھ قراءت کی ہے؟“۔ ایک شخص نے کہا: ہاں! یا رسول اللہ! میں نے قراءت کی ہے۔“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں بھی تو کہوں کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ قراءت کے ہارے میں نزاع کر رہا ہے۔“ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو اس نماز میں قراءت کرنے سے رک گئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے قراءت فرمایا کرتے تھے۔

حدیث نمبر 31 (2): - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ

أَكْبَمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفَاءً؟» قَالَ رَجُلٌ: «نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!» قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
 إسنادہ صحیح، رجالہ ثقات رجال الشیخین سوی ابن اُکیمہ واسمہ عمارۃ۔ وهو ثقة، وقد سلف الكلام عليه عند هذا الحديث برقم (7270).

تحقیق

عبد الرحمن: هو ابن مهدی، ومالك: هو ابن أنس الإمام.
 وهو في "موطأ مالك" 86/1، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (33)،
 والبخاری في "الصلاة خلف الإمام" (95) و (262)، وأبو داود (826)، والترمذی
 (312)، والنسائی 140/2، وابن حبان (1849)، والبيهقي في "السنن" 157/2، وفي
 "القراءة خلف الإمام" (317)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/11، والبغوی
 (607). ولم يذكر البخاری في روايته: فانتهی الناس... الخ.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 13 ص 83 رقم 8007. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے فارغ ہو کر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت جہر سے کی تھی، فرمایا: "کیا تم میں سے کسی نے اس وقت میرے ساتھ قراءت کی ہے؟"۔ ایک شخص نے کہا: "ہاں! یا رسول اللہ! میں نے قراءت کی ہے"۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں بھی تو کہوں کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ قراءت کے بارے میں نزاع کر رہا ہے"۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو اس نماز میں قراءت کرنے سے رک گئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے قراءت فرمایا کرتے تھے۔

حدیث نمبر 32 (3): - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَمَا سَلَّمَ، فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَعِيَ إِنْفَاءً؟" قَالُوا: "نَعَمْ يَا رَسُولَ

اللّٰهُ! قَالَ: إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أكيمة واسمه غمارة، وهو ثقة، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (7270).

تحقيق

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2795) عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (849) من طريق عبد الأعلى، والخطيب في "تاريخه" 86/7 من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، به. ولم يذكر الخطيب في روايته: فانتهى الناس... الخ.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 13، ص 222، 223، رقم 7819، المؤلف: أبو عبد الله

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق:

شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن

التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ)

(مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 87 رقم 270 طبع دار الكتب العلمية، بيروت؛ ج 2 ص

135 رقم 295 طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچی)

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے فارغ

ہو کر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت جہر سے کی تھی، فرمایا: "کیا تم میں سے کسی نے

اس وقت میرے ساتھ قراءت کی ہے؟"۔ ایک شخص نے کہا: "ہاں! یا رسول اللہ!

میں نے قراءت کی ہے"۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں بھی تو کہوں کہ یہ

کون ہے جو میرے ساتھ قراءت کے بارے میں نزاع کر رہا ہے؟"۔ جب لوگوں

نے یہ بات سنی تو اس نماز میں قراءت کرنے سے رک گئے، جس میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے قراءت فرمایا کرتے تھے۔

حدیث نمبر 33 (4): - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ

بِشَّابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَكِيْمَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً يَجْهَرُ فِيهَا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ أَنْفَاءً؟" قَالُوا: "نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!". قَالَ: "إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ؟"

تحقیق
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أكيمة، واسمه غمارة، وهو ثقة، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (7270).

ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (320) من طريق محمد بن بكر البُزْسانِي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2796) عن ابن جريج، به.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 13 ص 230 رقم 7833، المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔

جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر سے قراءت کی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

نماز پوری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کیا ابھی تم میں سے کسی نے میرے

ساتھ قراءت کی ہے؟"۔ لوگوں نے کہا: "ہاں! یا رسول اللہ!"۔ جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں بھی تو کہوں کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ قراءت کے بارے

میں نزاع کر رہا ہے۔"

حدیث نمبر 34 (5): - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي امْعَشْرِ، شَيْخٌ

بِكُفْرِ ثُوْتَا، مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسَعِنِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْفَرِّيَائِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةً، فَجَهَرَ فِيهَا فَقَرَأَ أَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: "قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟"

قَالُوا: "نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!". قَالَ: "إِنِّي لَأَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ؟"

قَالَ: "فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَأُونَ".

(صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۵ ص ۱۵۹، ۱۶۰، رقم 1850 المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التیمی، أبو حاتم، الدارمی، البستی رحمته (المتوفى ۲۵۴ھ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة: الثانية، ۱۴۱۳ھ)

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَأُونَ". □

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۱۷، رقم 1290، 1291. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمته (المتوفى ۳۲۱ھ). حققه وقدم له: محمد زهری النجار، محمد سید جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت سعید بن مسیب رحمته فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت جہر سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم میں سے کسی نے اس وقت میرے ساتھ قراءت کی ہے؟“۔ لوگوں نے عرض کیا: ”ہاں! یا رسول اللہ!“۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں بھی تو کہوں کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ قراءت کے بارے میں نزاع کر رہا ہے؟“۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پس لوگوں نے اس کے ساتھ نصیحت پکڑی۔ پس وہ قراءت نہ کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 35 (۶): - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ ابْنَ أَكْبِيَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ

بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ، نَظَرْنَا أَتَهَا الصُّبْحُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : "هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟" قَالَ رَجُلٌ : "أَنَا" . قَالَ : "أَقُولُ : مَا لِي أَنْتَ عِ الْقُرْآنَ؟" . قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : "فَأَنْتَهَى النَّاسَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" . قَالَ سُفْيَانُ : "خَفِيَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ" .

محقق

إسناده صحيح، ابن أكيمة - واسمه عمارة، وقيل: عمار، وقيل: عمرو، وقيل: عامر - لم يرو عنه إلا الزهري، وحديثه في السنن الأربعة وعند البخاري في "القراءة خلف الإمام"، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال فيه أيضا: كفاك قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمدينة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث، حديثه مقبول، وقال البزار: ليس مشهورا بالنقل، ولم يحدث عنه إلا الزهري، وقال ابن سعد: منهم من لا يحتج بحديثه يقول: هو شيخ مجهول، وجهله الحميدى وابن خزيمة والبيهقى، وقال ابن حجر في "التقريب": ثقة، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/11-22: الدليل على جلالته أنه كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يصفى إلى حديثه عن أبي هريرة، وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة، وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه، وبه قال ابن شهاب، وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته، وبالله التوفيق.

وقول الزهري في آخر الحديث: "فأنتهى الناس ... الخ"، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 231/1: هو من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري في "التاريخ" (38/9)، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، والذهلي، والخطابي، وغيرهم. قلنا: فهو على هذا مرسل.

والحديث أخرجه المزي في ترجمة عمارة بن أكيمة من "تهذيب الكمال" 230-229/21 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 375/1، وعنه ابن ماجه (848) وقرن به هشام بن عمار.

وأخرجه أبو داود (827)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 157/2، وابن عبد البر في "التمهيد" 25/11 عن مسدد وأحمد بن محمد البروزي، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري، وابن السرح، وأخرجه البيهقي في "السنن" 157/2 من طريق علي بن أحمد المديني، وفي "القراءة خلف الإمام" (321) من طريق أبي داود عن عبد الله بن محمد الزهري، وأخرجه ابن عبد البر 25-24/11 من طريق حامد بن يحيى، تسعتهم عن سفيان بن عيينة، به.

انتهى ابن أبي شيبة وهشام بن عامر وحامد بن يحيى إلى قوله: "ما لي أنزع القرآن"، وقال أبو داود: قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس! وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس، وقال البيهقي: قال علي بن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، قال علي: قال لي سفيان يوماً: فنظرت في شيء عندي، فإذا هو: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح، بلا شك.

وأخرجه ابن عبد البر 27-26/11 من طريق أبي أويس، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (96) من طريق الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، به. قال البخاري: وقوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن صباح، قال: حدثنا مبشر، عن الأوزاعي: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (98)، وابن حبان (1843)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (318) و(319) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، به. انتهى حديثه إلى قوله: "ما لي أنزع القرآن".

وأخرجه مع قول الزهري بنحوه أبو يعلى (5861) من طريق مبشر بن إسماعيل وابن حبان (1850) من طريق الفريابي، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (322) من طريق الوليد بن مزيد، و(324) من طريق بشر بن بكر، ثلاثهم عن الأوزاعي.

عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فجعل سعيد بن المسيب في موضع ابن أكيمة، قال ابن عبد البر 24/11: وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث، والحديث محفوظ لابن أكيمة ...

وأخرجه ابن حبان (1851) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن من سمع أبا هريرة يقول ... فذكره. قال ابن حبان: فعلم الوليد بن مسلم أنه وهم (يعني الأوزاعي) فقال: عن من سمع أبا هريرة، ولم يذكر سعيداً. قلنا: وسواء أكانت هذه الزيادة (وهي: فانتهى الناس ...) من قول أبي هريرة أو من مرسل الزهري، فإنها زيادة صحيحة، يعرضها قول الله تبارك وتعالى: (وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف: 204]، فقد اتفق أهل العلم على أن المراد من قوله: (فاستمعوا)، وجوب الإنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام، كما في "جامع البيان" 166-162/9، و"التمهيد" 31-30/11. ويعرضها أيضاً قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإذا قرأ (يعني الإمام) فأنصتوا"، رواه مسلم (404) (63)، وأبو داود (604) وغيرهما.

وحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" يخص المنفرد والإمام، فإن قراءة الفاتحة في حقها واجبة، فهو من العام الذي أريد به الخاص، وأما المأموم فيجب عليه الإنصات في الجهرية، وأما في السرية فيسن له أن يقرأ الفاتحة، لأن الإمام يحمل عنه ذلك لحديث: "من كان له إمام، فقراءته له قراءة"، وهو حديث حسن روى عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، سيأتي في "المسند" 339/3، ونفصل القول فيه هناك إن شاء الله تعالى، وانظر "التمهيد" 1/271-55، و"المغنى" 2/259-265، و"تهذيب السنن" 1/392.

وسياق حديث أبي هريرة برقم (7819) و(7833) و(8007) و(10318).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 12، ص 211، رقم 7270. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (الوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ).

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔

ہم جانتے ہیں کہ وہ صبح کی نماز تھی۔ پھر جب آپ ﷺ نے نماز پوری کر لی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا ابھی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟“۔ ایک شخص نے کہا: ”ہاں! میں نے کی ہے“۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں بھی تو کہوں کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ قراءت کے بارے میں نزاع کر رہا ہے؟“۔ حضرت معمرؓ نے کہا: حضرت امام زہریؒ نے فرمایا: ”پھر لوگ اس نماز میں قراءت سے رُک گئے جس میں رسول اللہ ﷺ قراءت جہر سے کرتے تھے“۔ حضرت سفیانؓ فرماتے ہیں: ”مجھ پر اس حدیث کا یہ کلمہ نئی رو گیا تھا“۔

حدیث نمبر 36 (۷): - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الشُّوشِيّ،

ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ. أَنبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَرَأَ نَاسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُتَارَعُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَأُونَ».

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۲۲۶ رقم 2894 المؤلف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

الخسرو جردى الخراساني. أبو بكر البيهقي (المتوفى ۳۵۸هـ). المحقق: محمد عبد

القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳هـ)

ترجمہ حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس نماز میں قراءت کی جس نماز میں جہر سے قراءت کی جاتی ہے۔ پھر جب آپ ﷺ فارغ ہوئے، تو صحابہ کرامؓ کی طرف متوجہ ہوئے، تو فرمایا: ”کیا میرے ساتھ تم میں سے کسی نے قراءت کی ہے؟“۔ تو لوگوں نے کہا: ”ہاں! یا رسول اللہ!“۔ پس آپ

ﷺ نے فرمایا: ”میں کہتا تھا: کیا ہے مجھ کو کہ میں قرآن میں منازعت کیا جاتا ہوں؟“۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”پس لوگوں نے اس سے وعظ (عبرت اور نصیحت) حاصل کیا۔ پھر قراءت نہ کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 37 (۸):۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

أَبِي خَلْفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ أَكْبَمَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظَرْنَا فِيهَا الصُّبْحَ بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ: ”مَا لِي أُتَارِعُ الْقُرْآنَ“ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ”فَانْتَهَى النَّاسُ“ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ: مِنْ بَيْنِهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّهُ قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ: ”مَا لِي أُتَارِعُ الْقُرْآنَ“ وَرَوَاهَا لِأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَأُونَ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ.

تحقیق

حدیث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند أحمد (10318). وأما حديث الأوزاعي عن الزهري فهو عند ابن حبان في ”صحيحه“ (1850) و (1851). لكن جعله الأوزاعي من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهو وهم كما بينه ابن حبان يابن روايته للحديث.

وكذلك قال البخاري في ”القراءة خلف الإمام“ (96) وفي ”التاريخ الكبير“ 38/9. وابن حبان في ”صحيحه“ والخطيب في ”الفصل للوصول المدرج في النقل“ 292/1.

ونقله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/231 عن غير واحد وقد رد هذه الدعوى الإمام ابن القيم في بحث جيد في "تهذيب السنن" 1/391-393 فراجع له لزاماً. وسواء كانت هذه الزيادة من قول أبي هريرة أو من مرسل الزهري فإنها زيادة صحيحة. يَعْضُدهَا قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (الأعراف: 204). فقد اتفق جمهور أهل العلم على أن المراد من قوله: "فَاسْتَمِعُوا" وجوب الإنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام. كما في "تفسير الطبري" 9/162-166، و"التمهيد" لابن عبد البر 11/30-31. ويعضدها أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "وَإِذَا قَرَأَ (يعني الإمام) فَانصِتُوا" رواه مسلم (404) (63). وسلف عند أبي داود برقم (604).

(سنن أبي داود، ج 2 ص 118، رقم 827. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رَحِمَهُ اللهُ (المتوفى: 245هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلي. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى 1433هـ).

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ صبح کی نماز تھی۔ ساتھ ہی اول حدیث کے، اس کے "مآلی أنارُع القرآن" تک۔

حضرت مسدود رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں فرمایا: "لوگ اس نماز میں قراءت سے رُک گئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے قراءت کرتے تھے"۔ حضرت ابن سر رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں فرمایا: حضرت معمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت زہری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "پھر لوگ قراءت سے رُک گئے"۔ حضرت عبد اللہ بن محمد زہری رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ بھی فرمایا تھا: مِنْ بَيْنِهِمْ. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: امام زہری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے ایک کلمہ فرمایا جس کو میں نے نہیں سن سکا تھا۔ پھر (میرے پوچھنے پر) حضرت معمر رضی اللہ عنہ نے بتایا: امام زہری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: "پھر لوگ رُک گئے"۔ امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عبد الرحمن بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے امام زہری رضی اللہ عنہ سے حدیث: "مآلی أنارُع القرآن"

تک ہی روایت کی ہے۔ اس حدیث کو امام اوزاعی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں: امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پس لوگوں نے اس سے وعظ (عبرت اور نصیحت) حاصل کیا۔ پھر قراءت نہ کرتے تھے جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے قراءت کرتے تھے۔“ حضرت امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت محمد بن یحییٰ بن فارس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے: ”فَانْتَهَى النَّاسُ“ امام زہری رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔

6 ”فَانْتَهَى النَّاسُ الْخ“ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا

قول ہی ہے

اعتراض ”فَانْتَهَى النَّاسُ“ امام زہری رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔ یہ مدرج ہے۔
جواب یہ کہنا کہ یہ امام زہری رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ تابعین رضی اللہ عنہم نے امام کے پیچھے قراءت ترک کر دی تھی۔ یہ اصول کے لحاظ سے غلط ہے۔

اولاً امام بیہقی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو جملہ حدیث مرفوع کے ساتھ بیان ہو، وہ مرفوع ہی ہو گا، الا یہ کہ اس کے مدرج ہونے پر قاطع دلیل قائم ہو۔ (تلخیص الجہیر ص ۱۲۶)
اور کمزور سند اور محض احتمال سے ادراج ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

محض احتمال سے ادراج ثابت نہیں ہو سکتا۔ (فتح الباری ج ۱۱ ص ۴۲۵)
اس کے مدرج ہونے کی کوئی عقلی اور نقلی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔

ثانیاً حضرت امام بیہقی رضی اللہ عنہ، علامہ حازمی رضی اللہ عنہ، حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ اور امام نووی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

وَبَيِّنًا أَنَّ الصَّحِيحَ بِلِ الصَّوَابِ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ
وَمَحَقَّقُوا الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا أَوْ مَوْضُوعًا
وَمُرْسَلًا حُكِمَ بِالرَّفْعِ وَالْوَضَلِ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ ثِقَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّافِعُ

(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بنووي رحمه الله شرح مسلم بن

ص ۲۲۹ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله (المتوفى ۷۱۷هـ). طبع: دار

إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثانية. ۱۳۹۲هـ)

ہم بیان کر آئے ہیں کہ صحیح بلکہ خالص حق بات یہ ہے جس پر فقہاء، علمائے اصول اور

ترجمہ

محقق محدثین متفق ہیں کہ جب کوئی حدیث مرفوع اور موقوف روایت کی گئی ہو، یا

موصول اور مرسل بیان ہوئی ہو، تو اس صورت میں حدیث مرفوع اور متصل ہی سمجھی

جائے گی، چاہے رفع اور وصل کرنے والے حفظ اور عدد میں زیادہ ہوں، یا کم۔

حدیث بہر حال مرفوع ہوگی۔

علامہ عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ أَوْ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ

وَإِحْكَامُ الْوَصْلِ ثِقَّةٌ فِي الْأُظْهَرِ

۷

(ألفية العراق المسماة ب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث. ص ۱۰۶ رقم البيت

147 المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن

أبي بكر بن إبراهيم العراقي رحمه الله (المتوفى: 806د). قدم لها وراجعها: فضيلة

الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير تحقيق

ودراسة: العربي الدائز الفرياطي. الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع.

الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية. 1428د)

اگر ایک ہی ثقہ راوی معادو مسلوں میں اختلاف پیدا ہو کہ کسی وقت وہ موصول بیان

ترجمہ

کرتا ہے اور کسی وقت مرسل یا کسی وقت وہ مرفوع بیان کرتا ہے اور کسی وقت

موقوف۔ تو صحیح قول کی بنا پر اس کے موصول اور مرفوع ہونے کا حکم کیا جائے گا، نہ کہ

مرسل اور موقوف ہونے کا۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ، حضرت امام ابن ابی السرر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ معمر

ثالث

رحمہ اللہ سے اور وہ امام زہری رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لوگوں نے قراءت ترک کر دی تھی“۔

اس صحیح روایت سے معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نہ یہ کہ حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ کا مدرج ہے۔ جب حضرت امام معمر رضی اللہ عنہ کا اثبب الناس فی الزہری ہونا محدثین کا طے شدہ قاعدہ ہے۔ تو امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ کا اس جملہ کو نقل نہ کرنا اس کے مدرج ہونے کی ہرگز دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں صحیح اور صواب بات حضرت معمر رضی اللہ عنہ کی ہوگی، خصوصاً جب کہ وہ مثبت بھی ہیں۔

رابعاً

گو امام اوزاعی رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث، فقیہ اور امام تھے۔ لیکن کتب رجال میں اس کی تصریح موجود ہے کہ امام زہری رضی اللہ عنہ سے جو روایت وہ کرتے ہیں، وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابو عمر بن عبد البر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کی امام زہری رضی اللہ عنہ اور یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہ سے جملہ روایتیں ضعیف اور کمزور ہیں۔ (کتاب الانصاف ص ۲۰۱؛ کتاب العلم ص ۲۰۱)
حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

وقال يعقوب بن شيبه عن ابن معين الأوزاعي في الزهري ليس بذاك قال يعقوب والأوزاعي ثقة ثبت في روايته عن الزهري خاصة شيء.

(تهذيب التهذيب ج ۶ ص ۲۳۱ رقم 487 المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله (المتوفى ۸۵۲ھ) الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند. الطبعة: الطبعة الأولى، ۱۳۲۶ھ)

امام ابن معین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: امام اوزاعی رضی اللہ عنہ زہری رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں قابل اعتبار نہیں۔

امام یعقوب بن شیبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: ”امام اوزاعی رضی اللہ عنہ ثقہ اور مثبت تھے، لیکن امام زہری رضی اللہ عنہ سے جملہ روایتیں کمزور اور ضعیف ہیں۔“

خامساً

حافظ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَهَذَا إِذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ فَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ

لَمْ يَكُونُوا يَقْرَأُونَ فِي الْجَهْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ مِنْ أَعْلَمِ أَهْلِ زَمَانِهِ أَوْ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ وَقِرَاءَةِ الصَّحَابَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً تَكُونُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ فَيَكُونُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهَا فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا لَأَسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى انْتِفَائِهَا فَكَيْفَ إِذَا قَطَعَ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَأُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهْرِ.

(مجموع الفتاوى ج ۲۳ ص ۲۷۴. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله (الوفى ۷۲۸هـ). المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية. المملكة العربية السعودية. عام النشر ۱۴۱۶هـ)

ترجمہ

اگر ”فانتھی الناس“ حضرت امام زہری رحمہ اللہ کا مدرج ہی تسلیم کر لیا جائے، تب بھی یہ اس بات کی ایک بہت بڑی وزنی دلیل ہوگی کہ امام کے پیچھے قراءت کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ امام زہری رحمہ اللہ اپنے وقت میں سنت اور حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ اگر امام کے پیچھے قراءت کرنا ضروری ضروری ہوتا تو یہ مسئلہ امام زہری رحمہ اللہ کیسے مخفی رہ سکتا تھا؟ جب امام زہری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں لوگوں نے قراءت ترک کر دی تھی۔ تو یہ اس بات کی کھلی اور معقول دلیل دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم امام کے پیچھے قراءت نہیں کیا کرتے تھے اور اسی پر امام موصوف رحمہ اللہ نے ان کو عامل پایا۔

اسی مضمون کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں:

□

قوله: "فانتھی الناس عن القراءة ... الخ من قول الزُّهْرِيّ ... قلت: ويقضى العجب من قولهم ما حملهم على ذلك، فإننا لو سلمناهُ فالزُّهْرِيُّ تابعيٌّ، ولا يذكر إلا من جال الصحابة ثم إن من جعله من قول الزُّهْرِيّ غرضه أن الزهري قاله نقلا عن أبي هريرة

(فیض الباری علی صحیح البخاری، ج ۲ ص ۳۳۳، المؤلف: (أمالی) محمد أنور شاه بن معظم شاه کشمیری الہندی ثم الديويندى ﷺ (المتوفى ۱۳۵۳ھ) المحقق: محمد بدر عالم الميرتھی ﷺ، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بداهيل (جمع الأمالی وحررها ووضع حاشية البدر الساری إلى فیض الباری). الناشر: دار الكتب العلمية بیروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۶ھ)

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد نے بھی اسی مضمون کو اپنی کتاب: أصل صفة صلاة النبي ﷺ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ج ۱ ص ۳۳۸-۳۴۰، المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 1420ھ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. الطبعة: الأولى 1427ھ - 2006م)

سادساً اگر یہ جملہ ”فَانْتَهَى النَّاسُ“ سرے سے اس حدیث میں نہ ہو اور روایت ”مَا لِي أُتَارِعُ الْقُرْآنَ“ پر ہی ختم ہو جائے (جیسا کہ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہیں ختم ہو جاتی ہے)، تو پھر بھی یہ حدیث امام کے پیچھے مطلقاً قراءت نہ کرنے کی دلیل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قراءت کرنے والا صرف ایک ہی شخص تھا۔ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ فرمایا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فوراً سوال کیا۔ اور پھر اس شخص کے اقرار کرنے کے بعد ”مَا لِي أُتَارِعُ الْقُرْآنَ“ کے جملہ سے اس کی قراءت کو ناپسند کرتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ فرمائی۔ اگر ”فَانْتَهَى النَّاسُ“ کا جملہ سرے سے نہ ہو، تو کیا اس تنبیہ کے بعد بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے احتمال ہے کہ وہ باقاعدہ امام کے پیچھے قراءت کرتے رہے؟ حَاشَا وَ كَلَّا۔ اگر اس حدیث میں اور کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف یہی جملہ ہوتا: ”هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَعِيَ آيْفًا؟“۔ تو پھر بھی یہ جمہور کی دلیل کے لیے کافی ہوتا، حالانکہ جملہ ”فَانْتَهَى النَّاسُ“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔

3.9:- حدیث حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 38(1):- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَوْ العَصْرِ - فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى؟" فَقَالَ رَجُلٌ: "أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الخَيْرَ." قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجِيهَا." (مسلم رقم 47-398)

ترجمہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "کس نے میرے پیچھے 'سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى' پڑھی ہے؟" تو ایک شخص نے عرض کیا: "میں نے! اور میرا اس سے صرف خیر و بھلائی کا ارادہ ہی تھا۔" آپ ﷺ نے فرمایا: "میں نے جانا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے قراءت میں منازعت کر رہا ہے۔"

حدیث نمبر 39(2):- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ؟" أَوْ "أَيُّكُمْ القَارِئُ؟" فَقَالَ رَجُلٌ: "أَنَا." فَقَالَ: "قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجِيهَا." (مسلم رقم 48-398)

ترجمہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی، تو ایک شخص آپ ﷺ کے پیچھے 'سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى' پڑھنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "تم میں سے کس نے قرات کی؟ میں خیال کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے قراءت میں منازعت کر رہا ہے۔"

حدیث نمبر 48(3):- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ

بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: "أَيْكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟" فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: "أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ!" قَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيهَا."

(المصنف، ج ۲ ص ۱۳۶ رقم 2799. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمته (المتوفى: 211 هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمته. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403)

ترجمہ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" پڑھنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "تم میں سے کس نے قرات کی؟ میں خیال کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے قراءت میں منازعت کر رہا ہے۔"

حدیث نمبر 40 (۴): - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَنَدَوَيْهِ، ثنا يُونُسُ بْنُ مَوْسَى،

ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاطَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتَهُمْ؟" فَتَنَاهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

(سنن الدارقطني، ج ۲ ص ۱۱۳، ۱۱۴، ۲۶۵ رقم 1240، 1509. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمته (المتوفى ۳۸۵ هـ). حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط. حسن عبد المنعم شلبي. عبد اللطيف حرز الله. أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳ هـ)

ترجمہ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قراءت کرنا شروع

کی۔ جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، تو آپ ﷺ نے دریافت کیا: ”تم میں سے کون شخص میری سورت (تلاوت) کے بارے میں رُکاوٹ ڈال رہا تھا؟“۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کو امام کی اقتداء میں قراءت کرنے سے منع کر دیا۔

حدیث نمبر 41 (5): - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ، بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ: «أَنَا». قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيهَا».

تحقیق

إسناده صحيحان على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه بالإسناد الأول البخاري في جزء "القراءة خلف الإمام" (93)، والنسائي 140/2 و 247/3، والبخاري في "مسندة" (3601) من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (851)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (82) و (88) و (92)، وأبو داود (828)، وأبو عوانة 131/2-132، وأبو القاسم البغوي في "المجدييات" (988)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 253/2، والطبراني في "الكبير" 520/18، والدارقطني 405/1، والبيهقي في "السنن" 162/2، وفي "القراءة خلف الإمام" (363) و (364) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه بالإسناد الثاني ابن أبي شيبة 357/1، ومن طريقه مسلم (398) (49)، والطبراني في "الكبير" 18/525 عن إسماعيل ابن عليه، به.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (94) من طريق يزيد بن زريع، وأبو داود (829) من طريق محمد بن أبي عدي، وأبو عوانة 132/2، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 207/1 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، ثلاثهم عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (2799)، والحمیدی (835)، والبخاری في القراءة خلف الإمام (90) و(91)، ومسلم (398) (47)، والنسائي 140/2، وأبو عوانة 132/2، والطحاوی في شرح معانی الآثار 207/1، وابن حبان (1845) و(1846)، والطبرانی 18/519 و(521) و(522) و(523) و(524) من طرق عن قتادة به. وعندهم على الشك في الصلاة هل هي الظهر أو العصر غير الحمیدی والطبرانی فعندهما هي صلاة الظهر، لكن في رواية الطبرانی الثالثة على الشك كباقي الرواة. وأخرجه الدارقطني 326/1 و405، والبيهقي في السنن 162/2، وفي القراءة خلف الإمام (360) و(362) من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران قال: كان النبي يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال: من ذا الذي يخالفني سورتي؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام. قال الدارقطني: ولم يقل هكذا غير حجاج وخالفه أصحاب قتادة منهم شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتاج به. وسيأتي الحديث برقم (19816)، و(19874)، و(19889)، و(19961). وانظر كلامنا على مسألة القراءة خلف الإمام عند حديث أبي هريرة السالف برقم (7270).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 33 ص 39 رقم 19815، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی، تو ایک شخص آپ ﷺ کے پیچھے "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" پڑھنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "تم میں سے کس نے قرات کی؟ میں خیال کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے قراءت میں منازعت کر رہا ہے۔"

حدیث نمبر 42 (۶): - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَّ أَبَا أُمِّدَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ، وَابْنُ صَاعِدٍ قَالَا ثنا يُونُسُ

بُن مُوسَى، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتِي؟» فَتَنَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۲۳۱ رقم 2905. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

الخضري وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته الله (الوفى ۳۵۸هـ). المحقق: محمد عبد

القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۲هـ)

ترجمہ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قراءت کرنا شروع کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: ”تم میں سے کون شخص میری سورت (تلاوت) کے بارے میں رُکاوٹ ڈال رہا تھا؟“ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتداء میں قراءت کرنے سے منع کر دیا۔

تشریح

نماز باجماعت میں قاری [قراءت کرنے والا] صرف امام ہوتا ہے۔ مقتدی نہ قراءت کرتا ہے نہ قاری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے استعجاب سے پوچھا: ”تم میں سے قاری کون بن گیا؟“ ایک آدمی نے کہا: ”میں“۔ چونکہ مقتدی کا قاری بننا امام کا حق قراءت چھیننا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت باعث خلجان ہوئی کہ مقتدی کا کام تو امام کی متابعت ہے اور یہ میرا حق چھین کر مخالفت کر رہا ہے۔

دارقطنی (رقم 1240، 1509) اور سنن کبریٰ بیہقی (رقم 2905) میں اس کے بعد یہ

بھی صراحت ہے: ”فنهاهم عن القراءة خلف الامام:“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع فرما دیا۔ یہاں مطلق قراءت سے منع فرمایا، نہ کہ جہر سے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نہی تحریم کے لیے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ”لوگوں کا کیا حال ہے کہ طہارت اچھی طرح نہیں

کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں قراءت قرآن میں التباس اور خلجان ہوتا ہے (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۲۹۵)۔ اس کا کسی نے یہ مطلب نہیں لیا کہ وہ لوگ پیچھے سے بلند آواز سے پکارتے تھے کہ ہم نے وضو اچھی طرح نہیں کیا۔ اس لیے آپ ﷺ کو خلجان ہوتا تھا، بلکہ ان کے پیچھے کھڑے ہونے سے قلب مبارک متاثر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کسی کے پیچھے مطلق قراءت سے بھی قلب مبارک خلجان میں مبتلا ہو جاتا تھا۔

3.10: حدیث حضرت عبداللہ بن بحدی عنہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 43: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أُخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيَ آيَةً؟" قَالُوا: "نَعَمْ." قَالَ: "إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ." فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ.

حدیث صحیح، لکن من حدیث الزہری عن ابن اکیمة عن ابی ہریرة، وسلف برقم (7270)، هكذا رواه غير واحد من ثقات أصحاب الزهري عنه، وخالفهم ابن أخي ابن شهاب - واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم - فرواه كما هو هنا عند أحمد، وخطأه فيه يعقوب بن سفيان والبزار والبيهقي ونقل عن محمد بن يحيى الذهلي أنه خطأه أيضاً.

وهو عند يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/215، والبزار في "مسند"

(2313)، والبيهقي في "السنن" 2/158-159، وفي "الشعب" (7247)، وفي "قراءة

خلف الإمام" (325) و(326) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "القراءة" (326) من طريق سعد بن إبراهيم، عن ابن أخي شهاب، به.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳۸ ص ۲۱۰ رقم 22922 المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني عنده (التونسي ۲۳۱ھ) المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

تحقیق

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ۱۴۲۱ھ)

(طبرانی رقم ۷۲۵۱؛ مجمع الزوائد رقم ۲۶۳۹؛ وقال الهيثمي: رواه احمد والطبرانی في الكبير

والاوسط، ورجال احمد رجال الصحيح؛ كتاب القراءة رقم ۳۲۶)

ترجمہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قراءت کی ہے؟“۔
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ”جی حضرت! قراءت کی ہے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تب ہی تو میں (دل میں) کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن کریم کی قراءت میں منازعت اور کشمکش کیوں کی جا رہی ہے؟“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جب سنا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قراءت ترک کر دی۔

فائدہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اس میں جہری نماز کی کوئی قید بھی مذکور نہیں ہے۔ لہذا یہ روایت جہری اور سہری تمام نمازوں کو شامل ہے۔ گویا اس روایت کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام نمازوں میں قراءت ترک کر دی تھی۔ جیسا کہ علامہ جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَأَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ تَرْكِهِمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ؛ فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تُوجِبُ النَّهْيَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ أَوْ يُسِرُّ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ جُلَّةِ الصَّحَابَةِ مِنْ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِظْهَارِ النَّكِيرِ عَلَى فَاعِلِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَائِعًا لَمَا خَفِيَ أَمْرُهُ عَلَى الصَّحَابَةِ لِعُيُومِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَكَانَ مِنَ الشَّارِعِ تَوْقِيفٌ لِلْجَبَاعَةِ عَلَيْهِ وَلَعَرَفُوهُ كَمَا عَرَفُوا الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ كَهَيِّ إِلَى الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمُنْفَرِدِ وَالْإِمَامِ، فَلَبَّا رُوِيَ عَنْ جُلَّةِ الصَّحَابَةِ إِنْكَارُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ثَبَتَ أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ.

(أحكام القرآن ج ۳ ص ۵۵. المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي المصاحف

الحنفلي محمد (المتولى: 370هـ). المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين. الناشر: دار

الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1415 هـ/1994 م)
اگر اس روایت میں جہر کی قید ہو، جیسا کہ مجمع الزوائد (رقم ۲۶۳۱) کی ایک روایت
میں ہے: صَلَّى صَلَاةً يَجْهَرُ فِيهَا الْخُتْبُ تَوَجَّهَ نَمَازُونَ فِي تَرْكِ قِرَاءَتِ خَلْفِ
الامام پر یہ روایت صریح ہے۔ اور سری نمازوں میں پڑھنا پھر بھی ثابت نہیں کیونکہ
سری میں بھی امام کے پیچھے قراءت کرنا ثابت نہیں۔

3.11: حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 44: - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانُوا يَقْرَأُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ".

تحقیق

إسناده حسن. يونس بن أبي إسحاق مختلف فيه، وضعف أحمد حديثه عن أبيه،
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله، وأبو
إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة
الجشمي.

وأخرجه البزار (488) "زوائد"، وأبو يعلى (5006) من طريق أبي أحمد الزبيري.
بهذا الإسناد

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (254)، والبزار (488) "زوائد"،
وأبو يعلى (5397)، والدارقطني في "السنن" 341/1، والبيهقي في "القراءة خلف
الإمام" (449) من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق، به.

قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا يونس.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 110/2، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال
أحمد رجال الصحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود (826)، والترمذي (312)، والنسائي
140/2-141، وابن حبان (1849)، سيرد 2/240، 284، 285، 301، 487.

وعن عمران بن حصين عند مسلم (398)، وصححه ابن حبان (1845)، وسيرد في

المسند 426/4، 431.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ۶ ص ۸۳ رقم ۳۶۰۰ المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني عمه (المتوفى ۲۴۱ھ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى ۱۴۲۱ھ)

(وقال محققوا المسند: قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا يونس. قال الألباني: صحيح: قال شعيب: اسناده حسن: مسند أحمد ج ۱ ص ۳۹۷ رقم ۳۳۰۹ طبع بيت الأفكار الدولية الاردن، ۲۰۱۰ء؛ مجمع الزوائد رقم ۲۶۳۰؛ وقال رواه أحمد وأبو يعنى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. قال الألباني: يعنى صحيح مسلم: فقد احتج بهم جميعاً واسناده عندي حسن. اصل صفة صلاة النبي ﷺ ج ۱ ص ۳۶۶؛ هذا سند جيد الجواهر النقي ج ۲ ص ۱۶۲، یہ عمدہ اور کھری سند ہے؛ کتاب القراءة رقم ۳۶۵؛ طحاوی رقم ۱۲۵۸ طبع علمیہ: ابن ابی شیبہ رقم 3778؛ علامہ نیوی ﷺ فرماتے ہیں: اسنادہ حسن، آثار السنن ص ۱۳۲، طبع مکتبۃ البشرى، کراچی)

ترجمہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”لوگ نبی کریم ﷺ کے پیچھے قراءت کرتے تھے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے مجھ پر قرآن کو مخلوط کر دیا (یعنی میری قراءت میں خلط ملط کر دیا)۔“

فائدہ

اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے پیچھے قراءت کرنے والوں کی قراءت کو گوارا نہ فرمایا اور مخصوص لہجہ میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی۔ اس میں چونکہ جہری نماز کی کوئی قید نہیں۔ اس لیے یہ روایت سب نمازوں کو شامل ہوگی۔ آپ کے پیچھے آہستہ قراءت کرنے سے بلکہ مقتدیوں کے وضو مکمل نہ کرنے سے آپ ﷺ کا متاثر ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ قراءت چونکہ مطلق ہے۔ اس لیے سورت فاتحہ اور قرآن مجید کی تمام سورتوں کی قراءت کو شامل ہے۔ کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے جہری اور ستری کا کوئی فرق بیان نہیں فرمایا۔ جیسا کہ علامہ جصاص رازی ﷺ نے فرمایا ہے:

وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حَالِ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ: إِذْ لَمْ يَذْكَرْ

فَرَقًا بَيْنَهُمَا.

(أحكام القرآن ج ۳ ص ۵۵ المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفى رحمه الله (المتوفى: 370 هـ) المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الأولى 1415 هـ/1994 م)

3.12: حدیث حضرت بلال رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 45:- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّارِيخِ. ثنا أَبُو حَامِدٍ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ الشَّرْحِيَّ. ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّرْحِيَّ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْقَضْلِ. ثنا عَيْسَى بْنُ جَعْفَرٍ. ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. عَنِ الْأَعْمَشِ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ. قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ».

(كتاب القراءة خلف الإمام. ص ۲۰۰ رقم 441 المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخشروجردي الخراساني. أبو بكر البيهقي رحمه الله (المتوفى: 458 هـ) المحقق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى 1405 هـ)

(الخلافات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. ج ۲ ص ۲۷۸ المؤلف: أبو بكر البيهقي رحمه الله (384-458 هـ) تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة. بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النعال الناشر: الروضة للنشر والتوزيع. القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى 1436 هـ. 2015 م)

ترجمہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ میں امام کے پیچھے قراءت نہ کروں۔“

فائدہ چونکہ قراءت خلف الامام کا مسئلہ اپنے ایجابی یا سلبی پہلو کے اعتبار سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کسی خاص مصلحت کے پیش نظر آپ ﷺ نے خطاب کیا ہوگا، ورنہ حکم سب کے لیے عام ہے۔

اعتراض حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حضرت عیسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ توثیقہ اور ثبت تھے۔ اس لیے اس میں غلطی حضرت اسماعیل بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی کہ اس سند میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، اور وہ اس سے بری ہیں۔ اگر ان سے روایت ہوتی تو اس کے بارے میں اختلاف نہ ہوتا۔ حضرت اسماعیل بن فضل رحمۃ اللہ علیہ اگر سچا ہے، تو اس کی غلطی ہے۔ جھوٹا ہے تو اس کا افتراء ہے۔ (کتاب القراءة خلف الإمام ص ۲۰۰ رقم 441)

جواب حدیث کو باطل ٹھہرانے کا یہ نرالا قاعدہ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا ہے۔ کیا قراءت خلف الامام کی روایت کے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ مجاز نہیں؟ یا ان کی کسی دیگر روایت میں اختلاف نہیں ہوا؟ اس سے سند اور حدیث پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہاں! یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسماعیل بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کا حال معلوم نہیں۔ یہ اصول کی بات ہے مگر مستور اور ضعیف کی حدیث بطور تائید و متابعت پیش ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصول کے لحاظ سے شاہد و متابع کا بھی کوئی فرق نہیں۔

(أَحْسَنُ الْكَلَامِ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ص ۳۶۵، ۳۶۶۔ المؤلف: حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۱۳۳۰ھ)۔ الناشر: مکتبہ صفدریہ، نزد مدرسہ نصرۃ العلوم، گھنٹہ گھر، گوجرانوالہ۔ طبع ۱۱، اپریل ۲۰۰۹ء)

3.13: حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 46: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: اتَّقَرُّوْنَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ. فَسَكْتُوا فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا.

(شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۱۸ رقم 1302 المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي)

(المتوفى ۳۲ھ) حققه وقدم له: محمد زهرى النجار. محمد سيد جاد الحق. من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی۔ (نماز سے فارغ ہو کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”کیا تم قراءت کرتے ہو جبکہ امام قراءت کر رہا ہوتا ہے؟“۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی سوال کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے: ”ہم ایسا کرتے ہیں“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسے مت کرو“۔

3.14: حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 47:- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: ثنا مَالِكُ،

عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ».

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۱۸ رقم 1300 المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصرى المعروف بالطحاوى رحمه الله) (المتوفى ۳۲ھ) حققه وقدم له: محمد زهرى النجار. محمد سيد جاد الحق. من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ)

(طحاوى ج ۱ ص ۲۸۲ رقم ۱۲۶۵ طبع دار الكتب العلميه، بيروت: كتاب القراءة، ص ۱۵۹، ۱۶۰ رقم ۳۳۹)

ترجمہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کسی نے نماز کی ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں اس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی، مگر جب کہ وہ امام کے پیچھے ہو“۔

یعنی جب امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے تو اب اس پر قراءت ضروری نہیں ہے۔

3.15: حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 48: - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. أَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ

الْخَصِيبِ الْهَرَوِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ. نَا إِسْمَاعِيلُ

بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ. نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ. عَنْ جَابِرِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمْرِ

الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» .

(کتاب القراءۃ خلف الإمام، ص ۱۲۰، رقم 350، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علی بن

موسیٰ الخنزر وجردی الخراسانی، أبو بکر البیهقی رحمہ (المتوفی: 458ھ)۔ المحقق:

محمد السعید بن بسیونی زغلول، الناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، الطبعة:

الأولى، 1405ھ)

ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر وہ

نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو، تو وہ نماز ناقص اور نامکمل ہوتی ہے۔ ہاں مگر

وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے۔“

یعنی جب امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے تو اب اس پر سورت فاتحہ پڑھنا ضروری

نہیں ہے۔

فائدہ یہ روایات صاف بتلا رہی ہیں کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ اور اُمّ القرآن پڑھنے کی

بھی گنجائش نہیں ہے اور اسی کو غیر مقلدین ضروری سمجھتے ہیں۔ ہاں البتہ امام اور منفرد کی

کوئی نماز بغیر سورت فاتحہ کے مکمل نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس کی تصریح موجود ہے۔

3.16: حدیث حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 49: - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. أَخْبَرَنِي بِأَلْوَيْهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

بِأَلْوَيْهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَرْزَبَانِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذِلِ بْنِ عَلِيٍّ

ثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرَّارَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا وَرَاءَ
الْإِمَامِ».

(كتاب القراءة خلف الإمام، ص ۱۹۷، رقم 434، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن
موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى: 458هـ)، المحقق:
محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة:
الأولى 1405هـ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر وہ
نماز جس میں نمازی سورت فاتحہ نہ پڑھے، تو اس کی نماز ادا نہ ہوگی۔ ہاں مگر امام کے
پیچھے بغیر سورت فاتحہ پڑھے بھی نماز صحیح ہے۔“

3.17: - حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 50: - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيه، أَنَا
أَحْمَدُ بْنُ يَشْرِ بْنِ سَعْدِ الْمَرْثَدِيِّ، نَا فَضِيلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا خَالِدُ يَعْنِي
الطَّحَّانَ، ح قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، نَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمْرِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ
إِلَّا صَلَاةَ خَلْفَ إِمَامٍ».

(كتاب القراءة خلف الإمام، ص ۱۹۴، ۱۹۵، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن
موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى: 458هـ)، المحقق:
محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة:
الأولى 1405هـ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر وہ نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو وہ نماز ناقص ہوتی ہے۔ مگر ہاں وہ نماز اس سے مستثنیٰ ہے جو امام کے پیچھے پڑھی جائے۔“

فائدہ اس روایت میں خلف الامام اور ام الكتاب کی قید خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں میں سورت فاتحہ کی قراءت کو ضروری اور لازم ٹھہرایا ہے مگر مقتدی کے لیے اس کی قراءت کی مطلقاً گنجائش نہیں چھوڑی۔

حصہ دوم: آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

3.18: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 5 (۱): - قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ حَجْرًا.

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص ۲۳ رقم 126 المؤلف: مالك بن

أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني عند (التوفى ۱۷۹ھ) تعليق وتحقيق: عبد

الوهاب عبد اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الثانية)

(الحجة على أهل المدينة، ج ۱ ص ۱۲۱. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد

الشيباني (المتوفى: 189ھ) المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري الناشر:

عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الثالثة. 1403ھ)

ترجمہ حضرت محمد بن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے اس کے منہ میں پتھر ڈال دیئے جائیں۔“

اثر نمبر 6 (۲): - حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج ۱ ص ۳۳۰ رقم

3784 المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن

خواستی العبسیؒ (التوفی ۲۳۵ھ) المحقق: کمال یوسف الحوت الناشر:

مکتبة الرشد، الرياض الطبعة: الأولى ۱۴۰۹ھ

ترجمہ حضرت نافعؓ اور انس بن سیرینؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مقتدی کو امام کی قراءت ہی کافی ہے۔“

اثر نمبر 7 (۳): - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، مِّنْ سُفْيَانَ

الثَّوْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهْرًا أَوْ لَمْ يَجْهَرَ

(كتاب القراءة خلف الإمام، ص ۲۰۹ المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

الخضروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقيؒ (المتوفى: 458ھ) المحقق: محمد

السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى،

1405ھ)

ترجمہ حضرت قاسم بن محمدؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے، امام بلند آواز سے قراءت کرے یا بلند آواز سے

نہ کرے۔“

اثر نمبر 8 (۴): - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ:

... قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي

فِيهِ حَجْرٌ"

(المصنف، ج ۲ ص ۱۳۸ رقم 2806 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع

الحميري اليماني الصنعانيؒ (المتوفى: 211ھ) المحقق: حبيب الرحمن

الأعظميؒ الناشر: المجلس العلمي - الهند يطلب من: المكتب الإسلامي -

بيروت الطبعة: الثانية، 1403ھ)

ترجمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے، میری

خواہش ہے کہ اس کے منہ میں پتھر ہو (تا کہ وہ قراءت نہ کر سکے)۔“

3.19: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 9 (1): - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

(المصنف. ج ۲ ص ۱۳۸ رقم 2806. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري البجلي الصنعاني (المتوفى: 211 هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: المجلس العلمي - الهند يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية. 1403)

حَدَّثَنَا فَهْرٌ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. وَمَرَّ عَلِيٌّ دَارِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ. قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ عَلِيٌّ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

(شرح معاني الآثار. ج ۱ ص ۲۱۹ رقم 1306. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری البصری المعروف بالطحاوی (المتوفى ۳۲۱ هـ) حققه وقدم له: محمد زهري النجار. محمد سيد جاد الحق. من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشي. الباحث مركز خدمة السنة بالمدينة النبوية الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ هـ) (طحاوی رقم ۱۲۷۲ طبع علمیه، وسنده صحیح مرسلًا)

ترجمہ محمد بن عجلان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جس نے امام کے ساتھ قراءت کی، وہ فطرت (اسلام کے طریقہ) پر نہیں ہے۔“

اثر نمبر 10 (۲): - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. (مصنف ابن ابن ثيبه) ج ۱ ص ۳۳۰ رقم 3781)

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۲۳۵ھ) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، ۲۰۹ھ)

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۷۸ رقم ۳۸۰۲ طبع کراچی ۱۴۲۸ھ؛ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اسنادہ جید، ارواء الغلیل ج ۲ ص ۲۸۲؛ ابن ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن کہتے ہیں، الجوہر النقی ج ۲ ص ۱۶۸؛

وقال العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي رحمۃ اللہ علیہ: وقد حمل التعصب القائلين بالقراءة على تضعيفه بل تكذيبه مع أنه روى من عدة طرق عن ابن الاصفهاني وغيره عن عبد الله بن أبي ليلى، فراجع طرقه في كتاب القراءة وفي هذا الكتاب، وعبد الله هذا ليس بمجهول، فقد روى عنه غير واحد)

ترجمہ (حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی) حضرت عبد اللہ بن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا: ”جس نے امام کے پیچھے قراءت کی، اس نے فطرت کھودی (یعنی وہ اسلام کے طریقہ پر نہیں ہے)۔“

اثر نمبر 11 (۳): - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ.

(المصنف، ج ۲ ص ۱۳۶، ۱۳۷ رقم 2801 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 211ھ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمۃ اللہ علیہ الناشر: المجلس العلمي - الهند يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1403)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جس نے امام کے پیچھے قراءت کی، اس نے فطرت کھودی۔“ (یعنی وہ اسلام کے طریقہ پر نہیں ہے)۔“

3.20: حضرات ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے آثار

اثر نمبر 12: - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ".
اثر نمبر 13:- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَشْيَاخُنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: "مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ".

اثر نمبر 14:- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ".
 (المصنف، ج ۲ ص ۳۹ رقم 2810، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمته (المتوفى: 211 هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمته. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403)

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۳۹ رقم ۲۸۱۰ طبع کراچی؛ مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۹۰، ۹۱ رقم ۲۸۱۳ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت؛ ہذا مرسل صحیح، وموسى بن عقبة امام في المغازی ثقة، ثبت، كثير الحديث، وسماع عبد الرزاق عنه ممكن فان موسى توفي سنة احدى وأربعين ومئة، وعبد الرزاق مولده سنة ست وعشرين ومئة كما في التهذيب ج ۶ ص ۳۱۳)

ترجمہ (۱) حضرت زید بن اسلم رحمته مرسلًا روایت کرتے ہیں: "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع فرماتے تھے۔"

(۲) عبد الرزاق رحمته فرماتے ہیں: مجھے ہمارے مشائخ نے خبر دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: "جس نے امام کی پیچھے قراءت کی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔"

(۳) امام عبد الرزاق رحمته فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ رحمته نے خبر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع کرتے تھے۔

تنبیہ گو موسیٰ بن عقبہ رحمته اور محمد بن عجلان رحمته کی روایتیں مرسل ہیں، لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل بھی حجت ہے۔ یہ مرسل روایتیں معتضد ہیں جو حجت ہیں۔ مرسل معتضد کے حجت ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں اور یہ ایک دوسرے کے اعتضاد کے

لیے کافی ہیں۔ (احسن الکلام ج ۱ ص ۳۸۶)

3.21:۔ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کے آثار

اثر 15:- قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَمْنَعُونَ الْمُقْتَدِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ۔

(العناية شرح الهداية، ج ۱ ص ۳۴۰، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي رحمته (المتوفى: 786هـ). الناشر: دار الفكر)

(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ۴ (۵) ص ۱۴۱، المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي رحمته (المتوفى ۷۲۰هـ) . المحقق: علي عبد الباري عطية. الناشر: دارالكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۲۰۰۹ء)

ترجمہ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ (جو بہت بڑے تابعی ہیں) فرماتے ہیں: ”میں نے ستر (۷۰) بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا۔ وہ سب کے سب امام کے پیچھے قراءت سے منع کرتے تھے۔“

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ عَشْرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَشَدَّ النَّهْيِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ".

(العناية شرح الهداية، ج ۱ ص ۳۴۰، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي رحمته (المتوفى: 786هـ). الناشر: دار الفكر)

اصحاب بدر میں حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے آثار گزر چکے۔ باقی حضرات کے آثار ملاحظہ فرمائیں:

3.22: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اثر

اثر نمبر 16:- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسِ، عَنْ أَبِي نِجَادٍ، عَنْ سَعْدِ قَالَ:

”وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ“.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 330 رقم 3782

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي

العسبي رحمه الله (المتوفى 235هـ) المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة

الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، 1409هـ)

(مصنف ابن أبي شيبة ج 3 ص 288 رقم 3803، طبع ثانی، کراچی، روى الام محمد بن سعد عن

بعض ولد سعد بن ابی وقاص أنه ذكر أن سعداً قال كذا. موطا امام محمد رقم 126؛ كتاب الحج

على اهل المدينة ج 1 ص 121 طبع دار المعارف العثمانية، لاہور؛ محدث مولانا محمد حسن فیض پوری مدظلہ

”الدلیل البین“ میں لکھتے ہیں: رجال اسنادہ ثقات. احسن الکلام ج 1 ص 392)

ترجمہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میری تمنا اور خواہش ہے کہ جو شخص امام

کے پیچھے قراءت کرتا ہو، اس کے منہ میں آگ کی چنگاری ڈال دوں۔“

3.23: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہارے لیے اس چیز پر راضی اور خوش ہوں، جس چیز

کو تمہارے لیے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پسند کریں۔“ (مستدرک حاکم ج 3 ص 319)

اثر نمبر 17(1):- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا المُحَارِبِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ،

عَنْ بَشِيرِ (يُسَيْرِ) بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ، فَسَمِعَ نَأْسًا، يَقْرَأُونَ

مَعَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا انصَرَفَ، قَالَ: أَمَا إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَفْقَهُوا، أَمَا إِنَّ لَكُمْ أَنْ

تَعْقِلُوا؛ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. الأعراف: 204
كَمَا أَمَرَ كُمْ اللَّهُ.

(تفسیر الطبری = جامع البیان عن تأویل آی القرآن ص ۱۰ ص ۱۵۹ المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الأملی أبو جعفر الطبری (المتوفی ۳۱۰ھ) تحقیق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة: الأولى ۱۴۲۲ھ) (صحیح-رجالہ ثقات من رجال الجماعة اعلاء السنن ج ۳ ص ۵۲: احسن الکلام ج ۱ ص ۱۲۲-۱۲۵)

ترجمہ

حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بعض لوگ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس کے باوجود تم اس بات کو نہیں سمجھتے، کیا اب بھی تمہارے سمجھنے کا وقت نہیں آیا؟“۔

اثر نمبر 18 (۲): - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَنْصُورٍ. عَنِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا. وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ.

(المصنف. ج ۲ ص ۱۳۷ رقم 2803 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعائي (المتوفى: 211ھ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي (المتوفى: 1403) الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية. 1403)

(مجمع الزوائد رقم ۲۶۳، وقال الهيثمي: رواد الطبرانی في الكبير. والايوسط. ورجاله موثقون؛ مصنف ابن أبي شيبة ج ۳ ص ۸۷ رقم ۳۸۰۱ طبع ثانی، کراچی: تمام راوی ثقہ ہیں احسن الکلام ج ۱ ص ۳۷۶؛ موطا امام محمد رقم ۱۴۰؛ کتاب الحج ج ۱ ص ۱۱۹، ۱۲۰ طبع دار المعارف العمانية، لاہور

۱۴۰۱ھ؛ طحاوی رقم ۱۲۷۳؛ کتاب القراءۃ رقم ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹؛ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۶۰)

ترجمہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: ”کیا میں امام کے پیچھے قراءت کر سکتا ہوں؟“۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”قراءت کے وقت خاموش رہو، کیونکہ نماز میں امام قراءت میں مشغول ہے اور تجھ امام کی قراءت ہی کافی ہو جائے گی۔“

اثر نمبر 19 (۳): - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَدِيجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِيًّا فُوهُ تُرَابًا.

(شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۱۹ رقم 1310، 1311 المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی (المتوفى ۳۲۲ھ) حققه وقدم له: محمد زهری النجار، محمد سید جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي. الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ قَالَ: ... قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "مُلِيًّا فُوهُ تُرَابًا."

(المصنف ج ۲ ص ۱۳۸ رقم 2806 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 1 1 2هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي (المتوفى: 1403) الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية. 1403)

(آثار السنن ص ۱۳۵، اسنادہ حسن طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”وہ شخص جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے کاش کہ اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے۔“

اثر نمبر 20 (۴): - قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ حَمَّادِ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ. أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ، وَفِيمَا يُخَافُ فِيهِ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَلَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا.

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. ص ۶۲ رقم 120. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبغى المدنى رحمته (المتوفى ۹۷ھ). تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية الطبعة: الثانية) (كتاب الحجج ص ۱۱۹، ۱۲۰ طبع دار المعارف النعمانية، لاہور ۱۳۰۱ھ؛ اس روایت کو متابعت میں پیش کیا ہے۔ فتدبر ولا تكن من الغفلين)

ترجمہ

حضرت علقمہ بن قیس رحمته فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کیا کرتے تھے نہ جہری نمازوں میں، نہ سری نمازوں میں، نہ تو پہلی دور کعتوں میں اور نہ ہی آخری دور کعتوں میں۔“

- 1 اس روایت سے بھی صراحت معلوم ہو گیا کہ امام کے پیچھے چاروں رکعات میں مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔
- 2 قراءت کا لفظ سورت فاتحہ اور زائد سورت دونوں کو شامل ہے۔ لہذا مقتدی نہ تو سورت فاتحہ پڑھے گا نہ ہی کوئی اور سورت۔

اثر نمبر 21 (۵):- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَأَنْ أَعْضُ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ".

(كتاب القراءة خلف الإمام. ص ۱۶۸، ۱۶۹ رقم 370. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى: 458ھ). المحقق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى 1405ھ)

ترجمہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”مجھے جھاؤ درخت کے انکارے دانتوں سے کاٹنا زیادہ پسند ہے کہ میں امام کے پیچھے قراءت کروں۔“

اثر نمبر 22 (۶): - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حجاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حمادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ. - وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ بِهِ.

(المعجم الكبير، ج ۹ ص ۲۶۳ رقم 9313. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن

مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة ۳۶۰هـ) المحقق: حمدي بن

عبد المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔“ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ بھی اسی مسلک کو اختیار کرتے تھے۔“

3.24: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 23 (۱): - مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ: "هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟" قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ". قَالَ: "وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ".

(الموطأ، ج ۲ ص ۱۱۷ رقم 283، 284. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر

الأصبحي المدني رحمته (المتوفى سنة ۱۷۹هـ). المحقق: محمد مصطفى الأعظمي. الناشر:

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. أبوظبي.

الإمارات. الطبعة: الأولى. سنة ۱۳۲۵هـ)

(موطأ امام محمد رقم 118؛ كتاب الحج ج ۱ ص ۱۱۹ طبع دار المعارف، لاہور؛ طحاوی رقم 1317)

ترجمہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جاتا:

”کیا مقتدی امام کے پیچھے قراءت کرے؟“ تو آپ ﷺ فرماتے: ”جب کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو امام کی قراءت اس کے لئے کافی ہے۔ البتہ جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو پھر قراءت کرے۔“ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔“

اثر نمبر 24 (۲):۔ عن ابن عمر، أنه كان يقول: من صلى وراء الامام كفاه قراءة الامام۔

(سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۱۶۱: من قال لا يقراء خلف الامام، قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن ابن عمر من قوله)

ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: ”جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، اس کے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔“

امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول صحیح ہے۔

اثر نمبر 25 (۳):۔ كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقراء خلف الامام جهراً او لم يجهر۔

(کتاب القراءۃ رقم ۴۴۵)

ترجمہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امام کے پیچھے قراءت نہیں کیا کرتے تھے۔ امام جہر سے پڑھتا یا آہستہ“ (وہ خاموش رہتے)۔

اثر نمبر 26 (۴):۔ عن ابن عمر قال: من صلى خلف الامام كفته قراءته۔

(موطا امام محمد رقم ۱۱۵، واسنادہ جید؛ کتاب الحج ج ۱ ص ۱۱۸ طبع دار المعارف النعمانیہ، لاہور)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”جس شخص نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے لیے امام کی قراءت ہی کافی ہے۔“

اثر نمبر 27 (۵):۔ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ

أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. قَالَ: "تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ."

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص ۱۱۶ رقم 116. المؤلف: مالك بن

أنس بن مالك بن عامر الأصبغي المدني رضي الله عنه (التوفى ۷۷ھ). تعليق وتحقيق: عبد

الوهاب عبد اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الثانية) (مسند ابن الجعد، ص ٤٨ رقم 1150 المؤلف: علي بن الجعد بن عبید الجوهري البغدادي رحمته (المتوفى ٢٣٠هـ) تحقيق: عامر أحمد حيدر الناشر: مؤسسة نادر. بيروت. الطبعة: الأولى ١٣١٠هـ)

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

(سنن الدارقطني، ج ٢ ص ٢٦٠ رقم 1503 المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمته (المتوفى ٣٨٥هـ) حقه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى ١٣٢٣هـ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے امام کے پیچھے قراءت کرنے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”تمہیں امام کی قراءت ہی کافی ہے۔“

اثر نمبر 28 (٦): - عن انس بن سيرين قال: سألت ابن عمر: أقرأ مع الامام؟

فقال: انك لضخم البطن. (تكفيك) قراءة الامام

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: «أَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ؟» فَقَالَ: «إِنَّكَ لَضَخْمُ الْبَطْنِ، قِرَاءَةُ الْإِمَامِ.»

(المصنف، ج ٢ ص ١٣٠ رقم 2812 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع

الحميري اليماني الصنعاني رحمته (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن

الأعظمي رحمته. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي -

بيروت. الطبعة: الثانية. 1403)

ترجمہ (حضرت امام محمد بن سيرين رضی اللہ عنہما کے بھائی) حضرت علامہ انس بن سيرين رضی اللہ عنہما

فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا: ”کیا میں امام کے ساتھ قراءت کر سکتا ہوں؟“ آپ رضی اللہ عنہما نے جواب دیا: ”تم تو بڑے موٹے پیٹ کے ہو (یعنی بیوقوف ہو)۔ تمہیں امام کی قراءت ہی کافی ہے۔“

اثر نمبر 29 (۷): - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ "كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ".
(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۲۰۱ رقم ۲۸۱۲، وسندہ صحیح)

ترجمہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔“

اثر نمبر 30 (۸): - حدثنا ابن عليه، عن أيوب، عن نافع و انس بن سيرين قالا:

قال ابن عمر: "يكفيك قراءة الإمام".

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۷۸ رقم ۳۸۰۵ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامیة،
کراچی، طبع ثانی ۱۴۲۸ھ)

ترجمہ حضرت نافع رضی اللہ عنہما اور انس بن سیرین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”تجھے (مقتدی کو) امام کی قراءت ہی کافی ہے۔“

اثر نمبر 31 (۸): - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْبَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ".

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: "يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ".

(عبد الرزاق ج ۲ ص ۱۳۹ رقم 2811)

ترجمہ حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے: ”امام جن نمازوں میں قراءت جہر سے کرتا ہے، ان میں امام کے لیے مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے اور امام کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہیے۔“

☆ ان روایات سے معلوم ہوا:

1 ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ان روایات میں باجماعت نماز کی صراحت موجود ہے۔

2 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل وضاحت سے بتا دیا کہ امام کی قراءت مقتدی کے لئے کافی ہے۔

3 ان میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ قراءت صرف منفرد کرے گا۔

4 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا مسلک اور معمول بھی یہی تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ نہیں پڑھنی چاہئے۔

3.25: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 32 (1): - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبْنُ مَجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قَسِيطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: "لَا، قِرَاءَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ".

(صحیح مسلم باب سجود التلاوة رقم 106 - 577؛ نسائی باب ترک السجود فی النجم رقم 960؛ سنن کبریٰ نسائی رقم 1034؛ مستخرج ابی عوانہ رقم 1951؛ المسند المستخرج علی صحیح الإمام مسلم رقم 1274)

□ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ". (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 330 رقم 3783)

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي رحمته (المتوفى 235هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة: الأولى 1409هـ.

ترجمہ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”امام کے ساتھ مقتدی کو بھی قراءت کرنی چاہئے یا نہیں؟“ تو صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”کسی نماز میں بھی مقتدی کو امام کے ساتھ قراءت نہیں کرنی

چاہیے۔

اثر نمبر 33 (۲): - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: "لَا تَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ".

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۱۹، ۲۲۰، رقم 1314، 1315، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن

محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف

بألطحاوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۳۲۱ھ) حققه وقدم له: محمد زهری النجار، محمد سيد

جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د

يوسف عبد الرحمن المرعشي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة

النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: "کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرو۔"

اثر نمبر 34 (۳): - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ

بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ".

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج ۱ ص ۳۳۱ رقم 3788

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي

العبسي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۲۳۵ھ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة

الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، ۱۴۰۹ھ)

(مصنف ابن أبي شيبة ج ۳ ص ۲۷۹، رقم ۳۸۰۹ طبع ثانی، کراچی، موطا امام محمد

رقم ۱۲۸؛ کتاب الحج ج ۱ ص ۱۲۲ طبع دار المعارف العثمانیہ، لاہور ۱۴۰۱ھ)

ترجمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جس نے امام کے پیچھے قراءت کی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔"

اثر نمبر 35 (۴): - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الصَّخَاكِ بْنِ عُمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ،

عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِنْ جَهَرَ، وَلَا

إِنْ خَافَتْ..

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. (مصنف ابن أبي شيبة) ج ۳۰ ص ۳۳۰ رقم 3787

. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی

العبيسي رحمته (المتوفى ۲۳۵هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة

الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، ۲۰۹هـ)

ترجمہ حضرت ابن ثوبان رحمته، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ”امام کے پیچھے نہ پڑھا جائے امام بلند آواز سے پڑھتا ہو یا پست آواز سے۔“

فائدہ

- ۱ صحیح مسلم اور نسائی وغیرہ کی روایات امام اور مقتدی کے مسئلہ میں بالکل واضح ہیں۔
- ۲ اس حدیث میں مقتدی کو امام کے ساتھ پڑھنے سے صراحت کے ساتھ روک دیا ہے
- ۳ فی شنی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ امام کی موجودگی میں مقتدی کو کسی قسم کی قراءت نہیں کرنی چاہئے۔ نہ سورۃ فاتحہ اور نہ ہی کوئی اور سورت۔
- ۴ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ فرمان اس امر کی واضح اور بین دلیل ہیں کہ امام کے ساتھ مقتدی کو کسی قسم کی قراءت کا کوئی حق نہیں۔

3.26: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 36 (۱): - حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ. عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

اللَّهِ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ

إِمَامٍ.."

(الموطأ. ج ۲ ص ۱۱۳ رقم 276. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي

المدني رحمته (المتوفى ۲۰۹هـ). المحقق: محمد مصطفى الأعظمي الناشر: مؤسسة زايد

بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. أبوظبي. الإمارات الطبعة:

الأولى. ۲۰۲۵هـ)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا

۱۱

مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(ترمذی رقم 313؛ موطا امام محمد رقم 113؛ کتاب الحج ج 1 ص 111 طبع دار المعارف النعمانیہ، لاہور؛
القرءاءة خلف الامام بخاری رقم 174؛ مصنف عبدالرزاق ج 2 ص 121 رقم 245؛ مصنف ابن ابی شیبہ
ج 3 ص 239 رقم 363 طبع کراچی؛ طحاوی رقم 1301؛ بیہقی 2899، وقال: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ
عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ)

ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جس کسی نے نماز کی ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں اس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی، مگر جب کہ وہ امام کے پیچھے ہو“ (یعنی جب امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے تو اب اس پر قراءت ضروری نہیں ہے)۔

فائدہ

- 1 اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے قراءت فاتحہ کا مسئلہ بالکل واضح فرمادیا کہ منفرد ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھے گا۔
- 2 اور جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھے وہ سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا۔
- 3 اس حدیث میں سورت فاتحہ کی تعیین بھی ہے اور نماز باجماعت کی تصریح بھی ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ کہتے کہ نماز باجماعت میں مقتدی سورت فاتحہ ضرور پڑھے۔

اثر نمبر 37 (2): - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ".

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، (مصنف ابن ابی شیبہ) ج 1 ص 330 رقم

3786. المؤلف: أبو بکر بن أبي شيبه، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن

خواستی العبسی (الوفی ۲۳۵ھ) المحقق: کمال یوسف الحوت الناشئ.

مکتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، ۱۴۰۹ھ)

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 3 ص 249 رقم 380 طبع کراچی؛ قال ابن الترمذی: وهذا أيضاً

سند صحیح متصل علی شرط مسلم. الجوهرائی علی سنن لکبریٰ بیہقی، ج ۲ ص ۱۶۱)
 ”حضرت عبید اللہ بن مقسم رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت
 جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے۔“

اثر نمبر 38 (۳): 2819۔ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ:
 سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: ”أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
 شَيْئًا؟“ فَقَالَ: ”لَا“

(المصنف، ج ۲ ص ۱۳۱ رقم 2819. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع
 الحميري اليماني الصنعاني رضی اللہ عنہ (المتوفى: 211 هـ). المحقق: حبيب الرحمن
 الأعظمي رضی اللہ عنہ. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي -
 بيروت. الطبعة: الثانية، 1403) (وسندہ صحیح)

ترجمہ حضرت عبید اللہ بن مقسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
 سے پوچھا: ”کیا ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے آپ رضی اللہ عنہ کچھ پڑھتے ہیں؟“ تو
 انہوں نے فرمایا: ”نہیں۔“

تنبیہ ظہر اور عصر کی قید بطور خاص ملحوظ رکھی جائے۔ جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ سرری
 نمازوں میں بھی مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔

3.27۔ حضرات عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ،

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 39:۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ
 عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو،
 وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالُوا: ”لَا تَقْرَأُوا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي
 شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ“

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۱۹ رقم 1312. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن
 سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رضی اللہ عنہ)

(المتوفی ۳۲۱ھ) حققہ و قدم له: محمد زہری النجار، محمد سید جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى ۱۳۱۳ھ) (زيلعي ج ۲ ص ۱۲، وإسناده صحيح)

ترجمہ حضرت عبید اللہ بن مقسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے قراءت خلف الامام کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ ان سب نے فرمایا: ”امام کے پیچھے تمام نمازوں میں کوئی قراءت نہ کرو۔“

اثر نمبر 40 (۲): - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ "كَانَا لَا يَقْرَأَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ".

(المصنف، ج ۲ ص ۱۳۰ رقم 2815، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رضي الله عنه (المتوفى: 211 هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رضي الله عنه، الناشر: المجلس العلمي - الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1403)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔

3.28: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آثار

اثر نمبر 41 (۱): - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيْ؟" فَقَالَ: "لَا".

(شرح معاني الآثار، ج ۱ ص ۲۲۰ رقم 1316، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي رضي الله عنه (المتوفى ۳۲۱ھ) حققہ و قدم له: محمد زہری النجار، محمد سید جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد

الرحمن المرعشلی، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ

ترجمہ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: ”کیا میں اس صورت میں قراءت کر سکتا ہوں کہ امام میرے آگے ہو؟“، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”ہرگز نہیں“۔

☆ اس صحیح روایت میں سڑی اور جہری کی کوئی قید موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمام نمازوں کو شامل ہے۔ یہی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا۔

اثر نمبر 42 (۲): - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ:

ثنا أبي قال: سمعتُ أبا يزيدَ المَدِينِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: «إِنَّ نَاسًا يَقْرَأُونَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، لَقَلَعْتُ أَلْسِنَتَهُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ، فَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ لَنَا قِرَاءَةً وَسُكُوتُهُ لَنَا سُكُوتًا».

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۰۵ رقم 1216. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي رضی اللہ عنہ (المتوفى ۳۲۲ھ). حققه وقدم له: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا: ”کچھ لوگ ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت کرتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟“۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر میرا ان پر بس چلتا تو میں ان کی زبانیں کھینچ لیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت کی۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت ہماری قراءت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت ہمارا سکوت“۔

تشریح حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں اگرچہ خلف الامام کی قید مذکور نہیں

ہے۔ لیکن بادلنی تا مل (تھوڑا سا غور کرنے سے) یہ بات بخوبی معلوم ہو سکتی ہے کہ امام اور منفرد کو بالاتفاق قراءت کرنا ضروری ہے۔ اگر امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت کرنا ضروری ہوتا بلکہ جائز ہی ہوتا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے ترجمان القرآن اور خبر الامۃ ان لوگوں کی زبانیں کھینچنے پر کیوں آمادہ ہو گئے تھے؟ اگر ان کے بس اور قدرت میں ہوتا۔ تو ضرور اپنا ارادہ پورا کر گزرتے۔ ناچار یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ امام کے پیچھے قراءت کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہما نے ان کی اس مذموم حرکت سے انتہائی نفرت کی۔ اور یہ بھی مت بھولئے کہ پڑھنے والے ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھتے تھے جو بالاجماع ساری نمازیں ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ قراءت مازاد علی الفاتحہ کی قراءت پر حمل کر لیا جاتا۔ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امام کے پیچھے مطلقاً قراءت کے قائل نہ تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت میں امام کے پیچھے خاص لفظ فاتحہ الکتاب کے پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہو سکتا کہ قراءت کو جہر پر حمل کر لیا جائے۔ اس لیے کہ قراءت کا تقابل سکوت سے کیا گیا ہے۔ اور سکوت کے معنی ہے: زبان کو کلام کے لیے حرکت نہ دی جائے (بخاری ج ۱ ص ۳؛ مسلم ج ۱ ص ۱۸۴؛ احکام القرآن ج ۳ ص ۴۹)۔ بہر کیف خود اس روایت کے اندر ایسے قرائن موجود ہیں، جو اس امر کو متعین کر دیتے ہیں کہ یہ بحالت اقتداء امام کے پیچھے قراءت کرتے تھے۔ جس پر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما طیش میں آ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر میرا ان پر بس چلتا تو میں ان کی زبانیں کھینچ لیتا“۔

3.29: حضرت ابووردی رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 43:- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيه، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو الْحَافِظ، أَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقِ، قَالَا: ثَنَا بِحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ

صَاحِجٌ، عَنِ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الدُّدَايِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِنِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنًا؟" قَالَ: "نَعَمْ." فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: "وَجَبَ هَذَا." فَقَالَ أَبُو الدُّدَايِ: "يَا كَثِيرُ! وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ لَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَرَ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ."

(كتاب القراءة رقم 381، 382؛ طحاوی رقم 1288، 1289؛ دارقطنی رقم 1280، 1505)

ترجمہ حضرت ابو درداعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک شخص اٹھے اور کہنے لگے: "یا رسول اللہ! کیا ہر نماز میں قراءت ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہاں"۔ قوم میں سے ایک شخص کہنے لگا: "پھر تو قراءت ضروری ہوگئی"۔ حضرت ابو درداعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "اے کثیر! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی تھا۔ میں نے کہا کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ جب امام لوگوں کی امامت کرتا ہے تو اس کی قراءت ہی لوگوں کو کافی ہے۔"

اثر نمبر 44:-

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدُّدَايِ، يَقُولُ: "سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمِنِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً؟" قَالَ: "نَعَمْ." فَقَالَ: "رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ." فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي الدُّدَايِ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: "يَا ابْنَ أَخِي! مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَرَ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ."

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ۳۵ ص ۵۱۹ رقم 27530. المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رضى الله عنه (التونى ۲۳۱ھ). المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۳۲۱ھ)

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۷۳ رقم 28080. المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رضى الله عنه (التونى ۲۳۱ھ). الناشر: بيت

الأفكار الدولية. الأردن. الطبعة: الرابعة، ۲۰۱۰ء)

(نسائی رقم ۹۲۳ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض)

ترجمہ حضرت کثیر بن مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: کیا ہر نماز میں قراءت ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں“۔ انصار میں سے ایک شخص کہنے لگا: ”پھر تو قراءت ضروری ہوگئی“۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے، میں آپ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہی تھا، اور فرمایا: ”اے میرے بھتیجے! میرا خیال تو یہی ہے کہ جب امام لوگوں کی امامت کرتا ہے تو اس کی قراءت ہی لوگوں کو کافی ہے۔“

فائدہ یہ حدیث یہاں موقوف نقل کی ہے جو غیر مدرک بالقیاس ہونے کی وجہ سے حکماً مرفوع ہے۔ پہلے اس کو مرفوع بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث دونوں طرح ثابت ہے: مرفوع حقیقی بھی اور مرفوع حکمی بھی۔ سنداً یہ حدیث مرفوع حسن ہے اور موقوف صحیح۔

نوٹ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: میری کتاب: ایضاح المرام فی ترک القراءۃ خلف الامام (ترک قراءت مقتدی)

باب 4

آمین آہستہ کہنا

مسئلہ جب امام سورت فاتحہ کی قرات کرتے وقت "وَلَا الضَّالِّينَ" پر پہنچے، تو امام اور مقتدی سب آہستہ آواز سے "آمین" کہیں۔
اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ منفرد، امام اور مقتدی تمام نمازوں میں آمین آہستہ کہیں۔

حصہ اول: احادیث مرفوعہ

4.1: حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 1: - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةِ: 7 فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (بخاری رقم 4475، 782؛ نسائی رقم 929؛ ابوداؤد رقم 935)

[] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ" الفاتحة: 7 . فَقُولُوا: "أَمِينَ". فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ:
أَمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: أَمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

تحقيق

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي (1246) ، وابن ماجه (852) من طريق عبد الأعلى بن عبد
الأعلى، بهذا الإسناد.

وسياتي برقم (9921) من طريق مالك عن ابن شهاب، عنهما، وبرقم (7244) و
(7660) عن سعيد وحده، وبرقم (9804) عن أبي سلمة وحده.

وأخرجه مسلم (410) (74) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي يونس مولى أبي
هريرة، عن أبي هريرة.

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (6411) من طريق ليث بن أبي سليم، عن كعب المدني،
عن أبي هريرة، وفيه زيادة، وإسناده ضعيف.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (237) من طريق عبد العزيز بن أبي
حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفيه زيادة
منكرة.

وأخرجه مختصراً البخاري أيضاً (236) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي
علقمة الهاشمي، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا قال
الإمام: (ولا الضالين) فقولوا: آمين".

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8122) و(9682) و(9924).

قوله: "فمن وافق تأمينه"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/265: المراد الموافقة
في القول والزمان. خلافاً لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن
حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير
إعجاب ("الإحسان" 5/108) ، وكذا جنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات
المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين
الملائكة: استغفارهم للمؤمنين، وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في

القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۱۲ ص ۱۱۲ رقم 7187. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن

محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ھ). المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ۱۳۲۱ھ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب امام ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے، تو تم آمین کہو۔ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ پس جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہوگئی۔ اس کے سابقہ سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

استدلال: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام آمین بالجہر نہیں کرتا۔ اگر امام آمین بالجہر کرتا تو سب مقتدی اس کی جہروالی آمین کو سن کر آمین کہہ دیتے، لیکن ایسا نہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پر امام کے پہنچنے کے وقت کو مقتدیوں کی آمین کا وقت قرار دیتے ہوئے آمین کہنے کا حکم فرمایا۔

حدیث نمبر 2:- مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

(موطا امام مالک رقم 288 / 80؛ صحیح بخاری رقم 780، 6402؛ مسلم رقم 72-

(410)؛ ابوداؤد رقم 936؛ ترمذی رقم 250؛ نسائی رقم 928)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”امام جب آمین کہے تو تم لوگ آمین کہو کیونکہ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

استدلال: امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وہ جملہ احادیث جن میں ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا“ آیا ہے، ہمارے دلائل ہیں۔“ (خزائن السنن ص ۳۲۸)

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا“ کو جمہور علماء نے مجاز پر محمول کیا ہے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: ”إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ میں باہم موافقت ہو جائے۔

1 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”قالوا: فالجمع بين الروایتين يقتضى حمل قوله: ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ“ على المجاز۔“

(فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۲ طبع دار السلام، ریاض)

ترجمہ ”علماء کہتے ہیں کہ حدیث ”إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ اور حدیث ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا“ میں جمع و تطبیق کا تقاضا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا“ کو مجاز پر محمول کیا جائے۔“

2 جب یہ دونوں روایات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہیں۔ تو ان میں تعارض ظاہر کر کے اعتراض کرنا درست نہیں بلکہ اس میں تطبیق دینی چاہیے، جو یہ ہے: ”وتأولوا قوله ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا. قالوا معناه: إذا اراد التأمین۔“ (نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۴ طبع قدیمی کراچی)

ترجمہ ”اور جمہور نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا“ سے یہ مراد لیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے، تو تم بھی آمین کہا کرو۔“

3 علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

”وأما روايته إذا أمَّن الإمام فأمنوا فمعناها: إذا اراد التأمین۔“ (نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۶ طبع قدیمی کراچی)

4 یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب میں لکھی ہے:

فَيَحْتَلُّ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ التَّأْمِينَ فَأَمِنُوا لِيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

(المجموع شرح المہذب (مع تكملة السبكي والمطبعي). ج ۳ ص ۳۷۲. المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمۃ اللہ علیہ (المتولي: 676 هـ). الناشر: دار الفكر)

5 علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد لکھتے ہیں:

"و جمع الجمهور بين الروایتين بأن المراد بقوله: إذا أمّن أي اراد التأمین ليقع تأمین الامام والبا موم معاً. (نیل الاوطار ج ۲ ص ۲۳۳) علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَأَمَّا دَلَالَةُ الْحَدِيثِ عَلَى الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ فَأُضْعَفُ مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى نَفْسِ التَّأْمِينِ قَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَأْمِينِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ. (احكام الاحكام شرح عمدة الأحكام. ج ۱ ص ۲۲۷. المؤلف: ابن دقيق العيد. الناشر: مطبعة السنة المحمدية)

ترجمہ "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا" والی حدیث کی دلالت جہر آمین پر انتہائی درجہ کی ضعیف ہے، نفس آمین کے ثابت ہونے سے جو معمولی سی ہے۔ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی دلیل امام کے آمین کہنے پر دلالت کرتی ہے مگر جہر کے بغیر۔

7 علامہ ابوالحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۸۳۸ھ) حدیث "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْبَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ترجمہ "اقرب بات یہ ہے کہ بیشک یہ لفظ اخفاء آمین پر مبنی ہے اور لفظ سابق اخفاء و جہر دونوں کا احتمال رکھتا ہے، مگر جہر کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے اور اس کو اخفاء آمین پر حمل کر کے دونوں میں موافقت پیدا کرنا زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم!"

(حاشية السندی علی سنن ابن ماجہ = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجہ ص ۲۸۰ تحت رقم 851. المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين

السندی رحمہ اللہ (التونی ۱۳۸ھ) الناشر: دار الجیل، بیروت. دار الفكر، الطبعة:
الثانية)

”فتدبر! ولا تكن مع الغافلین!“

اس سے پتہ چلا کہ ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا“ کا معنی جمہور کے نزدیک جس کا اقرار قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار (ج ۲ ص ۲۳۳) میں کیا ہے یہ ہے کہ امام جب آمین کہنے کا ارادہ کرے تو مقتدی آمین کہیں۔ امام کا ارادہ چونکہ دل کا فعل ہونے کی وجہ سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ امام پوشیدہ اور مخفی طور پر آمین کہتا ہے۔ لہذا غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا“ کا معنی امام کی آمین سن کر کہے، محض سینہ زوری ہے۔

حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جہر آمین کے قائلین نے ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا“ سے استدلال کیا کہ امام کا جہر تو مقتدیوں کو باخبر کرنے کے لیے ہے اور چونکہ مقتدیوں کو بھی اسی لفظ سے حکم ہوا۔ اس لیے وہ بھی جہر کریں گے۔ حضرت (انور شاہ رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ اگر یہی اصول ہے تو حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جب مؤذن اذان دے، تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے۔ یہاں تو مثل کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ لہذا اس سے یہ حکم نکال لو کہ سارے اذان سننے والے مؤذن کی طرح مینارہ پر چڑھ کر اذان دیا کریں اور حدیث میں ہے کہ امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ لہذا جس طرح وہ زور سے تکبیر کہتا ہے تو تم بھی بلند آواز سے کہو۔ حدیث میں ہے کہ جب امام ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ کہے تو تم ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہو۔ لہذا اس کے جواب میں ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ زور سے کہا کرو۔“

(انوار الباری ج ۱۶ ص ۴۴۴، ۴۴۵ طبع ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان)

حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال المالکۃ ہنا: إن الإمام یقرأ فقط، فلا یؤمن، ویؤمن المقتدی فقط ولا یقرأ۔

(فیض الباری علی صحیح البخاری، ج ۲ ص ۳۶۳، المؤلف: (أمالی) محمد أنور شاه بن معظم شاه کشمیری الہندی ثم الديويندى رضى الله عنه (المتوفى ۱۳۵۳ھ) المحقق: محمد بدر عالم الميرتھی رضى الله عنه، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابھیل (جمع الأمالی وحررها ووضع حاشية البدر الساری إلى فیض الباری). الناشر: دار الكتب العلمية بیروت، لبنان. الطبعة: الأولى ۱۴۲۶ھ)

”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا“ کے معنی عند الممالکیہ یہ ہیں کہ آمین کہلوائے یعنی -غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھے۔

حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رضى الله عنه نے اس حدیث کی تحقیق کئی جگہ فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: ”ایک حدیث ہے: ”أَمَّا جُعِلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ“۔ اور اس کو راوی حدیث کہیں پوری نقل کرتے ہیں اور کہیں اس کے ٹکڑے لاتے ہیں اور دوسرے ذکر نہیں کرتے۔ حضرت امام مسلم رضى الله عنه نے باب ”ایتمام المأموم بالامام“ کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضى الله عنه سے حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہمیں نماز سکھاتے تھے۔ جس میں یہ بھی فرماتے تھے کہ امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہ کرو۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی کہو۔ جب وہ ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے تو تم آمین کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اور جب امام ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہے تو تم ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہو۔

نیز امام مسلم رضى الله عنه نے اس سے پہلے باب: ”التسميع والتحميد والتأمين“ میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضى الله عنه سے حدیث نقل کی ہے کہ جب قاری: ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے اور اس کے پیچھے مقتدی آمین کہیں۔ اور ان کی آمین آسمان والوں کے ساتھ ہو جائے تو ان کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔

امام بخاری رضى الله عنه بھی باب: ”جهر المأموم بالتأمين“ میں حضرت ابو ہریرہ رضى الله عنه کی حدیث ان الفاظ سے لائے ہیں کہ جب امام ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے تو تم آمین کہو کیونکہ جس کا قول (آمین) فرشتوں کے قول

(آمین) کے ساتھ موافق ہو جائے گا تو اس کے گذشتہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔

اس سلسلہ کی تمام روایات سے معلوم ہوا کہ ان میں جہاں نماز کے سارے طریقے سکھائے گئے ہیں وہاں آمین کی جگہ بھی بتلائی گئی ہے۔ ان احادیث میں امام کی آمین کا حوالہ دینا غیر ضروری تھا۔ بس اتنا ہی بتلانا تھا کہ سورت فاتحہ نمٹ گئی۔ اب موقع ہے آمین کہنے کا۔

دوسری حدیث آئی ہے: "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا"۔ چونکہ یہ اسی قدر ٹکڑا ہے اور کسی بڑی حدیث کا اوپر والی حدیث کی طرح جزء نہیں ہے۔ اور یہ حدیث صرف آمین کی فضیلت بتلانے کے لیے ہے۔ اس لیے یہ بتلانا ضروری ہو گیا کہ آمین کس وقت کہو۔ اور اشارہ کیا امام کی آمین کی طرف۔ پہلی کا مقصد بیان موضع ہے کہ آمین کا تلفظ کس وقت کرو۔ یہ حقیقت ہے دونوں الگ الگ حدیثوں کی۔ جن کی وجہ سے اختلاف مذاہب پیدا ہوا۔ مگر دونوں حدیثوں میں جہر نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر امام جہر نہ کرے تو پتہ کیسے چلے گا؟ میں (انور شاہ رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ جب یہ بتلا دیا گیا کہ امام کے "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" کے بعد آمین کہنی ہے، تو اس میں جہر کی کیا ضرورت باقی رہی؟

اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے: "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا"۔ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الدعوات میں لائے ہیں۔ بظاہر وہ ان دونوں کے ایک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ اس لیے حسب عادت دو جگہ لائے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں سنداً اور متناً ایک ہی ہیں۔ میرے نزدیک ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور دوسری روایت بالمعنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دو سمجھ کر داخلِ صلوٰۃ اور خارجِ صلوٰۃ کا حکم عام ظاہر کیا ہے۔ اور "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا" کو صرف داخلِ صلوٰۃ کے لیے سمجھا ہے۔ پھر یہ کہ میرے نزدیک "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا" سے اتحاد وقت بتلایا گیا ہے کہ سب ساتھ کہیں: امام، مقتدی اور ملائکہ۔ حدیث میں ہے کہ "أَحَبُّ الْكَلَامِ عِنْدَ اللَّهِ" وہ ہے جو اس نے اپنے بندوں فرشتوں کے لیے تجویز کیا ہے: "سبحن

اللہ و بحمدہ سبحن اللہ العظیم اور سبحن الملک القدوس۔ معلوم ہوا کہ ملائکہ کی نماز بھی حنفیہ کے موافق ہے۔ اور وعدہ مغفرت بھی وہیں جہاں حنفیہ کے موافق چیز ہے: ”فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ماتقدم من ذنبه“۔ اور امام کی آمین بمد امامت نہیں ہے، بلکہ وہ بمد مصلیٰ ہے۔ وہ بھی مقتدیوں کے درجہ میں ہو کر ان کے ساتھ کہتا ہے۔

(انوار الباری ج ۱۶ ص ۴۴۳، ۴۴۴ طبع ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان)

4.2: حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 3:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ جُرِّ أَبِي الْعَنْبَسِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ وَايِلٍ، أَوْ سَمِعَهُ يُحْجِرُ مِنْ وَايِلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةَ: 7 قَالَ: " آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ."

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳۱ ص ۱۳۶ رقم 18854 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى ۲۴۱ھ)۔ المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي۔ الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ ﷺ نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھ چکے، تو آپ ﷺ نے آمین کہی اور آمین کہتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنی آواز کو آہستہ کر دیا۔ نماز کے دوران آپ ﷺ نے اپنا دایاں دست مبارک بائیں ہاتھ پر رکھا اور آپ ﷺ نے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرا۔

4.3: طرق حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ

یہ حدیث حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اور حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ دونوں نے سلمہ بن کہیل رضی اللہ عنہ سے، اس نے حجر رضی اللہ عنہ، اس نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے کہا: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو مد کے ساتھ ادا فرمایا۔“ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پست آواز سے کہی۔“

حدیث نمبر 4:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَنْبَسِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ، أَوْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ مِنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: "أَمِينَ" وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ..

حدیث صحیح

تحقیق

وأخرجه الطيالسي (1024) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 57/2 و 178 - والدارقطني في "السنن" 334/1 من طريق يزيد بن زريع. كلاهما (الطيالسي ويزيد) عن شعبة. بهذا الإسناد إلا أن الطيالسي قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل، وقد سمعت من وائل. قال الدارقطني: كذا قال شعبة: "وأخفى بها صوته". ويقال: إنه وهم فيه. لأن سفیان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة، فقالوا: "ورفع صوته بآمين". وهو الصواب.

وأخرجه مختصراً وبتمامه ابن حبان (1805) والطبرانی في "الكبير" 22/2 و (2) و (3) و (109) و (112)، والحاكم 232/2 من طرق عن شعبة، عن سلمة ابن كهيل، عن حجر، عن علقمة، عن وائل، به. إلا أن ابن حبان لم يذكر الإخفاء بها أو الجهر. قال الحاكم: صحیح علی شرط الشيخین، ولم یخرجاه، ووافقہ الذہبی!

وأخرجه مختصراً الطبرانی في "الكبير" 22/2 (115) من طريق موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة، عن علقمة، عن أبيه، قال: صليت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.

وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" وَعَنْ يَسَارِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ". وَقَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَلْمَةَ. قَالَ: عَنْ عُلُقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَزَادَ فِي السَّلَامِ: وَبَرَكَاتُهُ.

وَقَوْلُهُ: وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. سَلَفَ بِرَقْمِ (18853) وَسِيرِدَ بِرَقْمِ (18857) وَ (18861).

وَقَوْلُهُ: وَضَعَ يَدَهُ الْيَمِينَى عَلَى يَدِهِ الْيَسْرَى، سَلَفَ بِرَقْمِ (18846). وَانظُرْ (18841). (مَسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ج 31 ص 36 رَقْمُ 18854. الْمَوْلُفُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ بْنِ هَلَالِ بْنِ أَسَدِ الشَّيْبَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الْتَوَفَى 231 هـ). الْمَحْقُوقُ: شَعِيبُ الْأَرْنَؤُوطُ، عَادِلٌ مُرْشِدٌ، وَأَخْرُوجٌ إِيْرَافٌ: د. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْسَنِ التَّرْكِيُّ. النَّاشِرُ: مُؤَسَّسَةُ الرَّسَالَةِ. الطَّبْعَةُ: الْأُولَى. 321 هـ). (مَسْنَدُ أَحْمَدَ رَقْمُ 19059 طَبْعُ بَيْتِ الْإِفْكَارِ الدَّوْلِيِّ، لُبْنَانُ، طَبْعُ رَابِعِ 2010 هـ.)

ترجمہ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھ چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور آمین کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ کر دیا۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں دست مبارک بائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔

حدیث نمبر 5:- حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَالٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةَ: 7 فَقَالَ: "أَمِينَ" يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: وَقَالَ شُعْبَةُ: وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ. □

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. رَجَالُهُ ثِقَاتٌ رَجَالُ الشَّيْخِينَ غَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنبَسٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ نَهَ الْبُخَارِيُّ فِي "الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ" وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَغَيْرُ صَاحِبِيهِ فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ. وَالْبُخَارِيُّ فِي "الْقِرَاءَةِ" وَفِي "رَفْعِ الْيَدَيْنِ". وَكَيْعٌ: هُوَ ابْنُ الْمَجْرَاحِ وَسُفْيَانُ: هُوَ الثَّوْرِيُّ.

تحقیق

وأخرجه ابن أبي شيبة 425/2، و525/10، و245-244/14، والدارقطني في "السنن"
334-333/1 من طريق وكيع. بهذا الإسناد وقرن الدارقطني المحاربي بوكيع.
وقال: هذا صحيح.

وأخرجه الدارمي (1247)، وأبو داود (932)، والترمذي (248) في "سننه"، وفي
"العلل" 217/1. ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (586) - والطبراني في
"الكبير" 22/ (111)، والدارقطني 334/1، والبيهقي في "السنن" 57/2، وفي
"المعرفة" (3160) من طرق عن سفيان، به.

قال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل
العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ
صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يَخْفِيهَا. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وأخرجه ابن أبي شيبة 299/1. ومن طريقه المزني في "تهذيبه" (في ترجمة العلاء بن
صالح) - وأبو داود (933)، والترمذي (249)، والطبراني 22/ (114) من طريق
العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل، به. ووهم أبو داود في تسمية العلاء بن صالح
فقال: علي بن صالح، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْمَزْنِي.

ولفظه: "فَجْهَرٌ بِأَمِينٍ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتَ بَيَاضَ خَدَيْهِ".
وأخرجه الطبراني 22/ (107)، والبيهقي 58/2 من طريق أحمد بن عبد الجبار
الطاردي، عن أبيه، عن أبي بكر النَّهْشَلِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْصَبِيِّ،
عَنْ وَائِلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) قَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي أَمِينٌ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ
لَمْ يَحْرُرْ لَنَا أَمْرَهُ أَسْمَعَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ أَمْ بَعْدَهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الْيَحْصَبِيُّ، إِنْ كَانَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَهُوَ مِنْ رِجَالِ "التَّعْجِيلِ"، رَوَى عَنْهُ جَمْعٌ، وَلَمْ يُوَثِّرْ
تَوَثُّقَهُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ حَبَانَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ نَعْرِفْهُ.
وقد سلف برقم (18841).

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (853)، وأبي داود (934)، وابن حبان
(1797). وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7187).

وعن علي عند ابن ماجه (854)، وأورده ابن أبي حاتم في "العلل" 93/1 ونقل عن

أبيه أنه خطأ، وقال: إنما هو سلمة عن حجر أبي العنابس، عن وائل ابن حجر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وسياتي من طريق شعبة بإسناد آخر برقم (18854).

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (110) من طريق حجاج بن نصير، عن شعبة، بهذا الإسناد

وانظر (18841).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 31 ص 136، 138 رقم 18842، 18843. المؤلف:

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ).

المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد

المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

(مسند أحمد رقم 19047، 19048 - طبع بيت الأفكار الدولية، لبنان، طبع رابع 2010هـ)

ترجمہ

حضرت وائل بن حجر رضي الله عنه بیان کرتے ہیں: "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" پڑھا تو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ حضرت سفیان ثوری کی روایت میں ہے کہ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آواز کو کھینچا یعنی لفظ آمین کو مد کے ساتھ ادا کیا۔ حضرت امام شعبہ

کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو پست کیا۔

حدیث نمبر 6: - أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أُنَا

شُعْبَةُ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ حَجْرِ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ،

عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حَجْرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ"، قَالَ: "أَمِينَ". وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

(حدیث السراج ج 2 ص 103 رقم 429. المؤلف: أبو العباس محمد بن إسحاق بن

إبراهيم بن مهران الخراساني النيسابوري المعروف بالسراج رحمته الله (المتوفى:

313هـ). تخریج: زاهر بن طاهر الشحامی 533 هـ. المحقق: أبو عبد الله حسين بن

عكاشة بن رمضان. الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. الطبعة: الأولى

1425ھ۔ 2004م)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو سنا۔ جب آپ ﷺ نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھا تو آپ ﷺ نے آمین کہا۔ آپ ﷺ نے اس میں اپنی آواز کو پست رکھا۔

حدیث نمبر 7:- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ابْنَ الْعَنْبَسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنِ وَائِلٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ وَائِلٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةَ: 7 قَالَ: ”أَمِينَ“ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ“.

(مسند أبي داود الطيالسي، ج 2 ص 20، 21، 22 رقم 1117. المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (المتوفى 203هـ). المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر، مصر. الطبعة: الأولى 1319هـ)

ترجمہ حضرت حجر ابو عنبس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ اپنے باپ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں (حضرت حجر ابو عنبس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے خود بھی سنا ہے): انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور جب آپ ﷺ نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھا تو آپ ﷺ نے آمین کہی اور اس میں اپنی آواز کو پست کیا۔

حدیث نمبر 8:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْعَنْبَسِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، ثنا وَائِلٌ، أَوْ عَنْ وَائِلِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ قَالَ: ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ الْفَاتِحَةَ: 7. قَالَ: ”أَمِينَ“. وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى

الْيُسْرَى، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ..

(سنن الدارقطني، ج ۲ ص ۱۲۸، ۱۲۹ رقم 1270. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمته (التوفى ۳۸۵هـ). حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳هـ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی آواز کو پست رکھا۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں دست مبارک بائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرا۔

حدیث نمبر 9:- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَنبَأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَايِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَايِلٍ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ وَايِلٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةَ: 7 قَالَ: آمِينَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ..

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۸۳ رقم 2447. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (التوفى ۳۵۸هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳هـ)
(الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، ج ۲ ص ۳۱۸ رقم 1605. المؤلف: أبو بكر البيهقي رحمته (384 هـ - 458 هـ). تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال. الناشر: الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولى، 1436

ہ۔ 2015 م)

ترجمہ حضرت حجر ابو عنبس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ اپنے باپ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں (حضرت حجر ابو عنبس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے خود بھی سنا ہے): ”انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز پست کر دی۔

یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ یہ سند امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے امام ابوداؤد طیالسی رضی اللہ عنہ کے طریق سے نقل کی ہے

حدیث نمبر 10:- وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةَ: 7، فَقَالَ: آمِينَ، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

(ترمذی ص ۱۲۷ تحت رقم 248، طبع دار المعرفۃ، بیروت ۱۴۲۳ھ)

(مختصر الأحكام = مستخرج الطوسی علی جامع الترمذی، ج ۲ ص ۹۱، المؤلف: أبو علی الحسن بن علی بن نصر الطوسی، الملقب: بکرتوشی، (المتوفی: 312ھ). المحقق: أنیس بن أحمد بن طاهر الأندونوسی، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية، الطبعة: الأولى، 1415ھ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اس میں اپنی آواز کو پست کیا۔

حدیث نمبر 11:- رَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَلْبِيُّ فِي سُنَنِهِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَايِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعَهُ مُحَجَّرٌ مِنْ وَايِلٍ قَالَ: ”صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

(التلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر، ج ۱ ص ۳۲۸. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی رحمته (المتوفى: 852 هـ).
تحقیق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب. الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.
الطبعة: الأولى، 1416 هـ / 1995 م)

ترجمہ امام ابو مسلم ابراہیم الکجی رحمته (المتوفى ۲۹۲ هـ) نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ہم کو عمرو بن مرزوق رحمته نے بتایا۔ ان کو امام شعبہ رحمته نے حدیث بیان کی سلمہ بن کہیل رحمته سے، انہوں نے حجر بن عنبس رحمته، انہوں نے علقمہ رحمته سے، انہوں نے حضرت وائل بن حجر رحمته سے۔ اور بیشک حجر بن عنبس رحمته نے یہ حدیث خود بھی حضرت وائل رحمته سے سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آمین پوشیدہ کر کے کہی۔

حدیث نمبر 12:- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيه، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ

الزَّاهِدُ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمَّاذٍ الْعَدْلُ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةِ: 7 قَالَ: "أَمِينَ"، يُخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

التعليق - من تلخيص الذهبي، 2913 - على شرط البخاري ومسلم

(المستدرک علی الصحیحین، ج ۲ ص ۲۵۳ رقم 2913. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني

النيسابوري المعروف بابن البيع رحمته (المتوفى ۴۰۵ هـ). تحقیق: مصطفى عبد القادر

عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، ۱۳۱۱ هـ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رحمته فرماتے ہیں: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز

پڑھی اور جب حضور اکرم ﷺ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" پڑھے تو آپ ﷺ نے آمین کہی اور اس میں اپنی آواز کو پست کیا۔

اوپر بیان کی ہوئی سندوں میں حجر ابو العنابس رضی اللہ عنہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے علقمہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں جس کو وہ اپنے شیخ معاذ بن المثنیٰ رضی اللہ عنہ اور ابو مسلم الکجی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بغیر بیان کرتے ہیں۔

حدیث نمبر 13: - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمَثْنِيِّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلْمَةَ

بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَنَبَسٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّأَ قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةَ: 7 قَالَ: "أَمِينَ" فَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ."

(المعجم الكبير، ج 22 ص 23 رقم 109. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رضي الله عنه (المتوفى سنة 320 هـ) - المحقق: حمدى بن عبد

المجيد السلفي - دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: "میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی

اقتداء میں نماز ادا کی۔ جب آپ ﷺ نے "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" پڑھا تو آپ ﷺ نے آمین کہا۔ آپ ﷺ نے اس میں اپنی آواز کو پست رکھا۔ نماز کے دوران آپ ﷺ نے اپنا دایاں دست مبارک بائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور آپ ﷺ نے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرا۔

حدیث نمبر 14: - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَلْبِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ

سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرَ أَبَا الْعَنَبَسِ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} الْفَاتِحَةَ: 7 قَالَ: "أَمِينَ" وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَهَا عَلَى بَطْنِهِ، وَكَانَ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ تَسْلِيمَتَيْنِ».

(المعجم الكبير، ج ۲۲ ص ۲۲۴ رقم 110 المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى سنة ۳۶۰هـ) . المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ جب آپ ﷺ نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھا تو آپ ﷺ نے آمین کہی۔ آپ ﷺ نے اس میں اپنی آواز کو آمین کہتے ہوئے پست رکھا۔ نماز کے دوران آپ ﷺ نے اپنا دایاں دست مبارک بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر رکھا۔ جب آپ ﷺ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے، تو آپ ﷺ (اس کے بعد) «اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» بھی کہتے۔ اور آپ ﷺ اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف، دونوں طرف، سلام پھیرتے۔

حدیث نمبر 15:- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّيُوطِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جُرَيْرِ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ». قَالَ: «آمِينَ»، خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

(المعجم الكبير، ج ۲۲ ص ۲۲۹ رقم 3 المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى سنة ۳۶۰هـ) . المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آپ ﷺ نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھا تو آپ ﷺ نے آمین کہی۔ آپ ﷺ نے اس میں اپنی آواز کو پست رکھا۔

حصہ دوم: آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم

4.4: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل

اثر نمبر 1: - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "أَرْبَعٌ يُخْفَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ: التَّعَوُّدُ، وَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَمِينَ، وَاللَّهُمَّ! رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". ابن جرير.

(جمع الجوامع المعروف بـ "الجامع الكبير" ج 1 ص 553 رقم 2 / 3371. المؤلف:

جلال الدين السيوطي رحمه الله (849-911 هـ). المحقق: مختار إبراهيم الهاجج - عبد

الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر. الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة -

جمهورية مصر العربية. الطبعة: الثانية. 1326هـ)

(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 8 ص 244 رقم 22893. المؤلف: علاء

الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي

البرهانفوري ثم المدني فالسكي الشهيد بالمتقى الهندي رحمه الله (السنن 915هـ)

.المحقق: بكرى حياني، صفوة السقا. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الطبعة

الخامسة. 1301هـ)

ترجمہ حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: "امام کو چار چیزوں میں اخفاء کرنے کا حکم ہے: تعوذ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ، آمِينَ، اور اللَّهُمَّ! رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔

اعتراض یہ روایت مرسل ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا سماع حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں

ہے۔

جواب حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے تمام رسائلات محدثین کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک صحیح ہیں، جیسا

کہ اس کتاب کے باب 6 اور "راحت العينين في ترك رفع اليدين" میں اس کی

وضاحت کردی گئی ہے۔

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے استاذ حضرت ابو معمر عبد اللہ بن سخرہ الازدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ

بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اخفاء آمین کی روایت انہی الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ لہذا

لِمَنْ حَمَدَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ تَسْلِيمَتَيْنِ».

(المعجم الكبير، ج ۲۲ ص ۲۲ رقم 110. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة ۳۶۰هـ). المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی آواز کو آمین کہتے ہوئے پست رکھا۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں دست مبارک بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اس کے بعد) ”اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ بھی کہتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف، دونوں طرف، سلام پھیرتے۔

حدیث نمبر 15:- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّيُوطِيُّ، ثنا عَفَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ جُرِّ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ“، قَالَ: ”آمِينَ“، خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

(المعجم الكبير، ج ۲۲ ص ۲۹ رقم 3. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة ۳۶۰هـ). المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی آواز کو پست رکھا۔

حصہ دوم: آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم

4.4: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل

اثر نمبر 1:- عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "أَرْبَعٌ يُخَفِّينَ عَنِ الْإِمَامِ: التَّعَوُّدُ وَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَمِينَ، وَاللَّهُمَّ! رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". ابن جرير.

(جمع الجوامع المعروف بـ "الجامع الكبير"، ج 12 ص 553 رقم 2 / 3371. المؤلف:

جلال الدين السيوطي رحمه الله (849-911 هـ). المحقق: مختار إبراهيم الهاجج - عبد

الحמיד محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر. الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة -

جمهورية مصر العربية. الطبعة: الثانية. 1326هـ)

(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 8 ص 242 رقم 22893. المؤلف: علاء

الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي

البرهانفوري ثم المدني فالملكي الشهير بالمتقي الهندي رحمه الله (المتوفى 945هـ)

.المحقق: بكرى حياني، صفوة السقا. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الطبعة

الخامسة. 1301هـ)

ترجمہ حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: "امام کو چار چیزوں میں اخفاء کرنے کا حکم ہے: تعوذ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ، آمِينَ، اور اللَّهُمَّ! رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔

اعتراض یہ روایت مرسل ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا سماع حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں

ہے۔

جواب حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے تمام مراسلات محدثین کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک صحیح ہیں، جیسا

کہ اس کتاب کے باب 6 اور "راحت العینین فی ترک رفع الیدین" میں اس کی

وضاحت کر دی گئی ہے۔

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے استاذ حضرت ابو معمر عبد اللہ بن سجرہ الازدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ

بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اخفاء آمین کی روایت انہی الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ لہذا

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اخفاء آمین بیان کرنا بلا شک و شبہ صحیح ہے۔

اثر نمبر 2: - وروی أبو معمر عن عمر بن الخطاب أنه قال: يخفي الإمام أربعا:

التعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وأمين، وربنا لك الحمد
(البنایة شرح الهدایة، ج ۲ ص ۱۹۶۔ المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابی الحنفي بدر الدين العيني رحمته اللہ علیہ (المتوفى: 855 هـ)۔ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان۔ الطبعة: الأولى 1420 هـ - 2000 م)

ترجمہ ابو معمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”امام چار چیزیں آہستہ آواز سے پڑھے: تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، اور ربنا لك الحمد“۔

☆ حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن سجرہ الازدی الکوفی رضی اللہ عنہ ہے۔

”روى عن عمر وعنه ابراهيم النخعي“ (تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۲۳۰)

ترجمہ حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور ان ابو معمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

لہذا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اخفاء آمین بیان کرنا بلا شک و شبہ صحیح ہے۔

اثر نمبر 3: - وَرَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

”يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا: التَّعَوُّذُ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“.

(المعلی بالاثار، ج ۲ ص ۲۸۰، ۲۹۴؛ ج ۵ ص ۳۵۶۔ المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري رحمته اللہ علیہ (المتوفى ۳۵۶ هـ)۔ الناشر: دار الفكر، بيروت)

(مغلی ابن حزم ج ۳ ص ۱۳۸، ۱۵۸ طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۲۲ھ)

ترجمہ (علی بن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:) ہم نے روایت کیا ہے عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”امام چار چیزیں آہستہ آواز سے

پڑھے: تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، اور ربنا لک الحمد۔

اس روایت کو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے دو مقامات پر ذکر فرمایا ہے اور اس پر کسی قسم کی جرح نہیں کی بلکہ اس کو ثابت مانتے ہیں۔

اعتراض حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات و سماع حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں کیونکہ عبدالرحمن بن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت چھ سال کے چھوٹے بچے تھے۔

جواب چھ سال کا بچہ اگر ذہین و فطین ہو تو حدیث بیان کر سکتا ہے۔ جب کہ وہ خود کہے کہ بات میں نے محفوظ و ملحوظ کی ہے۔

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقَرِّي، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: "مَتَى يَجُوزُ سَمَاعُ الصَّبِيِّ فِي الْحَدِيثِ؟" فَقَالَ: "إِذَا عَقَلَ وَضَبَطَ".... يَجُوزُ سَمَاعُهُ إِذَا عَقَلَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَوَكَيْعٍ، وَذَكَرَ أَيْضًا قَوْلًا.

(الكفاية في علم الرواية، ص ۶۱. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۲۶۳ھ). المحقق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدى المدنى. الناشر: المكتبة العلمية، المدينة المنورة)

ترجمہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: "لڑکا کب حدیث میں سماع کے قابل ہوتا ہے؟"۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "جب عاقل ہو جائے اور لفظ ضبط کر سکے"۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "اگر اس بات پر عمل نہ کیا جائے تو پھر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے لڑکپن میں حدیثیں یاد و محفوظ کی ہیں۔ ان کے بارے کیا فیصلہ ہوگا؟

حضرت موسیٰ بن ہارون الحمالی رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے پوچھا: "بچہ حدیث کی سماعت کا کب اہل ہو سکتا ہے؟"۔ حضرت موسیٰ بن ہارون الحمالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "جب بیل اور گدھے میں تمیز کر سکے"۔ (الكفاية في علم الرواية، ص ۶۵)

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کا پانچ سال کی عمر میں حدیث

محفوظ کر لینے کا ذکر کیا ہے۔ (دیکھیے بخاری ج ۱ ص ۱۷ طبع قدیمی کراچی)
اس ضابطہ کے تحت محدثین کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کے سماع حدیث کو معتبر مانا ہے۔
حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وَأَسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ“.
(مسلم ج ۱ ص ۲۴ طبع قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ترجمہ اور حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کو محفوظ بھی کیا ہے۔

حضرت امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وَقُتِلَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى غُلَامٌ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ... وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَأَاهُ“.
(ترمذی: کتاب الدعوات، باب ما يقول عند الغضب ص ۱۳۳۰ رقم الحدیث ۳۴۵۲ طبع دار المعرفۃ، بیروت)

ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ چھ سال کے چھوٹے لڑکے تھے۔ بیشک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے۔

حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں:

”عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمْرٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ، هَلَالَ شَوَالٍ. فَقَالَ عَمْرٌ: أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْطَرُوا (إِلَى) وَمَسَحَ خَفِيهِ (إِلَى) ثُمَّ صَلَّى عَمْرٌ الْمَغْرِبَ“.
(مسند احمد رقم ۱۹۳، ۳۰۷ طبع اردن ۲۰۱۰ء)

ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے شوال کا چاند دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”روزہ افطار کر دو“۔۔۔۔۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے موزوں

پر مسح کیا۔۔۔۔۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔

علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رَأَى عَمْرٍا مَسْحَ عَلٰی خُفَّيْهِ“۔

ترجمہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

علامہ شمس الحق عظیم آبادی رضی اللہ عنہ غیر مقلد لکھتے ہیں:

”أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: رَأَيْنَا عَمْرًا بِأَلٍ، ثُمَّ مَسَحَ ذِكْرَهُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ: هُكَذَا عَلَّمَنَا“.

(التعليق المغنى ج 1 ص 23)

ترجمہ امام طبرانی رضی اللہ عنہ اور ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ”ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیشاب کرتے ہوئے پھر مٹی سے استنجاء کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ہمیں اسی طرح تعلیم دی گئی ہے۔“

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کا اخفاء آئین نقل کرنا صحیح ہے۔ اس روایت کے بعینہ وہی الفاظ ہیں جو پہلی دو روایتوں کے ہیں۔

4.5: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل

اثر نمبر 4:- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ، قَالَ:

ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: "كَانَ عَمْرٌ

وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

الْفَاتِحَةِ: 1، وَلَا بِالتَّعْوِذِ، وَلَا بِالتَّأْمِينِ“.

(شرح معاني الآثار، ج 1 ص 203، 204 رقم 1208. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن

سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رضى الله عنه

(المتوفى 320هـ). حققه وقدم له: محمد زهرى النجار. محمد سيد جاد الحق، من

علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد

الرحمن المرعشلی، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ

(طحاوی ج ۱ ص ۲۶۳ رقم ۱۱۷۳ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ)

ترجمہ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دونوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ بلند آواز سے پڑھتے تھے، نہ تعوذ اور نہ آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔

اثر نمبر 5: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ

عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْبَقَّالِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: "كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِأَمِينٍ".

(المعجم الكبير ج ۹ ص ۲۶۲ رقم 9304. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى ۳۶۰ھ). المحقق: حمدى بن عبد

المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

(المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص ج ۳ ص ۲۰۳ رقم 2331-176. □

المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي

المخلص رحمته (المتوفى: ۳۹۳ھ). المحقق: نبيل سعد الدين جرار. الناشر: وزارة

الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر. الطبعة: الأولى ۱۴۲۹ھ)

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ أَبُو سَعْدِ الْبَقَّالُ وَهُوَ ثِقَّةٌ مُدَلِّسٌ. □

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۲ ص ۱۰۸ رقم 2632. المؤلف: أبو الحسن نور الدين

علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حسام الدين

القدس. الناشر: مكتبة القدس، القاهرة ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”خليفة راشد حضرت علي رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ نہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ بلند آواز سے پڑھتے تھے، نہ تعوذ اور آمین

بلند آواز سے کہتے تھے۔“

تنبیہ حضرت ابوسعد البقال رضی اللہ عنہ جس کا نام سعید بن المرزبان العبسی الکوفی رضی اللہ عنہ ہے۔ حسن

درجے کا راوی ہے۔

اثر نمبر 6:- روى الطبرى فى "تهذيب الآثار": نا أبو بكر بن عياش، عن أبى سعيد، عن أبى وائل قال: لم يكن عمرُ وعلى يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين.

(شرح سنن أبى داود ج ۴ ص ۱۹۴. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى رحمته (المتوفى: 855 هـ). المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصرى. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى. 1420 هـ. 1999 م)

□ وروى الطبرى فى تهذيب الآثار فقال أخبرنا أبو كريب أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن أبى سعيد عن أبى وائل قال لم يكن عمر وعلى يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين

(تخرج أحاديث إحياء علوم الدين، ج ۱ ص ۳۹۸. المؤلفون: العراقى (725-806 هـ)، ابن السبكى (727-771 هـ)، الزبيدى (1145-1205 هـ). استخراج: أبى عبد الله محمود بن محمد الحداد (1374 هـ). الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض. الطبعة: الأولى. ۱۴۰۸ هـ)

□ قال الطبرى فى تهذيب الآثار: أنا أبو كريب، نا أبو بكر بن عياش، عن أبى سعيد، عن أبى وائل، قال: لم يكن عمر وعلى يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا بآمين.

(الجواهر النقى على سنن البيهقى، ج ۲ ص ۴۸، ۵۸. المؤلف: علاء الدين على بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى الماردىنى، أبو الحسن، الشهير بأبن التركمانى رحمته (المتوفى: ۵۰۰ هـ). الناشر: دار الفكر)

ترجمہ حضرت ابو وائل رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضي الله عنه اور حضرت علی رضي الله عنه نے "بسم الله الرحمن الرحيم" بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ نہ "آمین" بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔

1 علامہ نیوی علیہ السلام کا فرمان

محقق وقت، محدثِ زمن حضرت مولانا ظہیر احسن شوق نیوی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”قال النيموئي: لم يثبت الجهر بالتأمين عن النبي ﷺ، ولا عن الخلفاء الأربعة. وما جاء في الباب فهو لا يخلوا من شيء.“ (آثار السنن ص ۱۳۱)

ترجمہ ”آمین بالجہر نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ آمین کے جہر کے بارے میں جو روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی عیب سے خالی نہیں۔“

4.6: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل

اوپر اثر نمبر 5 میں یہ روایت گزر چکی ہے: حضرت ابو ذر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ بلند آواز سے پڑھتے تھے، نہ تعوذ اور آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔

(مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۳۰، ۲۳۱، رقم ۲۶۳۲؛ طبرانی فی الکبیر رقم ۹۳۰۴)

اثر نمبر 7: - عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، كِلَاهُمَا عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ”يُخْفِي الْإِمَامُ ثَلَاثًا: الْإِسْتِعَاذَةَ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ.“

(المحلى بالآثار، ج ۲ ص ۲۸۰، ۲۹۴. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

الأندلسي القرطبي الظاهري رحمه الله (المتوفى ۴۵۶ھ). الناشر: دار الفكر، بيروت)

(مغلي ابن ج ۳ ص ۱۳۸، ۱۵۸ طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: امام تین چیزوں کو پوشیدہ کرے: أعوذُ

باللہ من الشیطن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آمین۔

☆ علامہ ابن حزم رضی اللہ عنہ نے اس روایت پر کوئی جرح نہیں فرمائی، لیکن اس میں ایک راوی

ابو حمزہ رضی اللہ عنہ ضعیف ہے مگر امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”يُكْتَبُ حَدِيثُهُ“ (میزان الاعتدال ج ۳ ص ۲۲۲)۔

ترجمہ اس کی حدیث لکھ کر بطور تائید پیش کی جاسکتی ہے، کیونکہ صحیح روایت طبرانی کے حوالہ سے اوپر گزر چکی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اخفاء آمین کرتے تھے، جبر آمین نہ کرتے تھے۔

قال الطبري رحمه الله: وروى ذلك عن ابن مسعود (الجوهري ج ۲ ص ۵۸) ”امام طبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اخفاء آمین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے۔“

4.7: حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہما تابعی کا فرمان و عمل

اثر نمبر 8: - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حمادٍ عن ابراهيم قال: ”أربعٌ يُخَافُ بِهِنَّ الْإِمَامُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّدُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ“۔

(کتاب الآثار امام محمد رقم ۸۳؛ کتاب الآثار ابو یوسف رقم ۱۰۶)

ترجمہ حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”امام چار چیزوں کو آہستہ آواز سے کہے: (1) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، (2) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، (3) بسم الله الرحمن الرحيم، (4) آمين۔“

اثر نمبر 9: - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ”أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالِاسْتِعَاذَةُ، وَآمِينَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“۔

(المصنف، ج ۲ ص ۸۷ رقم 2596، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع)

الحميري اليمني الصنعاني رحمه الله (التوفى ۲۱۱ھ)۔ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله

الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۴۰۳ھ)

ترجمہ حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”امام چار چیزوں میں اخفاء کرے: بسم، تعوذ، آمین کہنے میں، سمیع کے بعد تمہید کہنے میں۔“

اثر نمبر 10:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "خَمْسٌ

يُخَفِّينَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
وَأَمِينَ، وَاللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ."

(المصنف ج ۲ ص ۸۷ رقم 2597 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع

الحميري اليمني الصنعاني رحمته (المتوفى ۲۱۱ھ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمته

الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة: الثانية، ۱۴۰۳ھ)

(واسناده صحيح، آثار السنن ص ۱۴۶)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رحمته فرماتے ہیں: "امام پانچ چیزوں کو آہستہ پڑھے:

(1) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، (2) أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،

(3) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، (4) آمِينَ، (5) رُكُوعَ كُلِّ وَتِ

پڑھنا) اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

اثر نمبر 11:- عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَبِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،

قَالَ: "خَمْسٌ يُخَفِّينَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَبِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَمِينَ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ."

(المحلى بالآثار، ج ۲ ص ۲۸۰ المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

الأندلسي القرطبي الظاهري رحمته (المتوفى ۳۵۶ھ) الناشر: دار الفكر، بيروت)

(المحلى شرح المحلى ج ۳ ص ۱۳۸ طبع دار احیاء التراث، بيروت ۱۴۲۲ھ)

اثر نمبر 12:- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "خَمْسٌ

يُخَفِّيهِنَّ الْإِمَامُ: الْإِسْتِعَاذَةُ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَبِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَمِينَ، وَاللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ."

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج ۲ ص ۲۶۷ رقم

8849 المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن

خواستي العبسي رحمته (المتوفى ۲۳۵ھ) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر:

مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، ۱۴۰۹ھ)

(ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۸۶ رقم ۸۹۳۱ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی طبع الثانی ۱۴۲۸ھ)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ امام پانچ چیزوں کو آہستہ پڑھے:

- (1) أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، (2) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،
- (3) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، (4) آمِينَ، (5: ركوع سے اٹھتے وقت پڑھنا) اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

اثر نمبر 13:- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

"يُخْفِي الْإِمَامُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالِاسْتِعَاذَةَ، وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ."

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن ابی شیبہ) ج ۲ ص ۲۶۸ رقم 8852

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی

العسبي رضي الله عنه (المتوفى ۲۳۵ھ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة

الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، ۱۴۰۹ھ)

(ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۴۱۰، ۴۱۱، ج ۲ ص ۵۳۶ طبع اول: ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۷۴ رقم ۴۱۵۹؛

ج ۶ ص ۸۶ رقم ۸۹۳۳ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی طبع الثانی ۱۴۲۸ھ)

ترجمہ حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "امام چار چیزوں میں اخفاء کرے:

- (1) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، (2) أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
- (3) آمِينَ، (4: ركوع سے اٹھتے وقت پڑھنا) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ."

اثر نمبر 14:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، قَالَ: ثنا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "أَرْبَعٌ لَا يَجْهَرُ بِهِنَّ الْإِمَامُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالِاسْتِعَاذَةَ، وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ."

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن ابی شیبہ) ج ۲ ص ۲۶۷

رقم 8848. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی

العسبي رضي الله عنه (المتوفى ۲۳۵ھ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر:

مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، ۱۴۰۹ھ)

(ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۸۶ رقم ۱۹۳۰ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۴۲۸ھ)

ترجمہ حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”امام چار چیزوں میں اخفاء کرے:

- (1) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، (2) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ،
- (3) اٰمِیْنِ، (4: رکوع سے اٹھتے وقت پڑھنا) اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔

اثر نمبر 15:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْبَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ: اَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ اَمِيْنَ۔

(المصنف، ج ۲ ص ۹۶ رقم 2635. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رضي الله عنه (المتوفى ۲۱۱ھ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمته الله. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة: الثانية، ۱۴۰۳ھ)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ آمین آہستہ کہتے تھے۔

اثر نمبر 16:- قال الطبري: وروى عن النخعي رضي الله عنه والشعبي رضي الله عنه وابراهيم التيمي

رضي الله عنه كانوا يخفون بآمين. (الجوهري ج ۲ ص ۵۸؛ فيض الباري ج ۲ ص ۳۶۳ طبع بيروت)

ترجمہ امام ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ، امام شعبی رضی اللہ عنہ اور ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ یہ سب آمین کو آہستہ پڑھتے تھے۔

خلاصہ ان سب روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ خود بھی اخفاء آمین کیا

کرتے تھے اور امام کے لیے اخفاء آمین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں امام کا لفظ موجود ہے اور دوسری روایتوں میں امام کا لفظ موجود نہیں ہے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت عام ہے اور امام اور مقتدی دونوں کو شامل ہے۔

اور آمین کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ، سبحانك اللهم الخ، ربنا لك الحمد میں بھی اخفاء کیا جائے۔

حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سید التابعین ہیں۔ آپ دارالعلم کوفہ کے مفتی تھے۔ یہ شہر دارالعلم تھا۔ ہزاروں محدثین اور فقہاء کا مسکن تھا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ عہد صحابہ

رضی اللہ عنہم میں ہی پیدا ہوئے اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جلالت علم کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی

موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے۔ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم ہی میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے

آہستہ آمین کہنے کا فتویٰ دیا لیکن کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار نہ فرمایا کہ یہ فتویٰ خلاف سنت ہے حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ سنت کے کس قدر شیدائی تھے۔ وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ اتباع سنت کے واسطے بچھا کر کرنے کے لئے ہر آن تیار رہتے تھے۔ لیکن آہستہ آمین کے فتوے کے خلاف نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی آواز اٹھتی ہے، نہ تابعی رضی اللہ عنہ کی، نہ تبع تابعی رضی اللہ عنہ کی۔ نہ کوئی تقریر آہستہ آمین کے خلاف ہوتی ہے۔ نہ کوئی رسالہ لکھا جا رہا ہے، نہ تو کسی مسجد میں لڑائی جھگڑا کھڑا کر کے مناظروں کے چیلنج دئے جاتے ہیں، نہ بلند آواز سے آمین نہ کہنے والوں کو معاذ اللہ یہودی، مخالف سنت کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جن کی روایت کو آمین بالجہر کی دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی اس وقت کوفہ میں موجود ہیں لیکن اس فتویٰ کے خلاف کوئی حدیث نہیں پڑھتے۔ (تجلیات صفحہ ۳ ص ۱۲۸)

فائدہ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: أَلِدُّ الشَّيْبَانَ فِي الْإِخْفَاءِ بِأَمِينٍ (اخفاء آمین)

باب 5

رکوع اور مدرک رکوع

5.1:- کیفیت رکوع

(1) قرات سے فارغ ہو جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔

حدیث نمبر 1:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَزْكَعُ". الْحَدِيثُ (صحیح بخاری رقم: 789، 803؛ صحیح مسلم رقم: 28-392)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہونے کے وقت تکبیر کہتے اور پھر رکوع میں جانے کے وقت تکبیر کہتے تھے۔“

(2) رکوع میں اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور پیٹھ تقریباً ایک سطح پر آجائیں۔

حدیث نمبر 2:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ

مَيْسِرَةٌ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ. وَالْقِرَاءَةِ، بِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْغِضْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ (صحیح مسلم رقم: 240-498)

ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نماز کو تکبیر سے، قرأت کو الحمد لله رب العالمین سے شروع فرماتے تھے اور جب رکوع میں جاتے تھے تو سر مبارک کو نہ بلند کرتے تھے اور نہ نیچا بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رکھتے تھے۔

حدیث نمبر 3:- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا سَلَامُ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدِ الْعَبَّيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَكَعَ اسْتَوَى فَلَوْ صَبَّ عَلَى ظَهْرِهِ الْمَاءُ لَأَسْتَقَرَّ.

(المعجم الكبير، ج ۱۲ ص ۱۸۷ رقم 12781. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمه الله (المتوفى ۳۲۰هـ). المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية) رَوَاهُ الظَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ مُوْتَقُونَ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۲۳ رقم 2737. المؤلف: أبو الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمه الله (المتوفى ۸۰۷هـ). المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۳۱۳هـ)

حدیث نمبر 4:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوْ صَبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَأَسْتَقَرَّ.

لَمْ يَزُودْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ الْجَنْصِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ

(المعجم الأوسط، ج ۶ ص ۲۲ رقم 5676. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى ۳۶۰هـ). المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. الناشر: دار الحرمين، القاهرة) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۱۲۳ رقم 2738. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (المتوفى ۸۰۷هـ). المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۴۱۳هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو پشت مبارک کو اس طرح ہموار کرتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پانی گرا دیا جاتا تو وہ ٹھہرا رہتا۔“

(3) رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں ان میں خم نہ ہونا چاہیے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوں اور بازو سیدھے تنے ہوئے پہلو سے دور رہیں۔

حدیث نمبر 5:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّاقِطُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: ... يَا أَنَسُ! إِذَا رَكَعْتَ فَأَمْكِنِ كَفَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ. وَيَا بُنَيَّ! إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرَّكُوعِ فَأَمْكِنِ كُلَّ عَضْوٍ مِنْكَ مَوْضِعَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صَلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ.

(المعجم الأوسط، ج ۶ ص ۱۲۳ رقم 5991. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى ۳۶۰هـ). المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. الناشر: دار الحرمين، القاهرة)

رَوَاهُ أَبُو يَعْنَى. وَالتَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ..... وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ، وَهُوَ

ضَعِيفٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۱ ص ۲۷۱ رقم 1470. المؤلف: أبو الحسن نور الدين
على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حسام الدين
القدس. الناشر: مكتبة القدس، القاهرة ۱۳۱۳ھ)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رحمته الله:
فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَكَعْتَ، فَضَعُ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرَّجْ بَيْنَ
أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَضْوٍ إِلَى مِفْصَلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ
فَأَمِّكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ.

(المصنف، ج ۳ ص ۱۳، ۱۵ رقم 8830. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع
الحميري اليماني الصنعاني رحمته الله (المتوفى: 211ھ). المحقق: حبيب الرحمن
الأعظمي رحمته الله. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي -
بيروت. الطبعة: الثانية، 1403م)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: "فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَكَعْتَ فَضَعُ يَدَيْكَ
عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرَّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَضْوٍ
إِلَى مِفْصَلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمِّكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ."
وَرِجَالُ الْبَرَارِ مُوثِقُونَ. وَقَالَ الْبَرَّارُ: قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوهِ
وَلَا نَعْلَمُ لَهُ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۳ ص ۲۷۳ رقم 5648. المؤلف: أبو الحسن نور
الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حسام الدين
القدس. الناشر: مكتبة القدس، القاهرة ۱۳۱۳ھ)

ترجمہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: "اے میرے پیارے بیٹے! جب تم رکوع میں جاؤ تو دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں
پر رکھ لو، اور انگلیاں کشادہ رکھو اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھو۔ پھر جب تم رکوع
سے سر اٹھا لو تو پھر ہر عضو کو اس کی جگہ پر ٹھہرا لے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی

طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا۔“

حدیث نمبر 6:- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَثَرَ يَدَيْهِ، فَتَحَاهُمَا عَنِ جَنْبَيْهِ.» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ. حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنَّ يُجَافِي الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (سنن ترمذی رقم: 260)

ترجمہ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے رکوع کیا تو ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھا کہ گویا انھیں پکڑے ہوئے ہیں اور بازو کو تان کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھا۔“

(4) رکوع میں کم از کم اتنی دیر رکھیں کہ اطمینان سے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جاسکے۔

حدیث نمبر 7:- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهَدَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ.» (سنن ترمذی رقم: 261؛ ابوداؤد رقم: 886؛ ابن ماجہ رقم: 890)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں کسی نے جب رکوع کیا اور اپنے رکوع میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ پڑھا، تو اس کا رکوع پورا ہو گیا اور تین بار کی تعداد کمال کا ادنیٰ درجہ ہے اور جب سجدہ کیا اور سجدہ میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ تین بار پڑھا، تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا اور یہ کمال کا ادنیٰ درجہ

ہے۔

حدیث نمبر 8: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارِ

بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكَّارٍ مَعْرُوفٌ نَسَبُهُ صَالِحُ الْحَدِيثِ.

(مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، ج 9 ص 133 رقم 3686. المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمته (المتوفى 292هـ). المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي. الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. الطبعة: الأولى)

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ صَالِحُ الْحَدِيثِ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج 2 ص 128 رقم 2777. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (المتوفى 805هـ). المحقق: حسام الدين

القمي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة 1314هـ) (اسناده حسن، آثار السنن ص 126)

ترجمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ“ کہتے تھے اور اپنے سجدے میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى“ کہتے تھے۔

(4) پھر رکوع سے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔

حدیث نمبر 9: - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ..... فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ

فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَظْمِنَنَّ رَاكِعًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَظْمِنَنَّ سَاجِدًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَظْمِنَنَّ جَالِسًا. وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. (بخاری رقم 454)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرو۔ اس کے بعد (جب قراءت کا موقع آجائے تو) جو قرآن تمہیں یاد ہو اور تمہیں پڑھنا آسان ہو وہ پڑھو۔ پھر قراءت کے بعد رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ پھر رکوع سے اٹھو، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ مطمئن اور ساکن ہو جاؤ، پھر اٹھو یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ اور اپنی پوری نماز میں یہی کرو“ (یعنی ہر رکعت میں قراءت، رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اور تمام اعمال اچھی طرح اطمینان و سکون سے اور ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو)۔

حدیث نمبر 10:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ،

عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ

مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:.... وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ. حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. (صحیح مسلم رقم: 240-498)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”رسول اللہ ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے

تو خوب سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے سجدہ نہیں کرتے تھے۔“

5.2:- مدرک رکوع

(5) امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اگر آپ رکوع میں مل جائیں تو آپ

رکعت کو پا جائیں گے۔

5.2.1:- حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 11:- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَتَّامٌ، عَنِ الْأَعْلَمِ

وَهُوَ زِيَادٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ". (بخارى رقم 783)

□ حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ".

تحقيق

إسناده صحيح. أشعث- وهو ابن عبد الملك الحرّاني- ثقة روى له البخاري تعليقا. وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد الأعلمي- وهو ابن حسان بن قرة الباهلي- فمن رجال البخاري- والحسن البصري قد صرح بالتحديث عند أبي داود والنسائي والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (318) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد

وأخرجه البزار في "مسنده" (3651) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن أشعث بن عبد الملك، به.

وأخرجه أبو داود (683)، والنسائي في "المجتبى" 118/2، وفي "الكبرى" (943)، والطحاوي في "شرح المعاني" 395/1، وابن حبان (2195)، والبيهقي 106/3 من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن زياد الأعلمي، به. وهو عند الطحاوي بصورة المرسل. وجاء تصريح الحسن بسماعه من أبي بكره عند النسائي. وعند أبي داود برواية ابن داسة والرملي كما نقل الشيخ الفاضل محمد عوامة في طبعته. ورواه البيهقي من طريق ابن داسة. وعنده أيضاً التصريح بالسماح.

وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة" 215/1، وفي "زياداته على "الموطأ" بروايته (286)، والطيالسي (876)، والبزار (3661)، وابن حبان (2194)، والطبراني في "الصغير" (1030) من طرق عن الحسن البصري، به.

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (195) من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسى الخزاز، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، به. وفيه زيادة في آخره "صَلَّى مَا أَدْرَكَتْ، وَاقْبِضْ مَا سَبَقَكَ"، وعبد الله بن عيسى ضعيف، فلا تثبت هذه الزيادة

من حديث أبي بكرة. وقد أورد الهيئى هذه الرواية في "المجمع" 2/76. وعزاها للطبرانى.

وسياتى من طريق الحسن البصرى بالأرقام (20457) و(20458) و(20470) و(20471). ومن طريق عبد العزيز بن أبي بكرة برقم (20435). ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (20509).

وأخرجه عبد الرزاق (3378) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصرى قال: سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً وهو يسرع إلى الصلاة ... فذكره هكذا مرسلًا. ولم يسمِّ فيه أبا بكرة.

وأخرج ياثرة برقم (3379) عن ابن جريج عن الحسن. قال: التفت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد". قال: فثبت مكانه. وهذا إسناد ضعيف. ابن جريج لا يعرف بالرواية عن الحسن. وكان يدلس ويرسل. وهذا اللفظ منكر. فيه ذكر التفت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله في آخره: فثبت مكانه. وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف". أخرجه الطحاوى في "شرح المعاني" 1/396. وفي "شرح المشكل" (5577) مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/257 موقوفاً. وهو أصح. وانظر شرح الحديث في "شرح السنة" 3/378-380. وفي "فتح البارى" 2/268-269.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 33 ص 33 رقم 20405. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى رحمه الله (الوفى 231هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد. وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى 1421هـ)

ترجمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب وہ نبی اکرم ﷺ کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ رکوع کی حالت میں تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ جب نبی اکرم ﷺ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ تمہارے اس شوق کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا

(کہ صف میں شامل ہونے سے پہلے نماز شروع کر دو)۔“

تشریح

یہ الفاظ تو بخاری کی روایت کے ہیں۔ دوسری کتابوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز میں شرکت کی جو تفصیلات ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکوع میں شرکت کے لیے تیز چلنا شروع کیا، تو ان کا سانس پھول گیا۔ اور وہ صف سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے۔ اور اسی حالت میں چل کر صف سے جا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”سانس کس کا پھول رہا تھا؟“ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”خَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي الرَّكْعَةُ مَعَكَ“۔

ترجمہ

مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری رکعت فوت نہ ہو جائے۔ یعنی اس وجہ سے میں نے تیز گامی اختیار کی اور سانس پھول گیا۔

☆

اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی تھی اور رکوع میں شریک ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ کی تحسین تو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص عبادت میں اور اضافہ فرمائے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صرف یہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا کہ تیز چل کر آؤ، یا آئندہ ایسا نہ کرنا کہ صف سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر جو عنوان دیا ہے، اس میں نماز کے صحیح نہ ہونے کی کوئی صراحت نہیں کی۔ باب ہے: اذا ركع دون الصف کہ نمازی صف سے پہلے ہی رکوع میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ اس سے معلوم ہوا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں یہی ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔

5.2.1.1: شراح حدیث کے حوالے

(۱) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری شرح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

عن الحسن عند الطبرانی، فقال: ”أیکم صاحب هذا النفس؟“ قال: ”خَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي الرَّكْعَةُ مَعَكَ“۔

(فتح الباری، اذا رکع دون الصف ج ۲ ص ۳۳۷)

ترجمہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”کس نے ایسا کیا ہے؟“۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”میں نے ایسا کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری یہ رکعت فوت نہ ہو جائے۔“

(۲) امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَمِنْ فَوَائِدِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ عَلَى حَالٍ يَجِبُ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرَّكُوعِ، كَانَ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ أَوْ بَعْدَهَا اِرْتَفَعَ عَنِ الرَّكُوعِ، لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِيَتْلِكَ الرَّكْعَةَ، فَيَتَّبِعُهَا بَعْدَهَا سَلَّمَ الْإِمَامُ.

(شرح السنة، ج ۳ ص ۳۸۰ تحت رقم 824. المؤلف: محیی السنۃ، أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۵۱ھ). تحقیق: شعیب الأرنؤوط. محمد زہیر الشاویش. الناشر: المكتب الإسلامی، دمشق، بیروت. الطبعة: الثانية، ۲۰۰۳ھ)

ترجمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا جس نے امام کو رکوع میں پالیا، اس کو وہ رکعت مل جائے گی۔ جو رکوع کے بعد یا سجدے میں پائے اس کو وہ رکعت نہ ملے گی۔ امام کے بعد وہ رکعت پڑھنی ہوگی۔

(۳) علامہ بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ (عمدة القاری ج ۶ ص ۷۹، ۸۰ طبع مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ) نے متعدد احادیث ذکر کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے علاوہ بھی اسی طرح جماعت میں شرکت کی ہے۔ اور اس رکعت و رکوع کو بغیر فاتحہ کے معتبر سمجھا ہے، بلکہ ایک واقعہ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دونوں نے اسی طرح جماعت میں شرکت کی تو ایک یہ سمجھ کر کہ رکوع سے رکعت نہیں ملی، کھڑا ہونے لگا کہ اس رکعت کو پڑھے، دوسرے ساتھی نے اس کو بٹھلادیا اور کہا: تم نے رکعت پالی تھی۔ (انوار الباری ج ۱۶ ص ۴۳۸)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شوق کو

سراہتے ہوئے انہیں دعاوی اور آئندہ صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نماز شروع کرنے سے روکا۔

حدیث نمبر 12:- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا زِيَادُ الْأَعْلَمُ، عَنِ

الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هَذَا الَّذِي رَكَعَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟" فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: "أَنَا." فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ."

تحقیق

إسناده صحيح على شرط الصحيح. وسماع الحسن البصرى للحديث سلف الكلام عليه عند الحديث (20405). عفان: هو ابن مسلم الباهلي، وزياد الأعلم: هو ابن حسان الباهلي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 395/1، وفي "شرح مشكل الآثار" (5576) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي أيضاً في "شرح المعاني" 395/1، وفي "شرح المشكل" (5575) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضري، والبيهقي 106/3 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أبو داود (684)، ومن طريقه البيهقي 105/3-106، والبخاري (823) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن زياد عن الحسن، أن أبا بكره جاء ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ ... فذكرة هكذا بصورة المرسل. وانظر (20405).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3 ص 33، رقم 20457. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ).

(ابوداؤد رقم 283؛ نسائي رقم 841؛ سلسلة احاديث الصحيحه رقم 230؛ مختصر سلسله صحیحہ رقم 620)

ترجمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ پھر صف کی طرف چل پڑے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کس شخص نے صف سے پہلے رکوع کیا، پھر صف کی طرف بڑھا؟“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”میں نے“۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے اس شوق کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا (کہ صف میں شامل ہونے سے پہلے نماز شروع کر دو)۔“

حدیث نمبر 13:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

مِرْدَاسٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى أَبُو خَلْفٍ الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَسَمِعَ نَفْسًا شَدِيدًا أَوْ بِهِرًا مِنْ خَلْفِهِ، فَلَبَّأَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: ”أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا النَّفْسِ؟“ قَالَ: ”نَعَمْ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ خَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي رَكْعَةٌ مَعَكَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ“ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”زَادَكَ اللَّهُ جِرْصًا وَلَا تَعُدْ. صَلَّى مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَ“.

(جزء القراءة خلف الإمام، ص ۳۸ رقم 125. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله رحمته (المتوفى: 256 هـ). حققه وعلق عليه: الأستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف الفوجياني. الناشر: المكتبة السلفية. الطبعة: الأولى، 1400 هـ - 1980 م)

ترجمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کسی آدمی کے تیز سانس یا ہانپنے کی آواز سنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”تیز تیز سانس لینے والے تم ہو؟“! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”جی ہاں! اللہ مجھے آپ

صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرے! مجھے یہ ڈرتھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری رکعت فوت ہو جائے گی۔ اس لیے میں تیز تیز چل کر آیا ہوں۔“ (اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس بات میں اختلاف نہ تھا کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے)۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تجھے نیکی کرنے پر اور حریص کرے۔ پھر ایسا نہ کرنا۔ نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو پہلے گزر چکا ہو اس کو قضا کر لو۔“

استدلال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے رکوع میں شریک ہو گئے تاکہ یہ رکعت فوت نہ ہو جائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر مہر تصدیق مثبت فرمادی کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی وہ رکعت شمار ہوتی ہے۔

5.2.1.2۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال

مشہور محدث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی یہی عمل نقل کیا ہے۔ اور ان روایات کا عنوان قائم کرتے ہوئے یوں استدلال کیا ہے:

بَابُ مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِحْدَاكِ الرَّكْعَةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَبَأَ تَكَلَّفُوهُ.

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۱۲۹. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمه الله (التمني ۵۸ھ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۲ھ)

ترجمہ یہ باب ان لوگوں کے بیان میں ہے جنہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور یہ عمل دلیل ہے کہ اس سے ان کا مقصد اس رکعت کو حاصل کرنا تھا ورنہ انہیں اس جدوجہد کی کیا ضرورت تھی؟

5.2.1.3: علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح

”زادك الله حرصاً، ولا تعد.“

تحقیق

رواه أبو داود والطحاوي وأحمد والبيهقي وابن حزم من حديث أبي بكره أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راعح. فرقع دون الصف. ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. قال: ”أيكم الذي رقع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟“ فقال أبو بكره: ”أنا“. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرة.

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأصله في ”صحيح البخاري“ وقد خرجته في ”إرواء الغليل“ (رقم 685,684).

اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط... فالظاهر أنه لا يدخل في النهي، لأنه لو كان نهياً عنه لأمره بإعادة الصلاة لكونها خداجاً ناقصة الركعة، فإذا لم يأمره بذلك دل على صحتها، وعلى عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها، وقول الصنعاني في ”سبل السلام“ (2/23): ”لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلاً للحكم، والجهل عند“.

فبعيد جداً، إذ قد ثبت في ”الصحيحين“ من حديث أبي هريرة أمره صلى الله عليه وسلم للمساء صلاته بإعادتها ثلاث مرات مع أنه كان جاهلاً أيضاً فكيف يأمره بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته وإنما الاطمئنان فيها، ولا يأمر أبا بكره بإعادة الصلاة وقد فوت على نفسه ركعة، لو كانت لا تدرك بالركوع، ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهيًا وقد فعله كبار الصحابة، كما تقدم في الحديث الذي قبله؛ ! فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ”لا تعد“.

(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج 1 ص 54 رقم 230)

المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نهاتي بن آدم، الأشقودري الألباني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 1420هـ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض. الطبعة: الأولى، (المكتبة المعارف) 1415هـ)

5.2.2: حديث حضرت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه

حديث نمبر 14:- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِالْوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنبَأَ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامَ رَاكِعٌ فَارْكَعُوا، وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْتَدُوا بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرَّكُوعُ". (سنن كبرى بيهقي رقم 2576)

(سلسلة الاحاديث الصحيحة رقم 1188؛ مختصر سلسلة الاحاديث الصحيحة رقم 533)

□ حدثنا محمد بن رافع، قال: ثنا حسين بن علي، عن زائدة، قال: ثنا عبد العزيز بن ربيع، عن ابن مغفل المزني، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَجَدْتُمْ الْإِمَامَ سَاجِدًا؛ فَاسْجُدُوا، أَوْ رَاكِعًا؛ فَارْكَعُوا، أَوْ قَائِمًا؛ فَقُومُوا، وَلَا تَعْتَدُوا بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرُّكْعَةَ".

(مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)، ص ٣٨١ رقم 774.
المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني رحمه الله (المتوفى: 280 هـ).
المحقق: محمد بن عبد الله التريخ. الناشر: مؤسسة الريان - بيروت الطبعة:
الأولى، 1434 هـ - 2013 م)

سند:

- 1 محمد بن رافع القشيري، النيسابوري، ثقة عابد، من الحادية عشرة، مات سنة خميس وأربعين، خ م د ت س، ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، 5876.
- 2 الحسين بن علي الجعفي، الكوفي المقرئ، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث - أو أربع - ومائتين، وله أربع - أو خمس - وثمانون سنة، ع، ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، 1335.
- 3 زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت، صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل: بعدها ع، ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب.

1982.

4 عبد العزيز بن رُفيع الأسدي، أبو عبد الله المكي، نزيل الكوفة. ثقة. من الرابعة. مات سنة ثلاثين ويقال: بعدها. وقد جاوز التسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، 4095.

5- عبد الله بن مُغفل بن عبد نَهْم، أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة. مات سنة سبع وخمسين وقيل: بعد ذلك ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، 3638.

تخریج رواة الكوسج في مسائله بسنده ومتمنه كما نقله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، مرجع سابق، ح 1188، عن مصورة للكتاب. ولم أقف عليه في المطبوع من مسائل الكوسج، ورواه عبدالرزاق المصنف، مرجع سابق، ح 3373، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة أو سجدة، 2/281، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2601، كتاب الصلاة، من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد، 1/227، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2409، كتاب الصلاة، 2/89، باب إدراك الإمام في الركوع، وصححه ابن حجر العسقلاني المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، إشراف: سعد الشثري، ط 1، 4 (دارالعاصمة، 1419 هـ)، ح 479، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والماموم، 84، والألباني في السلسلة الصحيحة.

(مسائل حرب الكرمانى من أول كتاب الصلاة إلى باب الإمام يُحْدِثُ فيقْتَمُ من سبقه بركعة دراسة وتحقيق، ص 33 رقم 73، المؤلف: أبو مُحَمَّدٍ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ (المتوفى: 280 هـ)، المحقق: أحمد بن علي الغامدي، الناشر: رسالة ماجستير للباحث أحمد بن علي الغامدي، قسم الفقه وأصوله بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بإشراف د. فيصل بن سعيد بالعمش، عام النشر: 1433 هـ - 2012 م)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم امام کو سجدہ کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ سجدہ کرو، اگر رکوع کی حالت

میں پاؤ تو اس کے ساتھ رکوع کرو اور اگر قیام کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ قیام شروع کر دو، لیکن جب تک رکوع نہ ملے اس وقت تک رکعت کا کوئی اعتبار نہ کرو۔

5.2.3: حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 15: - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجَلَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فَلَا يَزْكِعْ دُونَ الصَّفِّ، حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ".

(شرح معانی الآثار، ج 1 ص 396 رقم 2309، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمته (المتوفى 322هـ). حققه وقدم له: محمد زهرى النجار، محمد سيد جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى 1314هـ)

(شرح مشكل الآثار، ج 13 ص 205 رقم 5577، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمته (المتوفى 321هـ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى 1315هـ)

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فَلَا يَزْكِعْ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ".

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج 2 ص 269 رقم 783، المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی رحمته (المتوفى 852هـ). - الناشر: دار المعرفة، بیروت، 1319هـ. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقى. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی تم

میں سے نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو صف میں پہنچنے سے پہلے دو رہی رکوع میں نہ چلا جائے یہاں تک کہ صف میں اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔“

حدیث نمبر 16:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوَهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ."

(ابوداؤد رقم 893، حسن، بتحقيق علامه البانی، طبع مکتبۃ المعارف، ریاض؛ حسن۔ صحیح ابوداؤد رقم 492۔

893؛ صحیح: إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل ج 2 ص 260 رقم 496)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمِصْرِيِّينَ.

التعليق - من تلخيص الذهبي 1 - صحيح (مستدرک حاکم ج 1 ص 336 رقم 783)

(صحیح ابن خزیمہ ج 2 ص 203 رقم 1222 طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت 2009ء)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم نماز کے لیے آؤ، اور ہم سجدہ میں جا چکے ہوں تو تم بھی سجدہ میں چلے جاؤ اور اس رکعت کو شمار نہ کرو۔ البتہ جس نے رکوع پالیا، اس نے نماز کی (وہ رکعت) پالی۔“

حدیث نمبر 17:- مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

التَّخْرِيجُ 1 أخرجه أبو مصعب الزهري 16 في وقوت الصلاة والحديثان 10 في المواقيت

والشيباني 131 في الصلاة والبخاري 580 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد

الله بن يوسف، ومسلم، المساجد: 161 عن طريق يحيى بن يحيى، والنسائي 553 في

المواقيت عن طريق قتيبة، وأبو داود 1121 في الجمعة عن طريق القعنبي، وابن

حبان 1483 في م 4 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، والقاسبي.

23. كلهم عن مالك به.

(الموطأ، ج 2 ص 13 رقم 8/20 المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبغي

المدنی رحمہ اللہ (التوفی ۱۹۷۹ھ) المحقق: محمد مصطفى الأعظمی. الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نہیان للأعمال الخيرية والإنسانية. أبوظبي، الإمارات. الطبعة: الأولى، ۱۳۲۵ھ

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو نماز کا رکوع مل گیا اس کو وہ رکعت مل گئی۔“

حدیث نمبر 18:- أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ».

تحقیق

(اسنادہ ضعیف. لسوء حفظ قرۃ. لکن الحدیث له طریق أخرى وشواهد. كما حققته في "صحيح أبي داود" (832)، و"الإرواء" (496) - ناصر). أشار المحافظ في تلخيص الحبير 2: 41 إلى رواية ابن خزيمة.

(صحيح ابن خزيمة، ج ۲ ص ۶۸، رقم 1595. المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (التوفی ۳۱۱ھ). حققه وعلی علیہ وخرج أحاديثه وقدم له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمی. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة: الثالثة، ۱۳۲۳ھ)

(صحیح ابن خزیمہ ج ۲ ص ۱۹۵ رقم ۱۵۹۵؛ ج ۲ ص ۲۰۳ رقم ۱۶۲۲ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت ۲۰۰۹ھ؛ صحیح ابن حبان ج ۳ ص ۳۵۲؛ قال العثماني: قال الشوكاني: "وهو انهض ما احتج به الجمهور في هذه المسئلة" فتح الملهم ج ۳ ص ۳۵۹؛ قال القاري: قال ابن حجر وروی ابن حبان، وصححه. بذل المجهود في حل ابی داود ج ۵ ص ۱۱۳)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع کو پالیا، اس نے وہ رکعت پالی۔“

تشریح ان روایات میں مدرک رکوع کو صراحت کے ساتھ رکعت کا مدرک (حاصل کر لینے والا) قرار دیا گیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور زیادہ

صریح ہے۔ ابن خزیمہ (باب 102) نے اس پر عنوان قائم کیا ہے:

بَابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُدْرِكًا لِلرُّكْعَةِ إِذَا رَكَعَ إِمَامُهُ قَبْلُ.

اگر امام رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کو کس وقت تک مد رک رکوع مانا جائے گا۔

یہ روایات، مقتدی کے رکوع میں پالینے کی صورت میں نماز کے پورا ہونے کو بتاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مقتدی سورت فاتحہ کی قراءت نہیں کر سکتا۔

5.2.4: حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 19: - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقَعُ قَدَمِهِ."

تحقیق
إسناده ضعيف لإبهام الراوى عن عبد الله بن أبي أوفى وسُمى عند البيهقي- وقد ساقه بإسناد آخر- طرفة الحضرمي، ولا يصح. لأن في طريقه ضعيفين- كما سيأتي في التخریج- ثم إن طرفة مجهول، لم يرو عنه سوى محمد بن جحادة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد جاء اسمه عند المزي في "تحفة الأشراف" 291/4 كثير الحضرمي، وردة عليه الحافظ في "النكت الظراف" بقوله: يترجح ما عند البيهقي. قلنا: ولا وجه لجزم الضياء المقدسي فيما نقله عنه الحافظ في "النكت- و"التهديب" من أنه طرفة الحضرمي، لأن الطريق إليه لم يصح كما ذكرنا. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، همام: هو ابن يحيى العوذى.

وأخرجه ابن أبي شيبة 337/1، وأبو داود (802)، والبيهقي في "السنن" 66/2 من طريق عفان بن مسلم الصَّفَارِ، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي مطولاً 66/2 من طريق يحيى الحماني عن أبي إسحاق الحميسي. عن محمد بن جحادة، قال: عن طرفة الحضرمي عن عبد الله بن أبي أوفى به. ويحيى الحماني وأبو إسحاق الحميسي ضعيفان.

وقد ثبتت إطلالته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ حَدِيثِ

أبي سعيد الخدري السالف برقم (11307)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ومن حديث أبي قتادة سيرد 295/5.

قال السندی: قوله: كان يقوم في الركعة الأولى، أي: يطول فيها القيام مراعاة للقوم حتى يدركها من حبسه الوضوء ونحوه، فيقوم ما دام يرى أن أحداً جاء، وإذا تبين أن كل من أراد المجيء قد جاء يركع، فينبغي للإمام أن يراعى القوم، فيطول حتى يدركوا الركعة الأولى، وهذا إذا لم يكن ثمة مانع آخر من التطويل، وإلا فلا يطول، والله تعالى أعلم.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 31 ص 383 رقم 19146. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

(ابوداؤد رقم 802؛ قال العلامة الكشميري رحمته و العلامة عثمانى رحمته: والرجل المبهم فيه هو طرفه الحضرمي، ذكره ابن حبان في الثقات، كما في اللسان. فصل الخطاب ص 126 طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچی؛ فتح الملہم ج 3 ص 358 طبع كراچی)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں اتنی دیر قیام کرتے تھے یہاں تک کہ قدموں کی آواز کونہ سنتے تھے۔“

استدلال یعنی جب تک کسی نمازی کے قدموں کی آواز سنتے، قراءت فرماتے تاکہ وہ رکوع میں مل سکے اور رکعت کو پالے۔ اور جب قدموں کی آواز آنی بند ہو جاتی تو رکوع کرتے۔ اگر رکوع کے ملنے سے رکعت نہیں ہوتی تو اس انتظار کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔

5.2.5: حدیث حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 20: حَدَّثَنَا أَبُو النَّظْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْْنِي شَيْبَانَ، وَلَيْثٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ، وَيَجْعَلُ

الرُّكْعَةُ الْأُولَى هِيَ أَطْوَلُهُنَّ لِكَيْ يَثُوبَ النَّاسُ. الحديث
(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳۷ ص ۵۳۳ رقم 22911. المؤلف: أبو عبد الله
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ھ). المحقق:
شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن
التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چاروں رکعات کو قراءت اور قیام میں برابر کرتے تھے۔ پہلی رکعت کو سب سے لمبی کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو حاصل کر سکیں۔“

5.2.6:۔ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

شروع اسلام میں کسی شخص کی کوئی رکعت رہ جاتی وہ پہلے اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوا کرتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر کھڑے ہو کر گزری ہوئی رکعات ادا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تائید کی اور فرمایا:

”إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةَ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا“

ترجمہ تحقیق معاذ رضی اللہ عنہ نے تمہارے لئے ایک طریقہ شروع کیا پس تم ایسے ہی کیا کرو۔

حدیث نمبر 21:۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَضْحَابُنَا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سَبَقَ مِنْ صَلَاتِهِ وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا، قَدْ سَنَّ

لَكُمْ سُنَّةٌ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا الْحَدِيثَ.

تحقیق حدیث صحیح رجالہ ثقات۔

وقوله: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا. قال الزيلعي في "نصب الراية" ①/②٦٤: أراد به الصحابة
 صرح بذلك ابن أبي شيبة في "مصنفه" ①/②١٠٣ فقال: حَدَّثَنَا وَكَيْع. حَدَّثَنَا
 الْأَعْمَشُ. عن عمرو بن مرة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" فيما نقله عنه الزيلعي:
 وهذا رجاله رجال "الصحيحين" وهو متصل على منذهب الجماعة في عدالة
 الصحابة وأن جهالة أسمائهم لا تضر. وقال ابن حزم في "المحلى" ③/①٥٨: وهذا
 إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين.

وأخرجه مختصراً الترمذی (⑤٥٤) من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن
 هبيرة بن يريم عن عليّ. وعن عمرو بن مرة. عن ابن أبي ليلى. عن معاذ قال: قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال
 فليصنع كما يصنع الإمام". وقال الترمذی: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً
 أسنده إلا ما روى من هذا الوجه. قلنا: وحجاج مدلس، وابن أبي ليلى لم يسمع من
 معاذ.

(سنن أبي داود ج ١ ص ٤٨٤٣ ٤٨٠٣ رقم ٥٠٦. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث
 بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (المتوفى: ٢٤٥ هـ).
 المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلی. الناشر: دار الرسالة العالمية.
 الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ)

ترجمہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: "ہمارے اصحاب ہم سے بیان
 کرتے تھے: ایک شخص جب نماز پڑھنے آتا تھا تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیتا
 تھا۔ ساتھی اس کو بتا دیتے تھے جو حصہ نماز میں سے گزر گیا ہوتا تھا۔ (تو وہ شخص نماز
 کے گزرے ہوئے حصہ کو ادا کر کے شامل ہو جاتا تھا)۔ حضرات صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ آپ
 ﷺ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، کچھ قیام کی حالت میں تھے، کچھ رکوع کی

حالت میں، کچھ قعدے کی حالت میں، اور کچھ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے: ”میں تو جس حالت میں نبی ﷺ کو دیکھوں گا، اسی کو اختیار کروں گا۔“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تحقیق معاذ رضی اللہ عنہ نے تمہارے لئے ایک طریقہ شروع کیا ہے۔ اب تم ایسے کیا کرو۔“

قابل توجہ اس روایت کے یہ الفاظ قابل غور ہیں ”اور وہ لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ کھڑے ہوئے، کچھ قیام کی حالت میں، کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ قعدے کی حالت میں اور کچھ رسول ﷺ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔“ دیکھئے! اس روایت میں مقتدیوں کے قیام رکوع اور قعدے کا ذکر موجود ہے مگر قراءت خلف الامام کا ذکر نہیں ہے۔

5.2.7: حدیث شیخ من الانصار رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 22: - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَيْخٍ لِلْأَنْصَارِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَبَّحَ خَفَقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «عَلَى أَبِي حَالٍ وَجَدْتَنَا»... قَالَ: «سُجُودًا، فَسَجَدْتُ»... قَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، وَلَا تَعْتَدُوا بِالسُّجُودِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ قَاعِدًا فَاقْعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا».

(المصنف، ج ۲ ص ۲۸۱ رقم 3373. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (المتوفى: 111 هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403)

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. (مصنف ابن أبي شيبة) ج ۱ ص ۲۲۷ رقم 2601، 2602. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (المتوفى ۲۳۵ هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر:

مکتبۃ الرشید، الرياض، الطبعة: الأولى، ۱۴۰۹ھ)

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۱۲۸ رقم 2576. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

الخضري وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى ۴۵۸ھ). المحقق: محمد عبد

القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۴ھ)

قال ابن حجر: صحيح

(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ۳ ص ۸۴ رقم 479. المؤلف: أبو

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمته (المتوفى:

۸۵۲ھ). المحقق: (17) رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود.

تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري. الناشر: دار العاصمة، دار الغيث

- السعودية. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۹ھ)

(فصل الخطاب ص ۱۲۵، ۱۲۶ طبع ادارة القرآن كراچی؛ صححه ابن حجر، فتح الملهم ج ۳

ص ۳۵۸)

ترجمہ

انصاری رضی اللہ عنہم میں سے ایک شیخ النبی نے فرمایا: ”ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ تو جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوتوں کی آہٹ سنی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام

پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: ”تو نے ہمیں کس حالت میں

پایا؟“۔ اس نے عرض کیا: ”سجدے کی حالت میں۔ پھر میں نے بھی (آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ) سجدہ کیا“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا ہی کیا کرو۔ جب تک

رکوع میں شامل نہ ہو جاؤ، تو سجدہ میں شریک ہونے سے اس کی یہ رکعت شمار نہ کرو۔

پس جب تم امام کو قیام کی حالت میں دیکھو تو قیام میں شامل ہو جاؤ۔ امام رکوع میں ہو تو

رکوع کرو، سجدہ میں ہو تو سجدہ کرو، اور التحیات میں بیٹھا ہو، تو بیٹھ جاؤ“۔

حافظ ابن حجر رحمته فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے۔

اس حدیث کو نقل فرمانے کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمته فرماتے ہیں: یہ

حدیث کئی حضرات محدثین کرام رحمته نے روایت کی ہے لیکن میں نے المطالب

العالیہ سے نقل کی ہے کہ حضرت حافظ ابن حجر رحمته نے اس کی تصحیح کی ہے۔ امام بیہقی

رحمته نے جو اسے مرسل کہہ دیا ہے تو ان کی مراد یہ ہے کہ اس میں صحابی رحمته کا نام نہیں

لیا گیا: عن شیخ من الانصار کہہ دیا ہے۔ لیکن اس سے کچھ نقص نہیں ہوتا۔
 محدثین کرام رضی اللہ عنہم کا مسلم اصول ہے: الصحابة کلہم عدول: حضرات صحابہ
 کرام رضی اللہ عنہم سب عادل ہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ کی جہالت مضر نہیں ہے۔

(فضل الخطاب فی مسئلة أم الكتاب ص ۱۲۶ - المؤلف: محمد أنور شاہ بن معظم
 شاہ کشمیری الہندی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: 1353ھ) الناشر: المجلس العلمی،

کراچی - پاکستان. الطبعة: الثالثة - 1424ھ - 2004م)

بہر حال یہ صحیح و مرفوع حدیث اپنے مفہوم سے بتاتی ہے کہ رکوع کو پالینے سے رکعت
 مل جاتی ہے، اگرچہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ اسی کو جانتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
 رکوع میں ملنے کی کوشش کی تا کہ رکعت مل جائے۔ اور جواب میں فرمایا:

”خَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي الرَّكْعَةُ مَعَكَ“

ترجمہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میری رکعت فوت نہ ہو جائے۔

5.2.8: حدیث حضرت ابوقناد رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 23: - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا
 الظُّهْرَ فَرُبَّمَا أَسْمَعْنَا الْآيَةَ، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ،
 وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ
 النَّاسَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى“

(المصنف، ج ۳ ص ۱۳۷ رقم ۵۰۶۷. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع
 الحميري اليماني الصنعاني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: 211ھ) المحقق: حبيب الرحمن
 الأعظمی رحمۃ اللہ علیہ. الناشر: المجلس العلمی - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامی -
 بیروت. الطبعة: الثانية، 1403)

(سنن ابی داؤد رقم 800؛ حدیث السراج رقم 108؛ سنن کبریٰ بیہقی رقم 2486)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

□

أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُطِيلُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ. وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَدَارَكَ النَّاسَ. النَّاسُ صَلَاةً فِي تَمَامٍ.

تحقیق

حدیث صحیح۔ ابو خالد الاحمر - واسمہ سلیمان بن حیان - وهو وان روى له البخارى متابعة، واحتج به مسلم، يغلط ويخطئ، لكنه لم ينفرد به، وبأقرب رجاله ثقات من رجال الشيخين۔ أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وهو في "صحیح ابن خزيمة" (1580)، وفيه "ليتأدى" بدل "ليتدارك"۔

وأخرجه عبد الرزاق (2675)، ومن طريقه أبو داود (800) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والبيهقي في (السنن) 66/2، عن معمر، بهذا الإسناد

(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج 5 ص 123 رقم 1855، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي رحمته (المتوفى: 354 هـ). ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ). حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م)

(صحیح ابن خزيمة، ج 3 ص 36 رقم 1580، المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري رحمته (المتوفى: 311 هـ). المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت)

ترجمہ

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو کبھی کبھی ہمیں (تعلیم کی غرض سے) کوئی آیت بھی سنا دیتے تھے۔ آپ ﷺ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو لمبا کر دیتے تھے، اور ظہر کی پہلی رکعت کو بھی لمبا کرتے تھے (اور دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے تھے)۔ اسی طرح عصر اور فجر کی نمازوں میں بھی کرتے تھے۔ اس سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایسا آپ ﷺ اس لیے کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلی رکعت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔

تشریح

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا: "ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اس لیے کرتے تھے کہ

لوگ پہلی رکعت کو پالیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رکوع کے مل جانے سے رکعت کا پالینا جانتے تھے۔ اسی لیے طولِ قراءت کی یہ حکمت بیان فرمائی۔ خواہ فاتحہ پڑھی ہو یا نہ، رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو رکعت مل جاتی ہے۔

5.3: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار

حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے والے مقتدی کی وہ رکعت شمار ہوتی ہے۔

1 عن علي و ابن مسعود قالوا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة.
(مجمع الزوائد رقم ۲۴۰۲؛ رواه الطبرانی في الكبير رقم ۹۳۷۰، ۹۳۷۱؛ قال الهيثمي ورجاله موثقون)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم دونوں فرماتے ہیں: ”جس نے (امام کو) رکوع (میں) نہ پایا۔ اس کے سجدہ (میں) پانے کا کوئی اعتبار نہیں۔“

2 عن زيد بن وهب قال: دخلتُ انا و ابن مسعود المسجد و الامام راع فركعنا، ثم مضينا حتى استويينا بالصف، فلما فرغ الامام قمت اقبى، فقال: قد ادركته.

ترجمہ حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے داخل ہوئے، امام رکوع میں جا چکا تھا۔ چنانچہ ہم بھی رکوع میں چلے گئے اور آہستہ چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ جب امام نماز سے فارغ ہوا تو میں اٹھ کر (وہ رکعت) قضا کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم نے وہ رکعت پالی ہے۔“

3 عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: من فاته الركوع فلا يعتد بالسجود.

(مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۲۸۱ رقم ۷۲۳ طبع کراچی)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا رکوع چھوٹ جائے۔ اور وہ سجدہ میں شریک ہو تو اس کی یہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔

4 أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا يفتيان الرجل اذا انتهى الى القوم وهم رُكوع أن يكبر تكبيرةً. وقد أدرك الركعة. قالوا: وان وجدهم سجوداً سجد معهم. ولم يعتد بذلك.

(مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۷۸ رقم ۳۳۵۵ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه، كراچي)

ترجمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص جماعت کو رکوع کی حالت میں پائے وہ تکبیر کہہ کر رکوع کر لے۔ تو اس نے اس رکعت کو پالیا۔ البتہ اگر وہ سجدہ کی حالت میں شریک ہو تو اس کی یہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔

5 حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو: قراءت کے بغیر رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کتاب الوتر کے آخر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ”دعائے قنوت کو رکوع سے پہلے دائمی طور پر پڑھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں تاکہ لوگ رکوع میں شامل ہو کر رکعت پانے والے بن جائیں۔“

(فصل الخطاب ص ۱۲۵؛ فتح الملہم ج ۳ ص ۳۵۸؛ فتح الباری ج ۲ ص ۶۳۲)

6 امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑی محنت اور مشقت سے رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رکوع کو پالینے والا، رکعت کو حاصل کرنے والا ہے۔ ورنہ یہ اکابر اس کی زحمت ہرگز گوارا نہ کرتے۔ (بمعناہ)

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۱۲۹. المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى)

الخُسْرُو جردی الخراسانی، أبو بكر البيهقي رحمته الله (المتوفى ٥٢٥٨هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٤٢٢هـ)

7 عن ابن عمر انه كان يقول: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.
(صحیح۔ موطا امام محمد رقم ١٣٣؛ موطا امام مالک رقم ١٦)

ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: ”جب تجھ سے رکوع فوت ہو گیا، تو پھر سجدہ بھی فوت ہو گیا“ (یعنی وہ رکعت نہ ہوئی)۔

8 أَنَّ ابَاهِرِيرَةَ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ ادْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ ادْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ آيَةِ الْقُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ».

(موطا امام مالک رقم ١٨؛ السنن الكبرى بیہقی رقم ٢٥٨٣)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”جس نے رکوع پالیا۔ اس نے سجدہ بھی پالیا۔ جس سے ام القرآن فوت ہو گئی، اس سے خیر کثیر فوت ہو گئی“۔

9 وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيه، أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ بِنَ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامَ رَأْسَهُ، فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ» (سنن كبرى بیہقی رقم: 2580)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پالیا۔ پھر امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع کر لیا تو اس نے رکعت کو پالیا“۔

10 عن ابن عمر قال: «إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، فَارْكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ ادْرَكَتْ. وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ».

(مصنف عبدالرزاق: ج ٢ ص ٢٤٩ طبع کراچی؛ مصنف عبدالرزاق ج ٢ ص ١٨١ رقم ٣٣٤٠ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت ٢٠١٠ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”جب تم نے امام کو رکوع کی حالت میں پالیا اور اس کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے تم نے رکوع کر لیا تو تم رکعت کو پا گئے اور اگر

تمہارے رکوع میں جانے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو رکعت فوت ہو گئی۔“

11 عن ابن عمر قال: اذا جئت والا امام راكع، فوضعت يديك قبل ان يرفع راسه فقد ادركت۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۳۳ رقم ۲۵۳۲ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تو امام کے رکوع کی حالت میں آیا اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے تو نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو تو نے رکعت کو پالیا۔

12 عن عطاء، انه سمع ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر يقول: "اذا دخل احدكم المسجد والناس ركوع، فليركع حين يدخل۔ الحديث۔

(طبرانی فی الاوسط رقم ۷۲۱۵؛ حاکم رقم ۸۰۸؛ بیہقی ج ۳ ص ۱۰۶ طبع ملتان؛ سلسلہ الاحادیث الصحیحة رقم ۲۳۹؛ مختصر سلسلہ الاحادیث الصحیحة رقم ۵۰۷؛ مجمع الزوائد رقم ۲۵۳۹؛ طبرانی فی الاوسط؛ قال الہیثمی: رجالہ رجال الصحیح)

ترجمہ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا: ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو۔ اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو داخل ہوتے ہی (نماز شروع کر کے) رکوع کرے۔“

(ان احادیث سے استدلال کے لیے دیکھئے فصل الخطاب ص ۱۲۵ تا ۱۲۹)۔

تنبیہ ان عبارات سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اگر امام سجدے میں ہو تو انسان کھڑا ہو کر اگلی رکعت کا انتظار کرے، بلکہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اور سجدے میں امام کے ساتھ جا ملے۔ حافظ ابن قدامہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: امام اگر سجدے میں ہو تو مقتدی کو امام کی دوسری رکعت کا انتظار نہ کرنا چاہیے، بلکہ سجدے میں جا ملے۔ ہو سکتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے اس کی بخشش کر دی جائے (المغنی ج ۱ ص ۵۲۵)۔ اسی لیے امام ابن خزیمہ (ج ۲ ص ۲۰۳ طبع دار الکتب العلمیہ، بیروت) نے ”فلا تعدوها شیئاً“ میں نفی کو نفی کمال کے لیے کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سجدے میں ملنے سے رکعت تو نہ ہوگی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ مقتدی کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے

گا۔ اجر و ثواب تو یقیناً ملے گا لیکن وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔
مندرجہ بالا روایات اس مسئلہ میں بالکل صریح ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی وہ
رکعت شمار ہوتی ہے۔ اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مقتدی پر سورت فاتحہ ضروری نہیں،
ورنہ ایسے شخص کی رکعت کیونکر شمار ہو سکتی ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی؟ مگر افسوس کہ
ان صریح روایات کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی وہ
رکعت شمار نہیں ہوگی۔

حضور اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارشادات
رکوع میں شامل ہونے والے مقتدی کی بابت صراحت سے منقول ہیں جبکہ کسی ایک
حدیث سے بھی اس صراحت کے ساتھ ثابت نہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی اس
رکعت کا اعتبار نہیں۔

فائدہ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: میری کتاب: ایضاح الہرام فی ترک
القراءۃ خلف الامام (ترک قراءت مقتدی) کا باب نمبر 3: باب سوم: ترک
قراءت خلف الامام اور مدرک رکوع۔

5.4: قومہ

(6) رکوع سے کھڑے ہوتے وقت امام "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ" کہے اور مقتدی "رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ" کہیں۔

حدیث نمبر 24:- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ." (بخاری رقم: 796؛ مسلم رقم: 409)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "امام جب 'سَمِعَ
الله لِمَنْ حَمَدَهُ' کہے تو تم لوگ (یعنی مقتدی) 'اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' کہو۔

حدیث نمبر 25: - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: ... قَالَ: إِثْمًا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا... (صحیح بخاری رقم: 805؛ صحیح مسلم رقم: 77-411)

ترجمہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”امام بنایا ہی جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ امام جب تکبیر کہے تو اس کی پیروی میں تم لوگ تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ رکوع کرو، اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ سر اٹھاؤ۔ اور جب وہ ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہے تو تم لوگ ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو پھر تم لوگ سجدہ کرو۔

(7) رکوع و سجدے میں امام سے پہلے کبھی بھی سر نہ اٹھائیں۔

حدیث نمبر 26: - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ: لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جَمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ جَمَارٍ».

(بخاری رقم: 691؛ مسلم رقم: 114-427)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں، جب وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو، یا اس کی صورت کو، گدھے کے سر یا صورت کی طرح بنا دیں گے۔“

(8) اکیلے نماز پڑھنے والے رکوع سے اٹھنے کے وقت ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ اور ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ دونوں کہیں۔

حدیث نمبر 27: - عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

مِلْئِ السَّمَاوَاتِ وَمِلْئِ الْأَرْضِ وَمِلْئِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
(مسلم رقم 202-476)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے پشت مبارک اٹھاتے تو کہتے: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْئِ السَّمَاوَاتِ وَمِلْئِ الْأَرْضِ وَمِلْئِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ"۔

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ اے اللہ! ہمارے رب! تیرے ہی لیے ساری حمد و ستائش ہے، اتنی کہ جس سے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں بھر جائیں اور زمین و آسمان سے آگے جو سلسلہ وجود تیری مشیت میں ہے، اس کی بھی ساری وسعتیں بھر جائیں۔

5.5: رکوع و سجود کے وقت تکبیرات ہیں، رفع یدین نہیں

5.5.1: حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 28: - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ وَضْعٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا."
(ترمذی رقم 253)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ میں اور قیام و قعود میں صرف تکبیر کہتے تھے، اور یہی طریقہ نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔"

حدیث نمبر 29: - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ وَضْعٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ."
(نسائی رقم 1150)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ میں اور قیام و قعود میں صرف تکبیر کہتے تھے، اور یہی طریقہ نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا۔"

حدیث نمبر 30:- عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفِضٍ وَرَفِيعٍ، وَ قِيَامٍ وَقَعُودٍ، وَيَسْلِمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، حَتَّى يَرَى بِيَاضَ خَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.. (نسائی رقم ۱۰۸۴، ۱۳۲۰ واللفظ له)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ میں اور قیام و قعود میں صرف تکبیر کہتے تھے۔ اور دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" کہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آجاتی تھی اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔"

فائدہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز اور جو بعد میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بھی مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے۔ اس میں ہر اونچ نیچ، قیام و قعود میں صرف تکبیر تھی۔ رفع یدین نہیں تھی۔ یہ حدیث بھی مسلسل بالعمل ہے۔

5.5.2:- حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 31:- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ إِذَا رَفَعُوا، وَإِذَا وَضَعُوا".

تحقیق إسنادہ صحیح علی شرط مسلم، رجالہ ثقات رجال الشیخین غیر عبد الرحمن ابن الأصم، فمن رجال مسلم. أبو نعیم: هو الفضل بن دکن. وسفیان: هو الثوری.

وأخرجه البيهقي 68/2 من طريق أبي نعیم الفضل بن دکن، بهذا الإسناد. وانظر (12259).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۲۱، ص ۲۹۲، رقم 13765، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ھ)۔ المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ حضرت عبد الرحمن الأصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تکبیر کو ہر اونچ نیچ میں پورا ادا کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 32:- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ، يُكَبِّرُونَ إِذَا سَجَدُوا، وَإِذَا رَفَعُوا - قَالَ يَحْيَى: - أَوْ خَفَضُوا.

تحقیق
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن الأصم -يقال: اسمه عبد الرحمن بن عبد الله الأصم. ويقال: ابن عمرو الأصم. وهو مؤذن الحجاج- فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطحاوى 221/1 من طريق عبید الله بن عمر القواریری، عن یحیی بن سعید القطان. بهذا الإسناد. ولم يشك في قوله: وإذا رفعوا، وزاد: وإذا قاموا من الركعة.

وأخرجه الطحاوى 221/1، والبيهقى 68/1 من طرق عن سفيان الثوري به. وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن الأصم بالأرقام (12349) و (12848) و (13765) ومطولاً برقم (13636) و (13699).

وسلف دون ذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم برقم (12195).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7220)، وذكرت شواهد هناك.

قوله: ”يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ“ قال السندی: أى: يأتون به عند كل رفع وخفض. قال يحيى: ”أو خفضوا“ أى زاد بعد قوله: رفعوا، قوله: أو خفضوا، ومفعول الفعلين مقدر، أى: رفعوا رؤوسهم أو خفضوها.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ۱۹ ج، ص ۲۸۰، رقم 12259، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى ۲۴۱ھ) المعقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المعسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ حضرت عبد الرحمن الاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تکبیرات کو پورا ادا کرتے تھے۔ جب سجدہ ادا کرتے تھے تو بھی تکبیر کہتے تھے۔ اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تھے۔“ حدیث کے راوی حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہر اونچ نیچ میں بھی تکبیر کہتے تھے۔“

فائدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نمازوں کا طریقہ بیان کرتے ہیں تو صرف تکبیرات کا ذکر کرتے ہیں۔ رفع یدین کا نام تک نہیں لیتے۔

حدیث نمبر 33: - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِهِزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةٍ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ بْنُ الْمُخْطَابِ مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ.

(مسلم رقم 196-473)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے کسی آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مختصر مگر پوری اور مکمل پڑھتا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی متقارب تھی۔ اور (اسی طرح) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز بھی متقارب تھی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو آپ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں قراءت لمبی

فرماتے۔ جب جناب رسول اللہ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ کہتے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ شاید آپ ﷺ کو وہم ہو گیا ہے۔ پھر آپ ﷺ (تکبیر کہتے اور) سجدہ کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے کہ ہم سمجھتے شاید آپ ﷺ کو وہم ہو گیا ہے۔

نوٹ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نمازوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ جس میں مقارب کا لفظ بیان کیا ہے جس کا بیان دوسری حدیث (مسلم رقم 194 - 471) میں ہے کہ آپ ﷺ کا رکوع، قومہ، سجدہ، اور دو سجدوں کے درمیان کا جلسہ تقریباً برابر ہوتے تھے۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رفع یدین کا ذکر بالکل نہیں کیا۔

حدیث نمبر 34:- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْحَمِ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "يُكَبَّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ". فَقَالَ حُطَيْمٌ: "عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا؟" فَقَالَ: "عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ: "وَعُمَانُ؟" قَالَ: "وَعُمَانُ". (نسائی رقم 1179)

ترجمہ حضرت عبد الرحمن الاصحمی فرماتے ہیں: کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نماز میں تکبیر کے بارے میں سوال ہوا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: "تکبیر کہتے جب رکوع کرتے، جب سجدہ کرتے، جب سجدہ سے سر اٹھاتے اور جب دو رکعتوں کے درمیان کھڑے ہوتے تھے"۔ تو حضرت حطیم بن عظیم رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے: "آپ ﷺ نے کس سے (یہ طریقہ) یاد کر رکھا ہے؟"۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: "جناب رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے"۔ پھر آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت حطیم بن عظیم رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے: "اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی؟"۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے: "ہاں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی"۔

حدیث نمبر 35:- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْحَمِ

قَالَ: "سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أَسْمَعُ" فَقَالَ: "يُكَبَّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ". قَالَ: فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ: "عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا؟" قَالَ: "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ" ثُمَّ سَكَتَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ: "وَعُثْمَانَ؟" قَالَ: "وَعُثْمَانَ".

تحقیق

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن الأصبم، فمن رجال مسلم، وسيتكرر برقم (13699). وأخرجه الطيالسي (2076)، والنسائي 2/3، والبيهقي 68/2، والمزى في ترجمة عبد الرحمن ابن الأصبم من "تهذيب الكمال" 537-536/16، والضياء في "المختارة" (2281) و(2282) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد وانظر (12259).

قلنا: وحكيم الذي سأل أنساً هكذا وقع اسمه عند المصنف، وهكذا هو عند الطيالسي والمزى والضياء، ووقع اسمه عند النسائي: حطيم، وضبطه السيوطي في شرحه عليه بضم الحاء وبالطاء المهملتين، ووقع عند البيهقي: خطيم، وقال: هذا هو الصواب بالحاء المعجمة، وقيل: حطيم بالحاء.

وذكره الحافظ الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 922/2 بالحاء المهمله، وقال: هو شيخ كان يجالس أنس بن مالك، هو المذكور في حديث ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن الأصبم، عن أنس، ونقله عنه ابن ماكولا في "الإكمال" 168/3.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 21، ص 230، رقم 13636، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى 241هـ)). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ).

ترجمہ

حضرت عبد الرحمن الأصبم فرماتے ہیں: "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نماز میں تکبیر کے بارے میں سوال ہوا اور میں بھی سن رہا تھا"۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: "تکبیر کہتے جب رکوع کرتے، جب سجدہ کرتے، جب سجدہ سے سر اٹھاتے اور جب

دور کعتوں کے درمیان کھڑے ہوتے تھے۔ تو حضرت حکیم بن عبد اللہ آپ ﷺ سے کہنے لگے: ”آپ ﷺ نے کس سے (یہ طریقہ) یاد کر رکھا ہے؟“ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: ”جناب رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔“ پھر آپ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت حکیم بن عبد اللہ آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے: ”اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی؟“ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے: ”ہاں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی۔“

نوٹ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب نماز میں تکبیر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے رکوع، سجدہ اور دو رکعتوں کے بعد صرف تکبیر کا ذکر کیا ہے رفع یدین کا نام تک نہ لیا اور فرمایا: میں نے یہی نماز جناب رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یاد کی ہے۔

حدیث نمبر 36:- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ لَا يَنْقُصُونَ التَّكْبِيرَ.

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن ابن الأصم. فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 420/1. وأبو يعلى (4280) من طريق وكيع بن الجراح. بهذا الإسناد. وانظر (12259).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 20 ص 220 رقم 12848 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (توفي 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد. وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. 1421هـ)

عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ لَا يَنْقُصُونَ التَّكْبِيرَ، وَفِي لَفْظٍ: يُتَمُّونَ التَّكْبِيرَ إِذَا رَفَعُوا وَإِذَا وَضَعُوا. عب. ش.

(جمع الجوامع المعروف بـ "الجامع الكبير" ج ۱۹ ص ۷۷ رقم 13/85. المؤلف: جلال الدين السيوطي رحمه الله (849-911 هـ). المحقق: مختار إبراهيم الهاجج - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر الناشر: الأزهر الشريف. القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الثانية ۱۳۲۶هـ)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تکبیرات کو ناقص ادا نہیں فرماتے تھے۔ (دوسری روایت میں ہے) پورا پورا ادا کرتے تھے، جب رکوع کرتے تھے۔ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے اور جب سر جھکاتے تھے۔"

فائدہ اس حدیث میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز میں رفع یدین کا مطلقاً ذکر نہیں ہے۔

5.5.3: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اثر

حدیث نمبر 37:- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَعِيمُ الْمُجَبِّرُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِيُّ "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ". قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: "وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، وَيَفْتَحُ الصَّلَاةَ".

(موطا محمد رقم 104؛ کتاب الآثار امام محمد رقم ۷۵؛ کتاب الآثار لابن يوسف رقم ۱۰۸؛ کتاب الحجۃ ج ۱ ص ۹۵، ۹۶ طبع دار المعارف لاہور)

ترجمہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے نعیم بن عبد اللہ المجبر رحمہ اللہ اور ابو جعفر القاری رحمہ اللہ نے بتایا: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھاتے تھے تو ہر اونچ نیچ میں تکبیر کہتے تھے، اور رفع یدین نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے۔"

فائدہ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دو شاگرد ہیں۔ دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز دیکھ کر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر اونچ نیچ میں تکبیر کہتے تھے۔ چونکہ رفع یدین اول تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں ایک راوی حضرت

ابوجعفر القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین تکبیر کی طرح ہر اونچ نیچ میں نہیں ہوتا بلکہ نماز میں افتتاح کے وقت ہی ہوتا تھا۔ یہ روایت بھی ترک رفع یدین میں صریح ہے۔

حدیث نمبر 38: - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكَعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لِأَقْرَبُكُمْ سَبْهَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا». (نسائی رقم 1156)

ترجمہ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور ابوسلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو تکبیر کہی اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» کہا۔ پھر سجدہ کیا، اور تکبیر کہی۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ پھر تکبیر کہی جب دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوئے۔ پھر فرمایا: «قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں تم میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب نماز پڑھ سکتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دنیا سے جدا ہوتے وقت تک یہی تھی جو میں نے پڑھ کر دکھادی ہے»۔

اس میں بھی رکوع کے ساتھ تکبیر کا ذکر ہے رفع یدین کا نہیں اگر رفع یدین کی وہ اہمیت ہوتی جو ان لوگوں کے ہاں ہے تو ایسی کوئی روایت اس سے خالی نہ ہوتی۔

حدیث نمبر 39: - حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أَنَّ فَخْرَهُمَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، قَد رَوَى عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَجْمَرِ وَابِي جَعْفَرِ الْقَارِي، أَنَّهُمَا أَخْبَرَا: أَنَّ أَبَاهُ رِيَّةَ كَانَ يَصِلُ بِهِمْ، فَيَكْبُرُ كَلِمًا خَفِضَ وَرَفَعَ، قَالَا: وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَكْبُرُ وَيَفْتَحُ الصَّلَاةَ قَالَ

محمد: فهذا حديثكم موافق لعلي رضي الله عنه و ابن مسعود رضي الله عنه، ولا حاجة بنا معها الى قول ابي هريرة ونحوه، ولكن احتجنا عليكم بحديثكم.

(كتاب الحجۃ ج ۱ ص ۹۵، ۹۶ طبع دار المعارف النعمانية، لاہور، ۱۳۰۱ھ)

ترجمہ

حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے نعیم بن عبد اللہ المجہر رحمہ اللہ اور ابو جعفر القاری رحمہ اللہ دونوں سے روایت کی ہے۔ دونوں نے امام مالک رحمہ اللہ کو خبر دی: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھاتے تھے تو ہر اونچ نیچ میں تکبیر کہتے تھے، اور رفع یدین نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے۔“ حضرت امام محمد رحمہ اللہ اہل مدینہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ حدیث (ترک یدین میں) حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے موافق ہے۔

5.5.4: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا اثر

حدیث نمبر 40: - مَالِكُ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا. (موطا امام مالک رقم 251 طبع: أبو ظبی - الإمارات؛ موطا امام محمد رقم 101؛ ابن ابی شیبہ رقم 2481)

ترجمہ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز سکھاتے تو صرف تکبیر کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ابو نعیم وہب بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم نماز کے اندر (یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد سلام تک) ہر اونچ نیچ کے وقت تکبیر کہا کریں۔

فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نماز میں صرف تکبیر کہتے اور اسی کا حکم دیتے تھے۔ ان کی آخری نمازوں میں رفع یدین کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔

5.5.5: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر

حدیث نمبر 41:- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنِّي لَا أَلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا» - قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرُكُمْ تَصْنَعُونَهُ - «كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ» (بخاری رقم 821؛ مسلم رقم 195-472)

ترجمہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات میں کمی نہ کروں گا کہ تمہیں ویسی ہی نماز پڑھاؤں جیسی کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے دیکھا ہے۔ ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک بات ایسی کرتے تھے کہ میں نے تم لوگوں کو وہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ وہ جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنا کھڑا رہتے کہ کہنے والا کہتا کہ وہ (سجدہ کرنا) بھول گئے اور دونوں سجدوں کے درمیان میں (اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے) کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ (دوسرا سجدہ) کرنا بھول گئے۔

اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر دکھائی اس میں رفع یدین نہ رکوع والا کیا اور نہ سجدوں والا۔

باب 6

ترکِ رفعِ یدین

مسئلہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے، سجدہ میں جانے اور اٹھنے کے وقت رفع یدین مسنون نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں اٹھنے کے وقت بھی رفع یدین مسنون نہیں ہے۔

حصہ اول احادیثِ مرفوعہ

6.1: حدیثِ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 1: - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؛ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ." (مسلم رقم 119-430)

ترجمہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: ”کیا بات ہے؟ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی دُمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔“

حدیث نمبر 2: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ

الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ. فَقَالَ: "قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أذُنَابُ الْخَيْلِ الشُّمَّسِ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ".

إسناده صحيح على شرط مسلم.

تحقيق

وأخرجه ابن حبان (1879) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد وأخرجه أبو داود الطيالسي (786)، والطبراني (1824) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما (الطيالسيان) عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (430)، وأبو داود (912) و(1000)، والنسائي 4/3، وأبو يعلى (7472)، وأبو عوانة 85/2، وابن حبان (1878)، والطبراني (1822) و(1825) و(1826) و(1827) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (5926)، وفي "شرح المعاني" 458/1 من طريق شريك، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن جابر، ليس فيه تميم بن طرفة.

وأخرجه عبد الرزاق (3252) عن الثوري، عن الأعمش، عن جابر - معضلاً. وأخرجه أيضاً (3253) عن معمر، عن الأعمش، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلأ.

وسياتي برقم (20958) و(20964) و(21027).

وانظر ما سلف برقم (20806).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 32، ص 326، 327، رقم 20875. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421هـ).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 2، ص 539، رقم الحديث 21167. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ).

الناشر: بيت الأفكار الدولية، الأردن. الطبعة: الرابعة (٢٠١٠ء)

(مسند احمد ج ٢ ص ٥٣٩ رقم الحديث ٢١١٦٤ طبع بيت الافكار الدولية، بيروت ٢٠١٠ء)

ترجمہ حضرت جابر بن سمرقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جو رفع یدین کر رہی تھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رفع یدین کرتے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دُمیں ہوتی ہیں (کیونکہ وہ اوپر کواٹھی ہوئی ہوتی ہیں)۔ نماز میں سکون اختیار کرو۔“

حدیث نمبر 3:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسَيْبُ بْنُ

رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ جِلْقٌ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ: «قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمَيْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ».

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير تميم بن طرفة فمن رجال مسلم.

وأخرجه مختصراً بقصة الحلبي أبو داود (4823)، وأبو يعلى (7482)، والطبراني (1831) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً بقصة رفع الأيدي أبو يعلى (7480)، والطبراني (1828) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وانظر (20874) و(20875).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٣٢ ص ٣٨٥ رقم 20958. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ٢٤١هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٢ ص ٥٥٥ رقم الحديث ٢١٢٦٥. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ٢٤١هـ). الناشر:

بيت الأفكار الدولية، الأردن. الطبعة: الرابعة (٢٠١٠ء)

ترجمہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، تو ہم مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا: ”میں تمہیں گروہ درگروہ دیکھ رہا ہوں۔“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو فرمایا: ”کیا بات ہے؟ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی ڈمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔“

حدیث نمبر 4:- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيِّدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ»۔ الْحَدِيثُ

تحقیق

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، رَجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرِ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، فَمِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرِ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (430)، وَابْنُ خَزِيمَةَ (1542) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرِوَايَةِ ابْنِ خَزِيمَةَ مُخْتَصِرَةً بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ.

وَأَخْرَجَهُ مَقْطَعًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ 353/1، وَابْنُ دَاوُدَ (912)، وَأَبُو عَوَانَةَ 39/2-40، وَابْنُ خَزِيمَةَ (1544)، وَالطَّبْرَانِيُّ (1815) وَ (1832) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (2432)، وَمُسْلِمٌ (430)، وَأَبُو دَاوُدَ (661)، وَالنَّسَائِيُّ 92/2، وَأَبُو يَعْلَى (7474) وَ (7481) وَ (7482)، وَابْنُ حِبَّانَ (2154) وَ (2162)، وَالطَّبْرَانِيُّ (1810-1814)، وَالْبَيْهَقِيُّ 101/3، وَالْبَغَوِيُّ (809) مِنْ طَرِيقِ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِ. مُخْتَصِرًا بِقِصَّةِ تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ غَيْرِ أَبِي يَعْلَى فِذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ الْحَلْقِ.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3 ص 388 رقم 20964. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 2 ص 555 رقم 21271. المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن ہلال بن أسد الشیبانی رضی اللہ عنہ (التونى ۲۳۱ھ)۔ الناشر: بیت
الأفكار الدولية، الأردن. الطبعة: الرابعة، ۲۰۱۰ء)

ترجمہ حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی ڈمیں ہوتی ہیں (کیونکہ وہ اوپر کواٹھی ہوئی ہوتی ہیں)۔ نماز میں سکون اختیار کرو“

حدیث نمبر 5: - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ تُثْمِسُ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ». الحديث
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير تميم بن طرفة فمن رجال مسلم.

تحقیق

وأخرجه مسلم (430) من طريق وكيع، بهذا الإسناد- ولم يسق لفظه.
وأخرج شطره الأول البيهقي 280/2 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، به.
وأخرج شطره الأول أيضاً النسائي في "الكبرى" (11622)، وأبو عوانة 85/2، والبيهقي 80.2/2 من طريق وكيع، به.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳۳ ص ۵۲۰ رقم 21027. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن أسد الشیبانی رضی اللہ عنہ (التونى ۲۳۱ھ)۔ المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ)

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۲ ص ۵۶۰ رقم 21340. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن أسد الشیبانی رضی اللہ عنہ (التونى ۲۳۱ھ)۔ الناشر: بیت
الأفكار الدولية، الأردن. الطبعة: الرابعة، ۲۰۱۰ء)

ترجمہ حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: ”کیا بات ہے؟ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ

رہا ہوں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی ڈمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔“

حدیث نمبر 6:- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ".

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج 5 ص 542 رقم 8533. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي رحمته الله (التونى 235هـ). المحقق: محمد عوامة. الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراچی. الطبعة: الثانية 1428هـ)

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 2 ص 231 رقم 8447. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي رحمته الله (التونى 235هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة: الأولى 1409هـ)

ترجمہ

حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا بات ہے؟ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی ڈمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔“

حدیث نمبر 7:- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ". (نسائی رقم 1184)

ترجمہ

حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حجرہ مبارکہ سے نکل کر) ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انہیں کیا ہو گیا کہ نماز کے اندر اس طرح رفع

یدین کر رہے ہیں جیسے بد کے ہوئے گھوڑوں کی دُمیں اٹھی ہوئی ہوں۔ نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔“

حدیث نمبر 8: - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيَهُمْ - قَالَ زُهَيْرٌ: أَرَاهُ قَالَ - فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ؛ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ". (ابوداؤد رقم 1000)

ترجمہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے حالانکہ لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے تو فرمایا: ”کیا بات ہے؟ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی دُمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔“

حدیث نمبر 9: - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ وَقَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ. فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ تَرَفَعُونَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ". (شرح معانی الآثار رقم 2632؛ شرح مشکل الآثار رقم 5926)

ترجمہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جو رفع یدین کر رہی تھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا بات ہے؟ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی دُمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔“

حدیث نمبر 10: - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيْبَ بْنَ رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ: "قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ".

(مسند أبي داود الطيالسي، ج ۲ ص ۱۳۶ رقم 823. المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري رحمته الله (المتوفى ۲۰۳ھ). المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر، مصر. الطبعة: الأولى ۱۳۱۹ھ)

ترجمہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی ڈمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔“

6.1.1: حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ پر محدثانہ بحث

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے منقول یہ مختلف روایتیں ہیں۔ ان تمام روایتوں میں ترک رفع یدین پر دلیل ہے کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کرنا منع ہے۔ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سجدوں کو جاتے اور اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا منع ہے۔ جو حضرات نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ جو بعض روایات میں رفع یدین کا ذکر ہے۔ وہ نسخ سے پہلے کا ہے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مستقل طور پر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ محدثین نے رفع یدین کے بارے میں ان کی دو حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع یدین کرنے پر اظہار ناراضگی فرمایا اور اس کو شریر گھوڑوں کی ڈموں سے تشبیہ دی۔ دوسری حدیث میں نماز باجماعت والوں کو سلام کے وقت دائیں بائیں ہاتھ پھیلانے والوں کو بھی شریر گھوڑوں کی ڈموں سے تشبیہ دی ہے۔ ہم ان دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں کہ جس طرح سلام کے وقت دائیں بائیں ہاتھ پھیلانا ممنوع ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر رفع یدین جو ذکر سے خالی ہو، وہ بھی ممنوع ہے۔ غیر مقلدین دوسری بات کو تو ممنوع مانتے ہیں لیکن رفع یدین کو نہیں مانتے، حالانکہ سلام جو من وجہ داخل نماز ہے

اور من وجہ خارج نماز۔ اس وقت ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ممنوع ہے۔ تو عین نماز کے اندر دو ہاتھ سے رفع یدین بدرجہ اولیٰ ممنوع ہے۔ جیسے جس طرح والدین کے سامنے اُف کرنا ممنوع ہے۔ گالی دینا تو بڑا ممنوع ہے۔ اسی طرح السلام علیکم ایک دعا ہے۔ جب اس دعا کے ساتھ نماز میں ہاتھ سے اشارہ ممنوع ہے، تو وہ رفع یدین جس کے ساتھ شریعت میں ذکر ثابت نہیں، وہ بدرجہ اولیٰ ممنوع اور لائق ترک ہے بلکہ یہاں یہ تشبیہ زیادہ موزوں ہے کیونکہ گھوڑے بغیر ذکر الہی کے دُمیں ہلاتے ہیں۔ اس لیے وہ رفع یدین جو ذکر سے خالی ہو اس کو گھوڑوں کی دُموں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اس روایت میں صراحت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ رفع یدین کرنے والوں پر ناراض ہوئے اور انہیں سکون کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ رفع یدین سکون کے خلاف ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے:

«أُسْكِنُوا فِي الصَّلَاةِ»

جو کہ نماز میں سکون کو واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نماز میں رفع یدین سکون کے منافی ہے۔ (اعلاء السنن ج ۳ ص ۵۶)
اس کی تفسیر اس روایت سے بھی ہوتی ہے:

حدیث 11:- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «قَارُوا فِي الصَّلَاةِ». يَقُولُ: اسْكِنُوا، اظْمِنُوا.

(المعجم الكبير، ج ۹ ص ۲۶۹ رقم 9344. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. أبو القاسم الطبراني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى سنة ۳۲۰ هـ) المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)
(السنن الكبير، ج ۳ ص ۳۶۳، ۳۶۴ تحت رقم 3566 المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (384 - 458 هـ). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية الطبعة:

الأولى، 1432 هـ - 2011 م

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۳۶ رقم 2817 المؤلف: أبو الحسن نور الدين

علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (المتوفى ۸۰۷ هـ) المحقق: حسام الدين

القدسى. الناشر: مكتبة القدس، القاهرة ۱۴۱۳ هـ)

ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نماز میں سکون اختیار کرو“۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تحریمها التكبير وتحليلها التسليم“

یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد سلام پھیرنے تک نماز کا اندرون ہے۔ اس کو ”فی الصلوة“

کہتے ہیں۔ نماز کے اندر کسی جگہ رفع یدین کرنا خواہ وہ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت

کے شروع میں ہو یا رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے یا سجدہ میں جاتے اور سر اٹھاتے

وقت ہو۔ اس رفع یدین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور اس کو

شریر گھوڑوں کے فعل سے تشبیہ بھی دی۔ اس رفع یدین کو خلاف سکون بھی فرمایا۔ اور

پھر حکم دیا کہ نماز سکون سے یعنی بغیر رفع یدین کے پڑھا کرو۔ مسلم شریف کی اس

حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے والوں کو سکون کے ساتھ نماز

پڑھنے کا حکم دیا چونکہ رفع یدین کرنا سکون کے منافی ہے لہذا ہمیں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے۔

مکہ مکرمہ کے مشہور محدث شارح مشکوٰۃ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَلَيْسَ فِي غَيْرِ التَّحْرِيمَةِ رَفْعُ يَدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

سَمُرَةَ. (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۶۵۶ طبع: دار الفكر، بيروت - لبنان)

ترجمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع یدین نہیں ہے۔

مسلم شریف کی اس حدیث کے مطابق جو کہ حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”رواه مسلم ويفيد النسخ“۔ (شرح نقایہ ج ۱ ص ۷۸)

ترجمہ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ رفع یدین کے منسوخ ہونے میں

مفید ہے۔

حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ. وَكَانَ رَدُّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ فِيهِ خُرُوجٌ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ رَفْعَ الْيَدِ وَتَحْرِيكَ الْأَصَابِعِ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِيهَا أَمْرٌ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَسْكِينِ الْأَطْرَافِ فِي الصَّلَاةِ. وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي بَيَّنَّا فِي هَذَا الْبَابِ، قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۳۵۸ تحت رقم 2632. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۳۲۰هـ). حققه وقدم له: محمد زهرى النجار، محمد سيد جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳هـ)

ترجمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکون کا حکم فرمایا، اور نماز میں سلام کے اشارہ سے نماز سے نکلنا ہے، کیونکہ اس وقت ہاتھ کے اشارہ اور انگلیوں کو حرکت دینا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اطراف کے سکون کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ قول ہے جس کو ہم نے اس باب میں بیان کیا ہے۔ یہی قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”البنایہ فی شرح الہدایہ“ میں مسلم شریف کی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

قلت: فی الحدیث الأول إنكار لرفع اليد في الصلاة وأمر بالسكون فيها فكيف يحمل هذا على الإيماء باليد والإشارة بها بعد السلام كما في الحدیث الثاني؛ وليس فيه ذكر رفع الأيدي ولا الأمر بالسكون إذا خرجوا من الصلاة بالسلام. وحدث إنكار رفع اليدين والأمر

بالسكون مقيد بداخل الصلاة. وحديث إنكار الإيماء والإشارة
بالأيدي مقيد بحال السلام الذي قد خرجوا به من الصلاة. والمقيد
بقيد لا يندرج تحته مقيد آخر بقيد آخر. فالحديث الثاني غير الحديث
الأول قطعاً.

(البنایة شرح الهدایة، ج ۲ ص ۲۵۷، ۲۵۸. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن
موسی بن أحمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۸۵۵ھ).
الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۰ھ)

ترجمہ میں کہتا ہوں کہ اس مسلم شریف کی حدیث میں، نماز میں رفع یدین کرنے کی ممانعت ہے اور نماز میں پُرسکون رہنے کا حکم ہے۔ پھر کیسے اس حکم کو سلام کے بعد ہاتھ کے اشارہ اور انگلیوں کے حرکت دینے پر محمول کر سکتے ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے؟ اس میں ہاتھ کے اٹھانے اور نہ ہی سکون کا حکم ہے جب وہ سلام کے ساتھ نماز سے نکل آئے۔ حدیث میں رفع یدین کا انکار اور سکون کا حکم نماز کے اندرون کے ساتھ مقید ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہاتھ کے اشارہ کا انکار اس سلام کے ساتھ مقید ہے جس کے ذریعے وہ نماز سے نکل رہے تھے۔ ایک حدیث میں مقید کی قید دوسری حدیث میں موجود مقید کی قید کے تحت درج نہیں ہو سکتی۔ لہذا دوسری حدیث پہلی حدیث سے قطعی طور پر جدا ہے۔

اسی طرح علامہ جمال الدین زلیعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نصب الراية میں اس حدیث شریف سے ترک یدین پر دلیل پکڑتے ہیں۔ (نصب الراية ج ۱ ص ۳۹۴ طبع بیروت)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ رفع یدین چھوڑ چکے تھے اور جناب رسول اللہ ﷺ کے حاضر باش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چھوڑ چکے تھے۔ ہاں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم لا علمی کی وجہ سے کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کو سختی سے ڈانٹ کر روک دیا۔ چنانچہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم رک گئے، جیسا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ جب دوبارہ تشریف لائے تو بلا استثناء سب صحابہ رضی اللہ عنہم کو پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے پایا (ابوداؤد رقم ۷۲۸)۔ اور جیسا کہ میمون

مکی ﷺ کی روایت (ابوداؤد رقم ۷۳۹) سے پتہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین ﷺ اور تبع تابعین ﷺ رفع یدین کے تارک تھے۔ اور جیسا کہ حضرت ابراہیم نخعی ﷺ نے فرمایا: ”میں نے نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو رفع یدین کرتے دیکھا، نہ سنا“ (موطأ محمد رقم ۱۰۷)، بلکہ حضرت ابراہیم نخعی ﷺ نے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہیں۔ البتہ بعض حضرات نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اس حدیث میں سلام کے وقت اشارہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے:

حدیث 12:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ الْقَبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَامَ تَوْمِئْتُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ إِمَّا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ». (مسلم رقم 120-431)

ترجمہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو ”السلام علیکم ورحمة اللہ“ کہتے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم ہاتھوں سے اشارہ کس لیے کرتے ہو؟ جیسے وہ بد کے ہوئے گھوڑوں کی دُمیں ہوں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہاتھ رانوں پر رکھے ہوئے دائیں بائیں اپنے بھائی کو سلام کیا کرو۔“

ان دونوں حدیثوں میں چونکہ ”كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ“ فقرہ آگیا ہے۔ غالباً اس سے ان حضرات کا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو شخص ان دونوں حدیثوں کے سیاق پر غور کرے گا۔ اسے یہ سمجھنے میں قطعاً دشواری نہیں ہوگی کہ یہ دونوں واقعے الگ الگ

ہیں۔ ان دونوں کا مضمون ایک دوسری سے یکسر مختلف ہے۔

1 رفع یدین سے منع کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

☆ خرج علينا رسول الله ﷺ (مسند احمد ج ۲ ص ۵۵۵ رقم ۲۱۲۷۱)

☆ دخل علينا رسول الله ﷺ (مسند احمد رقم ۲۱۳۴۰)

☆ أنه دخل المسجد فأبصر قوماً (مسند احمد رقم ۲۱۱۶۷)

جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جماعت کے بغیر سنتیں یا نوافل ادا کر رہے تھے۔

اشارہ سے منع کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

☆ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسند احمد رقم 20806، 21028)

☆ كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسند احمد رقم 20972)

☆ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسلم 120-431) (مسند احمد رقم 21028)

جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز باجماعت ادا کر رہے تھے۔

2 رفع یدین سے منع کی احادیث میں رافعی أیدیکم یا قد رفعوا أیدیہم کے

الفاظ ہیں جو رفع یدین میں واضح ہیں۔ اشارہ سے منع کی حدیث میں تشیرون

بأیدیکم یا تؤمون بأیدیکم یا یرمون بأیدیہم کے الفاظ ہیں جو اشارہ میں واضح ہیں۔

رفع یدین کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز

میں رفع یدین کرتے دیکھا اور اس پر نکیر فرمائی۔ اشارہ کی حدیث میں ہے کہ سلام

کے وقت دائیں بائیں اشارہ کرنے پر نکیر فرمائی۔

3 رفع یدین کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے نماز میں سکون اختیار

کرنے کا حکم فرمایا (أسکنوا فی الصلوة)۔ اشارہ سے منع کی حدیث میں ہے کہ

آپ ﷺ نے سلام کا ذکر ہے اور پھر اس کے پھیرنے کا طریقہ بتایا ہے۔
 4 یہ دونوں حدیثیں الگ الگ سندوں سے مذکور ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی دوسرے واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتے۔ دوسری حدیث کے راوی پہلے واقعے سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔

5 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے دونوں روایات میں الگ الگ احکام ہیں۔ اور ان سے روایت کرنے والے راوی بھی مختلف ہیں۔ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے اور اشارہ سے منع کرنے والی روایت کے راوی اس طرح ہیں۔ مسعر عن عبید اللہ بن القبطیة عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ لیکن دوسری روایت کے راوی یہ ہیں۔
 مسیب بن رافع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ۔

6 امام مسلم رضی اللہ عنہ نے مسلم شریف میں رفع یدین سے منع کرنے کی ایک ہی جگہ دو الگ الگ حدیثیں بیان کی ہیں۔ علامہ محمد فواد عبدالباقی رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم میں حدیث کے مضمون کے مطابق نمبر لگائے ہیں چاہے وہ قریب قریب ہوں یا دور دور۔ ان کی ترقیم کے مطابق پہلی حدیث کو نمبر 430 دیا گیا اور دوسری حدیث کو نمبر 431۔ کیونکہ ان حدیثوں کا مضمون اور مخرج الگ الگ تھا۔

7 ان دو الگ الگ حدیثوں کو خلط ملط کر کے ایک بنانا درست نہیں ہے۔ اس حدیث پر امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے یوں باب باندھا ہے: باب النظر فی الصلوٰۃ (ابوداؤد ج ۱ ص ۸۳۸ رقم ۹۱۲)۔ امام عبدالرزاق رضی اللہ عنہ نے یوں باب باندھا ہے: باب رفع الیدین فی الدعاء (مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۶۳ رقم ۳۲۵۸، ۳۲۵۹)۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے استاذ امام ابوبکر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر باب من کرہ رفع الیدین فی الدعاء کا باب باندھا ہے (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۴۷۴ رقم ۸۵۳۴ طبع کراچی ۱۳۲۲ھ)۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث سے اشارہ بوقت سلام مراد لینا درست نہیں ہے۔

قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

وقد ذکر ابن القصار هذا الحديث حجة في النهي عن رفع الأيدي في

الصلاة على رواية المنع من ذلك جملة.

(شَرْحُ صَوِيحِ مُسْلِمٍ لِلْقَاضِي عِيَاضِ الْمُسْتَسِي إِكْمَالُ الْمُعَلِّمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ، ج ۲ ص ۳۳۳. المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن يعقوب السبتي، أبو الفضل رحمته (المتوفى: ۵۴۳ھ). المحقق: الدكتور يحيى إسماعيل. الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر. الطبعة: الأولى، ۱۹۱۹ھ)

ترجمہ بیشک ابن القصار المالکی رحمته نے اس حدیث کو نماز میں رفع یدین منع کرنے پر حجت کے طور پر پیش کیا ہے۔

8 اسی طرح امام بیہقی رحمته نے اپنی کتاب سنن کبریٰ میں ان دونوں حدیثوں کو الگ الگ ابواب میں بیان کیا ہے۔ پہلی حدیث (حدیث نمبر ۴۳۰) کو، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان میں رفع یدین سے منع فرمایا ہے، امام بیہقی نے سنن کبریٰ (ج ۲ ص ۲۸۰) میں باب الخشوع میں بیان کیا ہے۔ دوسری حدیث (حدیث نمبر ۴۳۱) میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

انما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. (مسلم رقم 430)

تم میں سے ہر ایک کو یہی کافی ہے کہ (قعدہ میں) اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے۔ پھر اپنے بھائیوں کو جو دائیں بائیں ہوں، سلام (السلام علیکم ورحمۃ اللہ) کہا کرو۔

امام بیہقی رحمته نے اس روایت کو مسلم کے حوالے سے سنن کبریٰ (ج ۲ ص ۱۸۰) میں باب من قال ينوي بالسلام التحليل من الصلوة میں لکھا ہے۔

دوسری حدیث کی دوسری روایت جس کے آخر میں الفاظ یہ ہیں:

إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمى بيده. (مسلم رقم 431)

ترجمہ تم میں سے جب کوئی (نماز کے آخر میں) سلام پھیرے تو اپنے بھائی کی طرف منہ کرے۔ (اور صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے) اور ہاتھ سے اشارہ نہ

کرے۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مسلم کے حوالے سے سنن کبریٰ (ج ۲ ص ۱۸۱ طبع ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان) میں باب کراہیۃ الایماء بالید عند التسلیم من الصلوٰۃ (باب سلام کے وقت ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے کی کراہیت) میں لکھا ہے۔

حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف کے ابواب خود قائم نہیں فرمائے۔ ان کے پیش نظر صرف احادیث کو یکجا پیش کرنا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۶۷۶ھ) نے مسلم شریف کی شرح لکھتے وقت ابواب قائم فرمائے ہیں۔ پھر مسلم شریف میں جو باب ہے۔ اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے:

باب الأمر بالسکون فی الصلوٰۃ..... الخ

- (۱) نماز میں سکون اختیار کرنا،
- (۲) سلام کے وقت ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کی ممانعت،
- (۳) پہلی صفوں کا مکمل کرنا، خلا کو پُر کرنا اور
- (۴) اجتماع کا حکم۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس باب میں چار چیزوں کا حکم ہے نہ کہ ایک کا۔ ان چار چیزوں کو دیکھو تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز علیحدہ ہے۔

- (۱) نماز میں رفع یدین کی ممانعت
- (۲) سلام کے وقت ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کی ممانعت
- (۳) پہلی صفوں کے مکمل کرنے کا حکم اور خلا کو پُر کرنا
- (۴) اجتماع کا حکم۔

اس لیے دونوں حدیثوں کو جن کا الگ الگ مخرج ہے، الگ الگ قصہ ہے، الگ الگ حکم ہے۔ ایک ہی واقعے سے متعلق کہہ کر دل کو تسلی دے لینا، کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا حَدِيثَانِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَالِ التَّسْلِيمِ لَا

يُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ فِي الصَّلَاةِ، وَبِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْفِظِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "اسْكُنُوا" لَا لِسَبَبِهِ وَهُوَ الْإِيْمَاءُ حَالِ التَّسْلِيمِ.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۲ ص ۶۵۶، المؤلف: علی بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدین الملا الهروی القاری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۰۱۳ھ)۔ الناشر: دار الفکر، بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۲ھ)

ترجمہ ظاہر بات یہی ہے کہ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے کہ سلام پھیرتے وقت یہ نہیں کہا جاسکتا: "نماز میں سکون اختیار کرو"۔ اور اس لیے بھی کہ الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ اس کے سبب کا، اور وہ سلام کے وقت اشارہ کرنا ہے۔

اسی طرح علامہ جمال الدین زلیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا النَّاسُ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهُ أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُوسٍ؟! اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ". وَالَّذِي يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَالِ التَّسْلِيمِ لَا يُقَالُ لَهُ: "اسْكُنْ فِي الصَّلَاةِ"، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ لِمَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ حَالَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. وَالرَّأَوِي رَوَى هَذَا فِي وَقْتٍ، كَمَا شَاهَدَهُ، وَرَوَى الْآخَرَ فِي وَقْتٍ آخَرَ، كَمَا شَاهَدَهُ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ بُعْدٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الأملعي في تخریج الزیلعی، ج ۱ ص ۳۹۴، المؤلف: جمال الدین أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزیلعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: 762ھ)، قدم للكتاب: محمد يوسف البنوری، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندی الفنجانی، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوری، المحقق: محمد عوامة الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر- بيروت لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، 1418ھ/1997م)

ترجمہ یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی تفسیر نہیں کر رہی ہیں جیسا کہ پہلی

حدیث کے الفاظ ہیں:

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ:
"مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أُذُنَابُ خَيْلٍ شُمُوسٍ؛ اسْكُنُوا فِي
الصَّلَاةِ".

ترجمہ جناب رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے حالانکہ لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے تو فرمایا: ”کیا بات ہے؟ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی ڈمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔“

وہ شخص جو سلام کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو نہیں کہا جاتا: ”تو نماز میں سکون اختیار کر۔“ یہ اس کو کہا جاتا ہے جو نماز کے دوران رفع یدین کرتا ہو اور وہ رکوع، سجدہ وغیرہ کی حالت ہی ہے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے۔ راوی حدیث نے ایک وقت جو مشاہدہ کیا اس کو بیان کر دیا اور دوسرے وقت جو مشاہدہ کیا اس کو بیان کر دیا۔ اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔

اور اگر بطور تنزل تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دونوں حدیثوں کی شانِ ورود ایک ہے تب بھی یہ مسلمہ اصول ہے کہ خاص واقعے کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔ جب جناب رسول اللہ ﷺ نے رفع یدین پر نکیر فرمائی ہے اور اس کے بجائے نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو اس سے ہر صاحبِ فہم سمجھے گا کہ رفع یدین سکون کے منافی ہے اور آپ ﷺ نے اسے ترک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ جب بوقتِ سلام رفع یدین کو سکون کے منافی سمجھا گیا، حالانکہ وہ نماز سے خروج کی حالت ہے، تو نماز کے عین وسط میں سکون کی ضرورت اس سے بدرجہا بڑھ کر ہوگی۔

6.2: حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 13:- حَدَّثَنَا هَنَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" فَصَلُّ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرٌ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. (ترمذی: باب: ماجاء أن النبي ﷺ لم يرفع الا في اول مرّة: ص ۱۳۱، رقم ۲۵۷-تحقیق: الشیخ خلیل مامون شیخا- طبع دار المعرفه، بیروت، لبنان، ۱۴۲۳ھ؛ ورجاله رجال مسلم)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟“۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور صرف نماز کی ابتداء میں رفع یدین کیا۔ اور ترک رفع یدین کے باب میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اور بے شمار اہل علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم اسی کے (یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنے کے) قائل ہیں۔ یہی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

فائدہ خاتمی مرتبت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حاضر باش، سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے نمونہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے خزانہ، فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے تلامذہ و حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کی عملی طور پر تعلیم کی غرض سے نماز پڑھ کر دکھائی اور اس نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا۔ جس

سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت جناب رسول اللہ ﷺ کا معمول رفع یدین نہیں تھا۔ کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فدائی رسول اور فاضل ترین صحابی (جن کے قول عمل پر مہر اعتماد ثبت فرماتے ہوئے آپ ﷺ فرماتے ہیں:

حدیث 14:- وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ.

(مسند احمد رقم 23276، 23419؛ مستدرک حاکم رقم 4453)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بات تم سے بیان کریں، اسے صحیح باور کرو۔
کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ نبی کریم ﷺ کی جانب منسوب کر کے کوئی بات بیان کریں یا کوئی کام کریں اور اس میں آپ ﷺ کے طریقہ کی مخالفت کریں۔ چنانچہ امام دارقطنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَتَى لِرَبِّهِ وَأَشْخُ عَلَى دِينِهِ مِنْ أَنْ يَرَوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقْضِي بِقَضَائِهِ وَيُقْتَى هُوَ بِخِلَافِهِ. هَذَا لَا يُتَوَهَّمُ مِثْلُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

(سنن الدارقطنی، ج ۳ ص ۲۲۵ تحت رقم الحدیث 3364. المؤلف: أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد بن مہدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی رحمہ اللہ (المتوفی ۳۸۵ھ). حقه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط. حسن عبد المنعم شلبي. عبد اللطيف حرز الله. أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳ھ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اپنے دین کو ترجیح دینے والے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے وہ کوئی فیصلہ نقل کریں اور فتویٰ اس کے خلاف دیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے متعلق اس کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اصولی لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے اور اپنے مدلول میں صریح ہے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی یعنی نماز پڑھ کر دکھائی۔ رفع یدین صرف تکبیر

افتتاح کے وقت کیا۔ پھر نہیں کیا اور فرمایا: یہ نماز جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے، بعد میں نہیں۔ ہمیں بھی پیارے نبی ﷺ کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرنا چاہیے بعد میں نہیں۔

حدیث نمبر 15:- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: «فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ»

(المجتبی من السنن = السنن الصغری للنسائی) (نسائی ج ۲ ص ۱۸۲ رقم 1026

المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. النسائي (المتوفى:

303هـ). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية -

حلب. الطبعة: الثانية. 1406-1986)

(وقال الشيخ النيموي: هذا اسناد صحيح. التعليق الحسن حاشيه آثار السنن

ص ۱۵۳؛ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ سنن نسائی رقم 1026، تحقیق محمد ناصر الدین البانی طبع

مکتبۃ المعارف، ریاض ۱۴۲۹ھ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی مسنون نماز

کا طریقہ نہ بتاؤں؟ پس آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ پس پہلی مرتبہ رفع یدین کیا۔ پھر دوبارہ نہیں کیا۔

فائدہ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تمام

راویوں کی ثقاہت کو ثابت کیا ہے اور مختلف محدثین سے اس حدیث کی صحت کو بیان کیا

ہے۔ پھر فرماتے ہیں: ”اس روایت صحیحہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو نقشہ بتایا اس میں صرف پہلی دفعہ رفع یدین تھا“ اس کے بعد

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر غیر مقلدین کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کا شافی

جواب دیا ہے۔ (خزائن السنن ج ۲ ص ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹)

حدیث نمبر 16:- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: "أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً."

(نسائی رقم 1058؛ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا۔

حدیث نمبر 17:- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ

عَاصِمِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ كَلْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قَالَ: "فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً."

(ابوداؤد رقم 748؛ ورجالہ رجال الصحیحین؛ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے؛ صحیح

سنن ابوداؤد رقم ۶۸۳ - - - - - ۷۴۸)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون

نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟" حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا۔

حدیث نمبر 18:- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو

حَدَيْفَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ: "فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ" وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "مَرَّةً وَاحِدَةً"

(سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۶۵ رقم 749. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق

بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275 هـ). المحقق:

شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلى الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة:

الأولى 1430 هـ - 2009 م)

(بذل المجهود في حل سنن أبي داود ج ٣ ص ٩٤ رقم 747 المؤلف: الشيخ خليل أحمد السهارنفوري رحمته الله (المتوفى: 1346 هـ). اعتنى به وعلق عليه: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي. الناشر: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند. الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م)

ترجمہ
 معاویہ بن ہشام رحمته الله، خالد بن عمر رحمته الله اور ابو حذیفہ رحمته الله، ان تینوں نے سفیان ثوری رحمته الله سے اوپر مذکور سند (یعنی عن عاصم . یعنی ابن کلیب . عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة) سے حضرت عبداللہ بن مسعود رحمته الله کی اوپر مذکور حدیث روایت کی ہے جس میں بعض راویوں نے "رفع یدیه فی أوّل مرّةً واحدةً" کے الفاظ کہے ہیں اور بعض نے "رفع یدیه مرّةً واحدةً" کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ ان سب لفظوں کا ایک ہی معنی ہے: "رفع یدین صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت کیا تھا"۔

حدیث نمبر 19:- حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قَالَ: "فَصَلِّ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً".

تحقیق
 رجالہ ثقات رجال الشیخین غیر عاصم بن کلیب، فمن رجال مسلم، وکیع: هو ابن الجراح الرؤاسی، وسفیان: هو الثوری، وعلقمة: هو ابن قیس النخعی، وأخرجه ابن ابی شیبہ 236/1، وأبو داود (748)، والترمذی (257)، والنسائی 195/2، وأبو یعلیٰ (5040) و (5302)، والطحاوی فی "شرح معانی الآثار" 224/1، والبیہقی فی "السنن" 78/2، من طریق وکیع شیخ أحمد، بهذا الإسناد. قال الترمذی: حدیث ابن مسعود حدیث حسن. وأخرجه أبو داود (751) من طریق معاویة بن هشام، وخالد بن عمرو، وأبی حذیفة، ثلاثهم عن سفیان، بهذا الإسناد.

وقد ورد هذا الحديث في المطبوع من "سنن أبي داود" بعد حديث البراء (750)، وهو خطأ، وحقه أن يكون بعد حديث ابن مسعود (748) كما في "التحفة".

.114_113/7

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 182/1 من طريق عبد الله بن المبارك. عن سفيان به. وفيه زيادة: "ثم لم يعد".

وأخرجه ابن أبي شيبة 236/1 عن وكيع، عن مسعر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود من فعله.

قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 96/1 أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحدا ما رواه الثوري.

وقال المنذرى في "مختصر سنن أبي داود" 368/1: وقد حكى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث. ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخاً، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه.

وقال ابن القيم: قال أبو حاتم البستي في كتاب "الصلاة" له: هذا الحديث له علة توهمه، لأن وكيعاً اختصره من حديث طويل، ولفظة: "ثم لم يعد" إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله، وقبلها: "يعنى"، فربما أسقطت "يعنى"، وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه، وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث روى بأربعة ألفاظ: أحدها قوله: "فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد".

والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة. والثالثة: فرفع يديه في أول مرة. لم يذكر سواها.

والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة. والإدراج ممكن في قوله: "ثم لم يعد". وأما باقيها فإما أن يكون قد روى بالمعنى، وإما أن يكون صحيحاً.

قلنا: قد ورد في "علل" الدارقطني 171/5 بلفظ: "رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد". قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: "ثم لم يعد". وكذلك قال الحماني عن وكيع. وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: "ثم لم يعد" ... وليس قول من قال: "ثم لم يعد، محفوظاً".

وقال الحافظ في "الفتح" 220/2: وردة الشافعي بأنه لم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على الثاني، وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدلل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر.

وانظر بسط المسألة أيضاً في "المدونة" 69-68/1، و"نصب الراية" 396-394/1، و"شرح السنة" 25، 24/3.

وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود (749) و(752)، سيرد 301/4 و303، وإسناده ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. وآخر موقوف من حديث علي عند ابن أبي شيبة 236/1.

قال السندی: قوله: "إلا مرة": ظاهرة أن هذه هي الصلاة المعتادة أو الدائمة، فمقتضاه أن الغالب أو الدائم كان ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، لكن قد جاء ما يدل على أن الرفع كان غير قليل، فيحمل على أن هذه كانت صلاة له أيضاً، والمقصود أنه كما جاء الرفع فهو مسنون، كذلك جاء تركه فهو أيضاً مسنون، وهذا القول أقرب إلى الوارد إن شاء الله تعالى، وأما القول بأن ترك الرفع هو المسنون فبعيد بمرّة، نعم، لا يبعد أن يكون المسنون هو الرفع، ويكون تركه أحياناً لبيان الجواز، والله تعالى أعلم.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٦ ص ٢٠٣ رقم 3681 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، (التمتلي ٢٣١هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٣٢١هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون

نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟“ - ”آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا۔“

حدیث نمبر 20:- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "أَصَلَى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ" (3)

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4 ص 260 رقم 4211. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟“ - تو آپ صلی اللہ عنہ نے صرف پہلی مرتبہ (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا۔

حدیث نمبر 21:- نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً."

(مسند ابن أبي شيبة، ج 1 ص 323 رقم 323. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي رحمته (المتوفى: 235هـ). المحقق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي. الناشر: دار الوطن - الرياض. الطبعة: الأولى، 1997م)

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 2456. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي رحمته (المتوفى 235هـ). المحقق: محمد عوامة. الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچی. الطبعة: الثانية 1421هـ)

قَالَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ

وَعَلَقَمَةً قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" قَالَ: "فَصَلِّي وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً".

(المدونة، ج 1 ص 166. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني رحمته (المتوفى: 179 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1415 هـ - 1994 م)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟“۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا۔

حدیث نمبر 22:- أَخْبَرَنَا أَبُو ظَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ بْنُ يَلَالٍ، أَنبَأَ مُحَمَّدُ

بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ كَلْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنَى ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". قَالَ: "فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً".

(السنن الكبرى ج 2 ص 112 رقم 2531. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى 358 هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، 1423 هـ)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْثَبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ كَلْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلَقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" قَالَ: "فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً".

(معرفة السنن والآثار، ج 2 ص 322 رقم 3280. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى 358 هـ). المحقق: عبد المعطي أمين قلعي. الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، دار

قتيبة، دمشق، بیروت؛ دار الوعی، حلب، دمشق؛ دار الوفاء، المنصورة، القاهرة
الطبعة: الأولى، ۱۳۱۲ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں تمہیں ضرور بالضرور جناب رسول اللہ ﷺ کی مسنون نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔“ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا۔“

حدیث نمبر 23: - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۲۳ رقم 1349. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمہ (المتوفى: 321ھ). حققه و قدم له: (محمد زهرى النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلى - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى - 1414 هـ 1994 م)

ترجمہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔ پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 24: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۲۳ رقم 1350)

ترجمہ اس حدیث کی سند سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے آگے بعینہ وہی ہے جو اوپر والی حدیث کی ہے اور متن کے الفاظ بھی وہی ہیں۔

حدیث نمبر 25: - ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم عن الاسود أن عبد الله بن مسعود رحمہ كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يعود الى شيء من ذلك

ويأثر ذلك عن رسول الله ﷺ. (جامع المسانيد خوارزمي ج ۱ ص ۳۵۵)

ترجمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حماد رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ اسود رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نماز کے کسی حصے میں نہیں کرتے تھے۔ وہ اس عمل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔“

فائدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی بنا پر ترک رفع یدین کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے یہ ان کی جانب سے حدیث کی تصحیح ہے۔

حدیث نمبر 26: - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فِجْدِيهِ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.»

(مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، ج ۵ ص ۳۶ رقم 1608. المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۲۹۲ھ). المحقق: محفوظ الرحمن زين الله. وعادل بن سعد. وصبرى عبد الخالق الشافعى. الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة الطبعة: الأولى)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟“ - آپ رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ پھر رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو تطبیق کرتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی تو فرمایا: ”اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔“

6.2.1: سنن ترمذی میں ”حسن صحیح“ کا ثبوت

سنن ترمذی کے عام مطبوعہ نسخوں میں اس حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تحت ”حسن“ کا لفظ ملتا ہے۔ مگر دیگر محدثین کرام رضی اللہ عنہم کی تصحیح کی طرح امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ”حسن صحیح“ لکھا ہے۔ محترم جناب فیصل خان مدظلہ کے پاس سنن ترمذی کا ایک عمدہ اور نفیس قلمی نسخہ کا عکس محفوظ ہے۔ اس نسخہ پر صحت غالب اور خطا کم ہے۔ جس کا اقرار علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ نے مقدمہ ترمذی (ص ۱۷) میں بھی کیا ہے۔ علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ اس نسخہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”وہی نسخة جيدة يغلب عليها الصحة و خطاؤها قليل“۔

یہ قلمی نسخہ دارالکتب المصریہ کی لائبریری میں رقم ۶۴۸ حدیث کے تحت موجود ہے اور اس مخطوطہ کی کتابت ۳ رجب ۱۲۶۱ھ کو ہوئی۔ اس نسخہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر حدیث کے اختتام پر دائرہ بنا ہوا ہے اور ان دائروں میں نقطے لگے ہوئے ہیں۔ ان دائروں اور ان میں لگے ہوئے نقطوں کی اہمیت کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے اقوال سے وضاحت کرتے ہیں:

قال الخطيب بغدادی رحمہ اللہ: وينبغي أن يترك الدائرة غفلاً فإذا قابلها نقط فيها نقطة.

(اختصار علوم الحدیث ص ۱۳۰ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ الجامع فی الاخلاق الراوی و آداب السامع ج ۱ ص ۳۷۳۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ)

ترجمہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا: دائرے کو خالی چھوڑنا چاہئے، پھر جب اس کی مراجعت کرے تو اس میں نقطہ لگا دے۔

جناب فیصل خان کے پاس جو سنن ترمذی کے قلمی نسخے کی فوٹو سٹیٹ ہے، اس کی ہر حدیث کے آخر میں دائرہ بنا ہوا ہے اور ان دائروں میں نقطے لگے ہوئے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نسخہ صحیح ترین اور اصل نسخہ سے مراجعت والا نسخہ ہے۔ لہذا اس نسخہ میں ”حسن صحیح“ کے الفاظ کا انکار ممکن نہیں ہوگا۔ (ترویج العینین ص ۱۶۳-۱۶۴)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح کے بارے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں صحیح کے لفظ نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”أخرجه الترمذی، وقال: حدیث حسن صحیح۔“

(شرح سنن أبي داود ج 3 ص 331 المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابی الحنفی بدر الدين العینی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 855 هـ). المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م)

☆ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے اس قلمی نسخہ کی بھی توثیق ثابت ہوتی ہے جس میں ”حسن صحیح“ کے لفظ موجود ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سنن ترمذی کا ایسا نسخہ موجود تھا جس میں حسن صحیح کے الفاظ موجود تھے۔

6.2.2: حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تصحیح

اس حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت سے محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے روایت کیا ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی کی دوسری روایت، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں صحیح علی شرط الشیخین ہیں کیونکہ مسند احمد اور ابن ابی شیبہ کی سند میں یہ پانچ راوی ہیں: وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرحمن بن الاسود رحمۃ اللہ علیہ اور علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور یہ سب کے سب راوی صحیح بخاری و مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ البتہ عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تعلقاً روایت کیا ہے۔

سنن ابوداؤد میں ایک راوی عثمان بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ زائد ہیں۔ یہ ترمذی کے علاوہ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ سنن نسائی کی سند میں عثمان بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ محمود بن غیلان رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو صحیحین کے راوی ہیں بلکہ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اصحاب ستہ نے

ان سے روایت کی ہے۔ ترمذی کی سند علی شرط مسلم ہے۔ کیونکہ ان کی سند میں عثمان بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ کی بجائے ہنا رضی اللہ عنہ ہیں جن سے امام بخاری رضی اللہ عنہ کے علاوہ بقیہ سارے اصحاب ستہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے۔
اس حدیث کے متعلق علامہ انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
1 قال الشيخ انور شاه الكشميري: على شرط مسلم۔

(العرف الشذی ص ۱۳۸)

ترجمہ علامہ انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

2 علامہ انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں

ورجاله رجال مسلم كذا في الجواهر النقي، وقال الشيخ انور شاه الكشميري: "أَنَّ هَذَا الْخَبْرَ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ صَحِيحٌ، وَكُلُّ مَا أُورِدُوهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مَدْفُوعٌ"۔ (نیل الفرقین ص ۷۸ طبع ادارۃ القرآن، کراچی)

ترجمہ اس حدیث کے راوی مسلم شریف کے راوی ہیں جیسا کہ جوہر نقی میں ہے۔ یہ حدیث مع زیادت کے صحیح ہے۔ جو اعتراضات اس حدیث کے بارے میں کیے گئے ہیں، وہ مردود ہیں۔

3 علامہ محمد ظہیر احسن نیوی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۱۳۲۲ھ) فرماتے ہیں:

رواه الثلاثة، و هو حدیث صحیح۔ (آثار السنن ص ۱۵۲ طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

ترجمہ اس حدیث کو تینوں (ترمذی، ابوداؤد، نسائی) نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

4 حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"ولا يخفى أن الحديث مرفوع ولو حكماً، فان قول الصحابي رضي الله عنه "ألا أصلي بكم صلوة رسول الله ﷺ؟" في حكم الرفع، كما ثبت في الأصول"۔ (اعلاء السنن ج ۳ ص ۵۸)

ترجمہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ اگرچہ حکماً ہے۔ اس لیے صحابیؓ کا یہ فرمانا: "ألا أصلي بكم صلوة رسول الله ﷺ؟" مرفوع کے حکم ہے۔ جیسا کہ اصول کی کتابوں میں ہے۔

5 معروف محقق علامہ احمد محمد شاہ کرمیؒ نے بھی اس حدیث کی تصحیح ان الفاظ میں کی ہے:

وهذا الحديث صحيح، صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وما قالوا في تعليقه ليس بعله (ترمذی بتحقیق احمد شاہ کرمی ج ۲ ص ۴۱)

ترجمہ علامہ احمد محمد شاہ کرمیؒ فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو ابن حزمؒ اور ان کے علاوہ دیگر حفاظ حدیث نے صحیح قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے جو کچھ اس حدیث کی تعلیل کی متعلق کہا ہے، وہ علت بننے کے قابل نہیں ہے۔

6 انہی الفاظ کے ساتھ عصر حاضر کے مشہور محقق شعیب ارناؤط اور غیر مقلد عالم زہیر الشاویش نے بھی اس حدیث کی صحت کو بیان کیا ہے (حاشیہ شرح السنۃ ج ۳ ص ۲۴)۔

7 علامہ ابن حزمؒ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

إِنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ

(المحلّی بالآثار ج ۳ ص ۴۲. المؤلف: أبو محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم

الأندلسی القرطبی الظاهریؒ (المتوفى ۴۵۶ھ). الناشر: دار الفكر، بیروت)

(المحلّی شرح المجلّیج ج ۳ ص ۵۸ طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۲ھ)

ابن حزمؒ فرماتے ہیں:

قَالُوا: وَكَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ

الْإِحْرَامِ فَقَطْ. (المحلّی بالآثار ج ۳ ص ۴۲)

ترجمہ علمائے کرامؒ فرماتے ہیں: ”حضرت علیؑ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

8 حافظ ابن القطان فاسیؒ، امام دارقطنیؒ سے اس حدیث کی تصحیح نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ الدارقطني، قال انه حديث صحيح. وانما المنكر فيه

علي و كيع زيادة "ثم لا يعود" قالوا: انه كان يقولها من قبل نفسه.

پھر اپنی تحقیق ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

والحديث عندي بعدالة رواه اقرب الى الصحة. وما به علة سوى ما

ذکرٹ۔

(بیان الوهم والإيهام فی کتاب الأحكام ج ۳ ص ۶۵-۶۶ رقم ۱۱۰۹ المؤلف:
علی بن محمد بن عبد الملك الكتاهى الحميرى الفاسى. أبو الحسن ابن القطان عمه
(التوفى ۶۲۸ھ) المحقق: د. الحسين آيت سعيد الناشر: دار طبیة الرياض
الطبعة: الأولى ۱۸۱۸ھ)

ترجمہ یہ حدیث میرے نزدیک راویوں کی عدالت کی وجہ سے صحت کے زیادہ قریب ہے۔
اس میں اور کوئی علت نہیں ہے مگر وہ جو میں نے ذکر کر دی ہے۔

2 علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد کی تصحیح

1 علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد اس حدیث کی تصحیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حدیث 27:- عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قال: "فصلى: فلم يرفع يديه إلا مَرَّةً".

تحقیق

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الترمذی: "حديث حسن" وقال ابن حزم: إنه "صحيح" وقواه ابن دقيق العيد والزيلعي والترکمانی).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا وكيع عن سفيان عن عاصم -يعنى: ابن كليب- عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة.

قال أبو داود: "هذا حديث مختصر من حديث طويل. وليس هو بصحيح على هذا اللفظ!"

قلت: وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أعله المصنف رحمه الله بما رأيت. ووافقته على ذلك غير ما واحد كما يأتي! ولم نجد في كلماتهم ما ينهض على تضعيف الحديث. فالحق أنه حديث صحيح. كما قال ابن حزم في المعلى (88/4). وحسنه الترمذی كما يأتي.

ولعل المصنف يشير بالحديث الطويل: إلى حديث عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب. الذي تقدم في الباب السابق. يعنى: أنه ليس فيه: أنه لم يرفع إلا مرة.

فقوله: إلا مرة، غير صحيح عنده. وقال البخاري في "رفع اليدين" (ص 11 - 12):
ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة
قال: قال ابن مسعود رضى الله عنه ... فذكره. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن
آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب، ليس فيه: ثم
لم يعد. فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل يحدث بشيء
ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما في الكتاب.

قلت: ثم ساق البخاري بإسنادة حديث ابن إدريس المشار إليه: ثم قال:
"وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود". وقال ابن أبي
حاتم في "العلل" (1/96): "سألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عاصم بن كليب
قلت: فذكره بلفظ: (رفع يديه ثم لم يعد). ثم قال: قال أبي: هذا خطأ. يقال:
وهم فيه الثوري. وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح. فرفع يديه. ثم ركع فطَبَّقَ وجعلها بين ركبتيه. ولم
يقُلْ أحد ما رواه الثوري".

قلت: فقد أفصح أبو حاتم عن علة الحديث عنده: وهو ما يشير إليه كلام
البخاري: وهو تفرد سفيان الثوري به!
والجواب: أن سفيان ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة، كما في "التقريب":
فتفرده حجة، وتوهيمه لمجرد أنه روى ما لم يرو غيره - جرأة في غير محلها! لا سيما
وأن الظاهر أن حديثه هذا حديث مستقل عن حديث عبد الله بن إدريس؛ وإن
شاركه في إسنادة.

وقد أعله بعض المتأخرين بتفرد وكيع به! وهذا خطأ أبين: فإن وكيعاً مع أنه
ثقة: فقد تابعه عبد الله بن المبارك ومعاوية بن هشام وموسى بن مسعود
التَّهْدِي وغيرهم: كما يأتي.

وقد أعل الحديث بعلتين أخريين، لا نسوّد الصفحة بحكايتهما ورديهما؛ لظهور
بطلانهما. فمن أراد الوقوف على ذلك؛ فليراجع "نصب الراية" (1/394 - 396)،
و"الجواهر النقى" (2/77 - 78)، وقد ذكرا فيهما كلام ابن دقيق العيد في "الإمام":
وفيه يذهب إلى تقوية الحديث، وتبعاه في ذلك.

والحديث أخرجه أحمد (رقم 3681 و 4211): حدثنا وكيع ... به.
وأخرجه الترمذی (2/ 40) -وقال: "حديث حسن"-، والطحاوی (1/ 132)،
والبيهقي (2/ 78)، وابن حزم (4/ 87) من طرق أخرى عن وكيع ... به.
وأخرجه النسائي (1/ 158) من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان ... به.

حديث 28:- وفي رواية ... بإسنادة بهذا: قال: فرفع يديه في أول مرة (وقال بعضهم: مرة واحدة).

(قلت: إسنادة صحيح على شرط مسلم، وقد صححه من ذكرنا في الرواية الأولى).
إسنادة: حدثنا الحسن بن علي: نا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: نا
سفيان ... بإسنادة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وتقدم الكلام عليه في الرواية
المتقدمة: والحسن بن علي: هو الخلال الخلواني.
ومعاوية: هو ابن هشام القصار الأزدي.
وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي.
وخالد بن عمرو: هو أبو سعيد الكوفي: وقد اتهم بالكذب.

(صحيح سنن أبي داود، ج 3 ص 383 رقم 733، 734. المؤلف: الشيخ محمد ناصر
الدين الألباني رحمه الله (المتوفى: 1420 هـ). الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.
الكويت. الطبعة: الأولى. 1423 هـ - 2002 م)

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد فرماتے ہیں:

2

ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال: "ألا أصلي لكم صلاة
رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قال علقمة: فصلي: فلم يرفع يديه
إلا أول مرة.

أخرجه أحمد (1/ 388)، وكذا أبو داود (1/ 120)، والترمذی (2/ 40)،
والنسائي (1/ 158)، والطحاوی (1/ 132)، والبيهقي (2/ 78)، وابن
حزم في "المحلى" (4/ 87) من طرق عن وكيع: ثنا سفيان عن عاصم بن
كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه.

وہذا سند صحیح. رجالہ رجال مسلم. وقد حسنه الترمذی، و صححه ابن حزم. و خالفہم آخرون فضعفوه؛ کابن المبارک، والدارقطنی، وابن حبان وغيرہم. والحق أنه صحیح ثابت. لا مطعن فی إسنادہ.
(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ص ۶۱۰، ۶۱۱. المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 1420ھ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. الطبعة: الأولى 1427ھ - 2006م)

ترجمہ یہ سند صحیح ہے۔ اس کے راوی صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ان کی مخالفت بعض حضرات جیسے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کی ہے۔ حق بات یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے۔ اس کی سند میں کسی قسم کا طعن نہیں ہے۔ دوسری جگہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو نہایت تاکید و جزم کے ساتھ فرماتے ہیں:

والحق انه حديث صحيح، واسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ ولم نجد لمن أمله حجة يصلح التعلق بها ورد الحديث من أجلها۔

(مشكاة المصابيح، ج ۱ ص ۲۵۴، تحت حدیث 809. المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 741ھ). المحقق: محمد ناصر الدين الألبانی رحمۃ اللہ علیہ. الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثالثة، 1985)

ترجمہ حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس کی سند مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ جن لوگوں نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے۔ ہمیں ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے استدلال صحیح ہو اور اس کی وجہ سے حدیث رد کر دی جائے۔ دوسری جگہ بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

(سنن ابی داؤد، تحقیق و تعلق علامہ ناصر الدین البانی ص ۱۳۳ رقم ۷۲۸۔ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض؛ صحیح سنن ترمذی رقم ۲۱۱۔۔۔۔۔ ۲۵۷؛ صحیح ابوداؤد ۶۸۳۔۔۔۔۔ ۷۲۸)

3.2.6: حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں "ثم لا

يعود" مدرج نہیں ہے

أخرجه ابن أبي شيبة (2416) وفي "المسند" (323) وأحمد (388/1 و 441-442) وفي "العلل" (694) وأبو داود (748) والترمذی (257) والنسائی (153/2) وفي "الكبرى" (645) وأبو يعلى (5040 و 5302) وابن المنذر في "الأوسط" (149/3) والطحاوی في "شرح المعاني" (1/224) وفي "المشکل" (5826) وابن حزم في "المحل" (3/301 و 4/119-120) والبيهقی (2/78) وفي "معرفة السنن" (2/422) وابن عبد البر في "التمهيد" (9/215) وابن الجوزی في "التحقيق" (1/275) عن وكيع.

والنسائی (2/142) وفي "الكبرى" (1099) عن عبد الله بن المبارك.

كلاهما عن سفیان الثوری عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود

وفي لفظ: قال ابن مسعود: "ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد.

وفي لفظ "فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة".

بعض محدثین مثلاً امام دارقطنی رحمته اللہ علیہ اور ابن القطان رحمته اللہ علیہ وغیرہ نے اس میں جو علت نکالی ہے۔ وہ ان محققین کے نزدیک لائق اعتبار نہیں جس سے حدیث کی صحت متاثر ہو۔ کیونکہ امام دارقطنی رحمته اللہ علیہ اور حافظ ابن القطان رحمته اللہ علیہ کا لفظ "ثم لا يعود" سے انکار اور اسے رحمته اللہ علیہ کا اضافہ بتانا، نہ صرف یہ کہ بلا دلیل ہے بلکہ خلاف دلیل ہے کیونکہ لفظ: "ثم لا يعود" کو بیان کرنے میں رحمته اللہ علیہ منفرد نہیں ہیں کہ اسے ان کا اضافہ کہا جائے بلکہ نسائی رحمته اللہ علیہ کی روایت میں عبد اللہ بن مبارک رحمته اللہ علیہ بھی سفیان ثوری رحمته اللہ علیہ سے "ثم لا يعود" کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں

معاویہ بن ہشام رضی اللہ عنہ، خالد بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے "ثم لا يعود" کے ہم معنی الفاظ نقل کرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس لفظ کے بیان کرنے میں وکیع رضی اللہ عنہ منفرد اور اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے (باستثناء خالد بن عمر رضی اللہ عنہ) لائق اعتبار وقوی متابع موجود ہیں۔ تو پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ لفظ خود وکیع رضی اللہ عنہ کا اپنی جانب سے اضافہ ہے؟

نیز امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کا کتاب العلل میں یہ کہنا کہ وکیع رضی اللہ عنہ سے ان کے مشابہیر تلامذہ مثلاً امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، ابوبکر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ اور ابن نمیر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر یہ مشابہیر "ثم لا يعود" کے لفظ کو ذکر نہیں کرتے۔ لہذا یہ زیادتی غیر محفوظ ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ بھی خلاف واقع ہے کیونکہ مسند احمد میں امام احمد رضی اللہ عنہ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ دونوں وکیع رضی اللہ عنہ سے "فلم يرفع يديه الا مرة" کے الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ "ثم لا يعد" یا "ثم لا يعود" کے ہم معنی ہی ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور ابوبکر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ کے متابع ابوداؤد میں عثمان بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ، ترمذی میں بناد بن السری رضی اللہ عنہ، سنن نسائی میں محمود بن غیلان رضی اللہ عنہ اور شرح معانی الآثار میں نعیم بن حماد رضی اللہ عنہ اور یحییٰ بن یحییٰ رضی اللہ عنہ ہیں جو سب وکیع رضی اللہ عنہ سے "فلم يرفع يديه الا مرة" یا اسی کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث پر امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کا یہ اعتراض بھی بے معنی ہے۔

خود امام دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرِهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ»
فَقَالَ: يَزُويهِ عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ.
حَدَّثَ بِهِ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ النَّهْشَبِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

و كذلك رواه ابن إدریس، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَفِيهِ لَفْظَةٌ لَيْسَتْ بِمُحْفُوظَةٍ، ذَكَرَهَا أَبُو حُدَيْفَةَ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهِيَ قَوْلُهُ: "ثُمَّ لَمْ يَعُدْ".

(العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 5 ص 141 تا 143 رقم 804. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمته الله (المتوفى: 385 هـ). تحقيق وتخریج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. الناشر: دار طيبة - الرياض. الطبعة: الأولى 1405 هـ - 1985 م)

ترجمہ امام دارقطنی رحمته الله سے حدیث علقمة عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ پس پہلی مرتبہ رفع یدین کیا۔ پھر دوبارہ نہیں کیا۔“ یہ روایت عاصم بن کلب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة سے مروی ہے، سفیان ثوری رحمته الله اس کو عاصم رحمته الله سے روایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عاصم بن کلب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن علقمة عن عبد الله روایت کی ہے۔ اور اسی طرح عبد اللہ بن ادریس رحمته الله نے عاصم بن کلب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله روایت کی ہے۔ اور اس میں ایک لفظ: "ثُمَّ لَمْ يَعُدْ" ہے جو کہ محفوظ نہیں جو کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں سفیان ثوری رحمته الله سے روایت کیا ہے۔ امام دارقطنی رحمته الله کی تحقیق سے چند اہم نکات واضح ہو گئے۔

3 امام دارقطنی رحمته الله کا حدیث کی تصحیح کرنا

امام دارقطنی رحمته الله نے اس حدیث کے بارے میں اسنادہ صحیح کے الفاظ لکھے۔ معلوم ہوا کہ امام دارقطنی رحمته الله کے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور قابل حجت ہے۔

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی متابعت

امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے دو (۲) متابعت نقل کیے ہیں:

۱۔ امام ابو بکر رضی اللہ عنہ ۲۔ عبد اللہ بن ادریس رضی اللہ عنہ

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے دو متابعت کی وجہ سے یہ حدیث بالکل صحیح اور قابل احتجاج ہے۔ زبیر علی زئی صاحب غیر مقلد لکھتے ہیں: مدلس کی اگر معتبر متابعت ثابت ہو جائے تو اس کی روایت قوی ہو جاتی ہے (نور العینین ص ۱۳۹)۔ اس میں امام دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ جس طرح عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن ادریس رضی اللہ عنہ بھی عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ متفرد نہیں۔ اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ صرف ثم لم یعد محفوظ نہیں۔ اس کی بحث اوپر کر دی گئی ہے۔ اس عبارت سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا تفرد بھی باطل ہو گیا۔ جب تفرد باطل ہے تو غیر محفوظ ہونے کا دعویٰ صحیح نہ رہا۔

6.3: حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

حدیث نمبر 29: - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرَّمِيُّ وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ،

وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو فِي آخِرِينَ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهَمَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "حَدَوْ

مَنْكَبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا

يَرْفَعُهُمَا." وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ." وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

(مستخرج أبي عوانة، المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

النيسابوري الإسفراييني رضي الله عنه (المتولى: 3 1 6 هـ) تحقيق: أمين بن عارف

الدمشقي. الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: الأولى 1419 هـ - 1998 م)

(مسند ابی عوانہ ج ۱ ص ۳۳۳ رقم الحدیث: ۱۲۵۱، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۴۲۲ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، تب تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھاتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔

فائدہ امام ابو عوانہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے مرکزی راوی سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ تک اس حدیث کی چار سندیں ذکر کی ہیں۔ چوتھی سند امام بخاری کے استاد حمیدی رضی اللہ عنہ کی ہے۔

یہ حدیث صحیح، مرفوع اور ترک رفع یدین پر صریح ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک رفع یدین روایت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اپنے عمل کے مطابق ہے یعنی آپ رضی اللہ عنہما خود بھی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو افتتاحِ صلوٰۃ کے سوا کبھی رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم ۲۳۶۷؛ طحاوی رقم ۱۳۲۳؛ مؤطا امام محمد رقم ۱۰۸)
تو جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اپنے عمل کے مطابق ہے۔ اسے تو غیر مقلدین رد کرتے ہیں اور جس حدیث میں خود ان کا اپنا عمل نہیں تھا، اس کو مانتے ہیں۔ غیر مقلدین اس حدیث کو رد کرنے کے لیے غلط بہانے بناتے ہیں۔

6.3.1۔ مسند ابی عوانہ کی روایت کی تحقیق

اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور نہ ہی آج تک کسی راوی پر طعن منظر عام پر آسکا ہے۔ لہذا اس سند کے راویوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے اعتراضات کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔

اعتراض غیر مقلد زبیر علی زئی نور العینین ص ۸۰ پر لکھتا ہے۔

”بعض نا سمجھ لوگوں نے“ لَا يَزْفَعُهُمَا کو پچھلی عبارت لگا دیا..... مسند ابی عوانہ کے مطبوعہ نسخہ سے عملاً یا سہواً ”واؤ“ گرائی گئی ہے یا گر گئی ہے۔ یہ ”واؤ“ مسند ابی عوانہ کے قلمی نسخوں اور صحیح مسلم وغیرہما میں موجود ہے۔ (علامہ سید احسان اللہ شاہ الراشدی پیر آف جھنڈا کے نسخہ میں یہ ”واؤ“ موجود ہے بلکہ مدینہ طیبہ کے نسخے میں بھی ”واؤ“ موجود ہے۔ والحمد للہ)

جواب مسند ابی عوانہ جب ہندوستان سے شائع ہوئی تو اس میں لَا يَزْفَعُهُمَا سے قبل ”واؤ“ نہ تھی۔ جس پر یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ حنفی ناشرین نے تحریف کی ہے یا عمداً یا سہواً گرا دی ہے۔ مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حنفی ناشرین نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ مسند ابی عوانہ دارالمعرفۃ بیروت لبنان سے محقق ایمن بن عارف دمشقی کی تحقیق سے بھی شائع ہوئی۔ اس میں بھی لَا يَزْفَعُهُمَا سے پہلے ”واؤ“ موجود نہیں ہے۔ پھر مسند ابی عوانہ دارالکتب العلمیۃ بیروت سے ابوعلی النظیف کی تحقیق سے شائع ہوئی مگر اس میں بھی لَا يَزْفَعُهُمَا سے پہلے ”واؤ“ موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ تو ثابت ہو گیا کہ تمام طبع شدہ ایڈیشن میں ”واؤ“ موجود نہیں ہے جبکہ یہ تینوں ایڈیشن مختلف محققین کی علیحدہ علیحدہ تحقیق ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ لَا يَزْفَعُهُمَا کا تعلق پچھلی عبارت ... واذا اراد ان یرکع و بعد ما یرفع رأسه من الرکوع سے ہے یا اگلی عبارت وقال بعضهم ولا یرفع بین السجدةین ... کے ساتھ ہے یعنی سادہ الفاظ میں مطلب یہ کہ لَا يَزْفَعُهُمَا کا تعلق پچھلی عبارت رکوع میں جاتے یا آتے ہوئے رفع الیدین کی نفی کے ساتھ ہے یا اگلی عبارت سجدوں کے درمیان کے رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ غیر مقلد زبیر علی زئی کا اعتراض یہ ہے کہ لَا يَزْفَعُهُمَا کا تعلق اگلی عبارت یعنی سجدوں میں رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ مگر غیر مقلد زبیر علی زئی کی بات غلط ہے۔ کیونکہ ان کے دعویٰ کا ساتھ نہ تو طبع شدہ مسند ابی عوانہ کے مختلف ایڈیشن دے رہے ہیں اور نہ ہی قلمی مخطوطات۔ اس کی تفصیلی تحقیق مندرجہ ذیل ہے:

مسند ابی عوانہ بتحقیق ایمن بن عارف دمشقی طبع دارالمعرفۃ بیروت (ج ۱ ص ۴۲۳)

میں صرف لَا یَزْفَعُهُمَا ہے اور لَا یَزْفَعُهُمَا کے بعد (-) ہے اور یہ (-) ڈیش کا نشان وقف کی علامت ہے اور اس وقف کی علامت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لَا یَزْفَعُهُمَا کا تعلق پچھلی عبارت رکوع کو جاتے اور رکوع سے آتے ہوئے کے ساتھ ہے۔

2 مسند ابی عوانہ بتحقیق ابوعلیٰ نظیف طبع دارالکتب العلمیہ ۲/۳۳۲ پر بھی صرف لَا یَزْفَعُهُمَا ہے اور یہ واضح کر رہا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی عبارت سے ہے اس نسخہ کا عکس ملاحظہ کیجئے۔

3 رہا مخطوطات میں ”واو“ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر لَا یَزْفَعُهُمَا کے ساتھ ”واو“ مخطوطات میں موجود ہو بھی تو پھر بھی غیر مقلد زبیر علی زئی کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ زبیر علی زئی نے نور العینین ص ۷۹ پر مسند ابی عوانہ سندھی مخطوطے کا عکس لگایا ہے۔ اگر آپ اس نسخہ کو ملاحظہ کریں تو آپ کے مشاہدے میں بات آئے گی کہ لَا یَزْفَعُهُمَا کے بعد گول دائرہ (o) موجود ہے اور مخطوطات اور علم حدیث کے ماہرین یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گول دائرہ (o) وقف کی علامت ہوتا ہے۔ اور جب لَا یَزْفَعُهُمَا کے بعد گول دائرہ (o) علامت وقف موجود ہے تو پھر اس کا تعلق تو پہلے عبارت کے ساتھ ہوا، نہ کہ بعد والی عبارت کے ساتھ۔ لہذا ”واو“ موجود ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

زبیر علی زئی نے نور العینین ص ۷۸ پر مسند ابی عوانہ کا جو مدینہ المنورہ کے نسخہ کا عکس دیا ہے تو یہ غالباً میری تحقیق کے مطابق مسند ابی عوانہ کا نہیں بلکہ مختصر ابی عوانہ کا نسخہ ہے۔ لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ مختصر ابی عوانہ کو مسند ابی عوانہ کے طور پر پیش کیا جائے۔

محترم جناب فیصل خان (آف راو پنڈی) کے پاس مسند ابی عوانہ کا ایک قدیم قلمی نسخہ موجود ہے جو کہ قدیم نسخہ ضیاء المقدسی کے قلمی نسخے سے تقابل شدہ ہے اور یہ نسخہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں نمبر ۲۹۵۳ کے تحت موجود ہے۔ اس نسخہ کے ص ۲۳۵ قلمی پر بھی لَا یَزْفَعُهُمَا کے بعد گول دائرہ (o) موجود ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ گول دائرہ (o) جو وقف کی علامت ہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لَا یَزْفَعُهُمَا کا

تعلق صرف اور صرف پچھلی عبارت رکوع کو جاتے اور رکوع سے آتے ہوئے کے ساتھ ہے۔ لہذا اس مندرجہ بالا تحقیق سے واضح ہو گیا کہ یہ حدیث ترک رفع الیدین کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا اعتراض فضول اور غلط ہے۔ اور معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ترک رفع الیدین کی حدیث بالکل صحیح اور ثابت ہے۔

تنبیہ
حال ہی میں یہ کتاب غیر مقلدین کی تحقیق سے سعودی عرب سے بیس (20) جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں یہ حدیث اس طرح درج ہے۔ اس کی بنیاد ایک مخطوطے کو قرار دیا گیا ہے۔

حدثنا عبد الله بن أيوب البخري، وسعدان بن نصر، وشعيب بن عمرو في آخرين قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بها -وقال بعضهم: - حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفعها، -وقال بعضهم: - ولا يرفع بين السجدين. والمعنى واحد.

(المسند الضحيح المخرج على صحيح مسلم، ج ٢ ص ٣١٢ رقم 1616. المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (المتوفى 316 هـ). تحقيق: الجزء 3، 4 الدكتور بابا إبراهيم الكبيروني. تنسيق وإخراج: فريق من الباحثين بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية. الناشر: الجامعة الإسلامية. المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى 1435 هـ. 2014 م)

حدیث نمبر 30: - حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

(مسند الحميدى، ج ١ ص ٥١٥ رقم 626. المؤلف: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى

بن عبید اللہ القرشی الأسدی الحمیدی المکی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۲۱۹ھ) حق نصوصہ
وخرج أحادیثہ: حسن سلیم أسد الدارانی. الناشر: دارالسقا. دمشق، سوريا.
الطبعة: الأولى ۱۹۹۶ء)

(مسند حمیدی ج ۲ ص ۲۷۷، حدیث نمبر ۶۱۴ مطبوعہ بیروت، لبنان)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تب تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے،
اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے۔
اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔

فائدہ مستخرج صحیح ابوعوانہ (جو محدثین کے یہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرح کتب صحاح
میں شمار ہوتی ہے) اور امام بخاری رضی اللہ عنہما کے اہم ترین استاد امام حمیدی رضی اللہ عنہما کی مسند
میں مذکور یہ حدیثیں سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں۔ نیز علت و شد و ذ سے بھی
بری ہیں۔ اور ترک رفع یدین میں صریح ہیں۔

حدیث نمبر 31:- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشُّعَيْبِيُّ الْعَدْلِيُّ،
حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ مِنْ حِفْظِهِ بِبَغْدَادَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ خَالِدِ الْبَرَائِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْخُرَّازِ، ثنا مَالِكُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ".

(الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ج ۲ ص ۳۸۶ رقم 1758
المؤلف: أبو بكر البيهقي (384 هـ - 458 هـ). تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي
بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال. الناشر: الروضة
للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولى، 1436 هـ -
2015 م)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز شروع کرتے تھے، تو رفع یدین کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 32: - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ لِلصَّلَاةِ".

(المدونة، ج 1 ص 125، 126. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني رحمته (المتوفى: 179 هـ). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى 1415 هـ - 1994 م)

(مدونہ کبریٰ ج 1 ص 29 مطبوعہ مصر: المدونۃ الکبریٰ ج 1 ص 125 طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت 1326ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے۔"

فائدہ مذہب مالکی کی عظیم و معتبر ترین کتاب "المدونۃ الکبریٰ" میں یہ حدیث ترکِ رفعِ یدین میں پیش کی گئی ہے۔ جس کے راوی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ابن وہب ہیں۔ نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے فاضل شاگرد ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔

یہ سند بھی اصح الاسانید ہے۔ اس میں صرف افتتاحِ صلوة کے وقت رفعِ یدین کا ذکر ہے۔ اور اسی حدیث کی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ترکِ رفعِ یدین رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا مسلک اختیار کیا ہے۔ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد رفعِ یدین کا ذکر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں۔ صحیح ابوعمرانہ اور مسند حمیدی میں اس کی صراحت گزر چکی ہے۔ یہ حدیث ترکِ رفعِ یدین پر دلیل ہے۔

6.3.2: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مدونہ الکبریٰ سے

استدلال

مدونہ الکبریٰ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں متعدد مقامات پر اس سے استدلال کیا ہے۔

(ملاحظہ کیجئے: فتح الباری ج ۱ ص ۲۳۳، ۲۹۰، ۳۰۵؛ فتح الباری ج ۲ ص ۲۹، ۳۰۴، ۴۴۹، ۵۴۳؛ فتح الباری ج ۳ ص ۸۲، ۸۷، ۳۹۰، ۵۱۴؛ فتح الباری ج ۴ ص ۱۶۶، ۲۶۶؛ فتح الباری ج ۵ ص ۲۸۸؛ فتح الباری ج ۷ ص ۱۶؛ فتح الباری ج ۸ ص ۳۶۷، ۴۵۰؛ فتح الباری ج ۹ ص ۶۳۲؛ فتح الباری ج ۱۰ ص ۲۹۸، ۵۸۵؛ فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۴۳؛ فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۴۸)۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (المتوفى ۸۵۲ھ)۔ الناشر: دار المعرفة، بيروت، ۱۳۷۹ھ۔ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب)

6.4: حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 33: - حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنْطَاظِ، وَعَبْدُ

الْوَهَّابِ بْنُ عَيْسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: نَا إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نَا مُحَمَّدُ

بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ

الصَّلَاةِ. قَالَ إِسْحَاقُ: بِهِ نَأْخُذُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا.

(سنن الدارقطني، ج ۲ ص ۵۲، ۵۳ رقم 1133. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد

بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى

٣٨٥هـ). حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

□ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ". وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: "فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى".

(مسند أبي يعلى، ج ٨ ص ٨٥٣ رقم الحديث 5039. المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التيمي، الموصلي رحمه الله (المتوفى ٣٠٠هـ). المحقق: حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق. الطبعة: الأولى، ١٤٠٢هـ.)

(معرفة السنن والآثار، ج ٢ ص ٢٢٢ رقم 3286. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُشْرُوْجِرْدِي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمه الله (المتوفى ٣٥٨هـ). المحقق: عبد المعطى أمين قلعي. الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، دار قتيبة، دمشق، بيروت، دار الوعي، حلب، دمشق، دار الوفاء، المنصورة، القاهرة. الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ.)

(السنن الكبرى، ج ٢ ص ١١٣ رقم 2534. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُشْرُوْجِرْدِي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمه الله (المتوفى ٣٥٨هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٤٢٢هـ.)

□ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ". وَقَدْ قَالَ مُرَّةٌ: "فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى". قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنْفِيُّ الْيَمَامِيُّ وَقَدْ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ، وَكَانَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ".

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ٢ ص ١٠١ رقم 2581. المؤلف: أبو الحسن نور الدين

علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ (توفی ۸۰ھ) المحقق: حسام الدین القدسی. الناشر: مكتبة القدسی، القاهرة ۱۳۱۲ھ

ترجمہ حضرت محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ، حماد رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ وہ تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

6.4.1: حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر تحقیقی بحث

اس حدیث میں رفع یدین کے دونوں پہلوؤں، نفی اور اثبات، کو اپنایا گیا ہے۔ یعنی صرف تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کرتے تھے اور کسی وقت نہیں کرتے تھے۔ پھر اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہی مذکور نہیں ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آخر تک جاری رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہدِ خلافت میں اپنایا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا۔ یعنی نماز کا یہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری طریقہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر گئے اور پھر اسی طریقہ پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ طریقہ سنتِ قائمہ ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں ترکِ رفع یدین اتنا مضبوط ہے کہ کبھی تو نماز کا نقشہ کھینچ کر اس میں ترکِ رفع یدین کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاتے ہیں اور کبھی نقشہ کھینچے بغیر اسے سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتے ہیں اور کبھی اس سے ترقی کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت بھی قرار دیتے ہیں۔

6.4.2: تعدیل و توثیق محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح حدیث

یہ حدیث محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہے، جو صدوق (سچے) تھے، مگر نابینا 1

ہو گئے تھے۔ اس لیے ان کی احادیث میں اختلاط ہو گیا تھا۔

علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

2

وكان إسحاق يفضل مُحمَّد بن جابر على جماعة شيوخهم أفضل مِنْهُ وأوثق وقد روى عن مُحمَّد بن جابر كما ذكرت من الكبار أيوب، وابن عون، وهشام بن حسان والثوري، وشعبة، وابن عُيَينة وغيرهم ممن ذكرتهم ولولا أن مُحمَّد بن جابر في ذلك المَحَل لم يرو عنه هؤلاء الذين هُوَ دونهم.

(الكامل في ضعفاء الرجال، ج 4 ص 322 رقم الترجمة 1646. المؤلف: أبو أحمد بن عدی الجرجاني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى 325هـ). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود على محمد معوض. شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة. الناشر: الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، 1318هـ)

علامہ زبیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَأَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عَدِيٍّ: كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ يُفَضِّلُ مُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ عَلَى جَمَاعَةِ شُيُوخِهِمْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَأَوْثَقُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مِنَ الْكِبَارِ: أَيُّوبُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَمْ يَرَوْا عَنْهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُوَ دُونَهُمْ

(نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الأملعي في تخریج الزيلعي، ج 1 ص 394. المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 762هـ). قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُورِيُّ صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجانى، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفورى المحقق: محمد عوامة الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية الطبعة: الأولى، 1418هـ/1997م)

ترجمہ بہترین قول ابن عدی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ کو مشائخ کی ایک جماعت پر فضیلت دیتے تھے حالانکہ وہ مشائخ ان سے توثیق اور مرتبہ کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے محدثین کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کی ہے (جیسے) ایوب رضی اللہ عنہ، ابن عون رضی اللہ عنہ، ہشام بن حسان رضی اللہ عنہ، ثوری رضی اللہ عنہ، امام شعبہ رضی اللہ عنہ، ابن عیینہ رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اگر وہ سچے نہ ہوتے تو یہ بزرگ ہستیاں ان سے روایت نہ کرتیں کیونکہ مرتبہ کے لحاظ سے وہ ان سے کم ہیں۔

3 دارقطنی میں ہے کہ اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”پوری نماز میں ہمارا عمل اسی حدیث پر ہے۔“

اس تصریح سے واضح ہوتا ہے کہ یہ روایت محمد بن جابر رضی اللہ عنہ کے اختلاط سے پہلے زمانے کی ہے۔ اس لیے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

4 علاوہ ازیں اس حدیث کا مضمون متواتر روایات سے ثابت ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی عاقل اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ مضمون بھی متواتر ہے۔

5 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات میں مختلف طرق اور اسانید سے یہ مضمون مروی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ دکھایا، اور اس میں رفع یدین نہیں فرمایا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب سے ایک روایت بھی اس کے خلاف مروی نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی سنت تو رفع یدین ہو اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اس سنت کو ترک کر دیں۔ پس جب محمد بن جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے دونوں مضمون متواتر سے ثابت ہیں، تو اس حدیث کے ثبوت میں کیا شبہ ہے؟

6 جب محمد بن جابر رضی اللہ عنہ ثقہ، صدوق اور صحیح الحدیث ہے تو اس کی حدیث بھی مقبول ہونی

چاہیے۔ البتہ تخیل فی الحدیث اور سوء حفظ کے باعث حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن محدثین کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ اگر مختلف الحدیث راوی سے کوئی ثقہ راوی اختلاط سے پہلے روایت کرے یا اس راوی کی حدیث کو ثقہ راوی قابل اعتماد سمجھ کر عمل کرے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ چنانچہ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ سے ثقہ راوی اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "وَبِهِ نَأْخُذُ" (سنن الدارقطنی ج ۲ ص ۵۲، ۵۳ رقم 1133)۔ ہمارا بھی اسی روایت ترک رفع یدین پر عمل ہے۔

علامہ محمد انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

7

"قلت: قد أخذ به اسحق راويه فيعتبر"۔

(نَيْلُ الْفَرْقَدَيْنِ مَعَ حَاشِيَتِهِ بَسْطُ الْيَدَيْنِ فِي مَسْئَلَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ص ۹۴ - المُولف:

محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي رحمته (المتوفى: 1353 هـ) - الناشر:

المجلس العلمي، كراتشي - باكستان. الطبعة: الثالثة - 1424 هـ - 2004 م)

ترجمہ میں کہتا ہوں: حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ نے اس روایت پر عمل کیا ہے تو یہ روایت معتبر سمجھی جائے گی۔

8 نیز یہ روایت اس مسئلہ میں کوئی اکیلی نہیں ہے کہ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ پر وہم کا الزام لگایا جائے بلکہ بہت سی صحیح و صریح احادیث ترک رفع یدین کی موجود ہیں۔

9 اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ دو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل ترک رفع یدین کی مہر تصدیق ثبت نظر آ رہی ہے۔ جس سے اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔

10 امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے ایک راوی محمد بن جابر رضی اللہ عنہ کو ضعیف کہا ہے۔ علامہ علاء الدین بن علی عثمان ماردینی المشہور ابن ترکمانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب "الجوہر النقی علی البیہقی" میں امام بیہقی رضی اللہ عنہ کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلت: ذکر ابن عدی: ان اسحاق یعنی ابن ابی اسرائیل کان یفضل محمد

ابن جابر علی جماعۃ شیوخ ہم افضل منہ واوثق۔ وقد روی عنہ من الکبار مثل ایوب وابن عون وهشام بن حسان والسفیانین وشعبۃ وغیرہم۔ ولولا انہ فی ذلک المحل لم یرو عنہ مثل هؤلاء الذین ہو دونہم۔ وقد خالف فی احادیث ومع ما تکلم فیہ من تکلم یکتب حدیثہ۔ وقال الفلاس: صدوق وادخلہ ابن حبان فی الثقات۔

(الجوہر النقی علی سنن البیہقی، ج ۲ ص ۷۸ المؤلف: علاء الدین علی بن عثمان بن ابراہیم بن مصطفی الماردینی، أبو الحسن، الشهیر بابن الترمذی (المتوفی ۵۰۷ھ)۔ الناشر: دار الفکر)

ترجمہ میں کہتا ہوں: ”امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام اسحاق یعنی ابن ابی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کو شیوخ کی ایسی جماعت پر فضیلت دیتے تھے جو ان سے افضل اور اوثق ہے۔ کبار محدثین مثلاً امام ایوب رحمۃ اللہ علیہ، ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، ہشام بن حسان رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔ تو اگر محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فائز نہ ہوتے تو یہ جلیل القدر امام ان سے کبھی روایت نہ کرتے۔ امام ابن فلاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ سچا ہے یعنی جھوٹ نہیں بولتا۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کو ثقات میں داخل کیا ہے۔

11 بعض محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے جو محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخر میں نابینا ہو گئے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ میں خرابی پیدا ہو گئی تھی اور پھر تلقین کو قبول کر لیتے تھے۔ ورنہ سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔

12 چنانچہ علامہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”محمد بن جابر الیمامی وهو صدوق ولكنہ كان أعمى واختلط عليه حدیثہ وكان یلقن۔“ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۰۱ رقم 2581)

ترجمہ محمد بن جابر یمامی رحمۃ اللہ علیہ سچا ہے لیکن نابینا ہو گئے تھے تو حدیث ان پر خلط ملط ہو گئی اور تلقین کو قبول کر لیا کرتے تھے۔

”وقد وثقه غير واحد“ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۹۵ رقم 7568)

ترجمہ بہت سے محدثین کرام رضی اللہ عنہم نے محمد بن جابر رضی اللہ عنہ کی توثیق کی ہے۔

13 حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

محمد ابن جابر ابن سیار ابن طارق الحنفی الیمامی أبو عبد الله أصله من الكوفة صدوق ذهب كتبه فساء حفظه وخط كثيرا وعمى فصار يلقن ورجه أبو حاتم علي ابن لهيعة۔

(تقريب التهذيب، ص ۷۱ رقم 5777. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني رضی اللہ عنہ (المتوفى: 852ھ). المحقق: محمد عوامة. الناشر: دار الرشيد - سوريا. الطبعة: الأولى، 1406-1986)

ترجمہ ”محمد بن جابر بن سیار بن طارق حنفی یمامی، ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ کوفہ کا رہنے والا ہے۔ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی کتابیں ضائع ہو گئیں تھیں۔ حافظہ میں خرابی ہو گئی تھی۔ تلقین قبول کر لیتا تھا۔ امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ نے محمد بن جابر رضی اللہ عنہ کو ابن لہیعہ رضی اللہ عنہ پر ترجیح دی ہے۔“

14 علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وفي الجملة قد روى عن محمد بن جابر أئمة وحفاظ.

(میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج ۳ ص ۲۹۸ رقم 7301. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی رضی اللہ عنہ (المتوفى ۳۸۸ھ). تحقیق: علی محمد البجاوی. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۳۸۲ھ)

ترجمہ حضرت محمد بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے بڑے امام اور حفاظ حدیث ہیں۔

15 محدث ابن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قَالَ الشَّيْخُ: وَلِمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ وَعِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ كِتَابُ أَحَادِيثِ صَالِحَةٍ۔

(الكامل في ضعفاء الرجال، ج ۷ ص ۳۲۲ رقم الترجمة 1646. المؤلف: أبو أحمد بن

عدی الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ (التوفی ۳۶۵ھ) تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود علی محمد معوض. شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة. الناشر: الكتب العلمية. بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۸ھ)

ترجمہ محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حدیثیں اور بھی ہیں جو میں نے ذکر نہیں کیں۔ اسحاق بن ابی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی جس میں صحیح حدیثیں موجود ہیں۔

16 دوسری جگہ فرماتے ہیں:

حَدَّثَنَا ابْنُ حَمَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، وَهُوَ يَحْدُثُ بِمَكَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانَ وَسَتِينَ وَمِئَةَ فِقَالَ حَدَّثَ يَأْشِيخَ مِنْ كِتَابِكَ قَالَ مِنْ هَذَا قِيلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِكِتَابِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَسْأَلُهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَادٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ سَأَلْتُهُ.

(الكامل في ضعفاء الرجال، ج ۷ ص ۳۳۱ رقم الترجمة 1646. المؤلف: أبو أحمد بن عدی الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ (التوفی ۳۶۵ھ) تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علی محمد معوض. شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة. الناشر: الكتب العلمية. بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۸ھ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ۱۶۸ھ میں مکہ مکرمہ آئے، جب حضرت محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے تو حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے شیخ! اپنی کتابوں سے حدیث بیان کریں۔ تو محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابیں عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیں۔ اور محدث عبد الرحمن (بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ) محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پوچھتے تھے اور عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے۔

پس معلوم ہوا کہ حضرت محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں جو ان کی کتابوں میں ہیں وہ صحیح

ہیں اور جو حافظہ سے ہیں ان میں گڑبڑ ہے اور حماد رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی صحیح ہے کیونکہ عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ سے حماد رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں سوال کرتے تھے اور عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ یہ خاموشی رضا کی دلیل ہے۔ پس یہ حدیث ترک رفع یدین کی ان احادیث میں سے ہے جو امام اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ کے پاس محمد بن جابر رضی اللہ عنہ کی کتاب میں سے تھی۔ اور اس میں صحیح حدیثیں تھیں۔ اس لیے محدث اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وبہ نأخذ۔۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۵۳ رقم 1133)

ترجمہ اور ہم بھی ترک رفع یدین پر عمل کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: 17

قال وسئل أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة فقال مقلها الصدق.
ومحمد بن جابر أحب إلي من ابن لهيعة....

وقال الذهلي لا بأس به.... وقال الدارقطني هو وأخوه يتقاربان في
الضعف. قيل له يتركان فقال لا بل يعتبر بهما.

(تهذيب التهذيب، ج ۹ ص ۸۹، ۹۰، رقم 116. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد
بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمته الله (المتوفى: 852 هـ). الناشر: مطبعة دائرة المعارف
النظامية، الهند. الطبعة: الطبعة الأولى، 1326 هـ)

ترجمہ ”ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے باپ سے محمد بن جابر رضی اللہ عنہ اور ابن لہیعہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو میرے باپ نے کہا: مقام دونوں کا صدق ہے۔ یعنی دونوں ہی سچے ہیں لیکن ابن لہیعہ رضی اللہ عنہ کی نسبت مجھے محمد بن جابر رضی اللہ عنہ زیادہ پیارا ہے۔

حافظ صاحب رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں: امام ذہلی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: لا بأس به۔ یعنی اس کی قبول حدیث میں کوئی حرج نہیں۔ دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وہ اور اس کا بھائی قریب ہے کہ ضعیف ہوں۔ امام دارقطنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: کیا یہ متروک ہیں۔ تو دارقطنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں، بلکہ یہ دونوں معتبر ہیں (یعنی لائق احتجاج ہیں)۔

امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ اس روایت میں اکیلا ہے اور وہ ضعیف 18

ہے۔ دارقطنی کی دونوں باتیں غلط ہیں۔ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ اس روایت میں اکیلا نہیں بلکہ سند مناظرہ میں امام اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں۔ سند یہ ہے:

أبو حنيفة حدثنا حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم عن علقمة وأسود عن عبد الله بن مسعود. (مسند امام اعظم رقم ۹۶ طبع مکتبۃ البشری، کراچی) اور اس حدیث کی سند ہے:

عن محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ.

معلوم ہوا کہ دارقطنی رضی اللہ عنہ کی یہ بات ناواقفیت پر مبنی ہے۔ دوسری بات کہ دارقطنی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ ضعیف ہے۔ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ہم استاذ ہے۔ امام صاحب رضی اللہ عنہ کا اس کی کتاب پر اعتماد کرنا اس کے ثقہ ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ پھر محمد بن جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ کا اس اجماع کو ذکر کرنا کہ ہم سب اسی حدیث کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، دلیل ہے کہ اس زمانہ میں اس حدیث کی صحت پر اجماع تھا۔ کسی ایک بھی محدث نے اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ کے قول کو رد نہیں کیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ محمد بن جابر رضی اللہ عنہ، سفیان رضی اللہ عنہ اور شعبہ رضی اللہ عنہ جیسا حافظ تھا جیسا کہ خود اس کے شاگرد اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے (الکامل)۔ آخر عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس لیے آخر عمر میں محدثین نے ضعف حافظہ کی وجہ سے انہیں ضعیف کہا ہے۔ ایسے راوی کی حدیث کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں حدیث حافظہ کمزور ہونے سے پہلے دور کی ہے۔ تو اس حدیث کے صحیح ہونے میں ذرا بھر شک نہیں ہوگا اور یا اس کا متابع مل جائے تو بھی حدیث صحیح ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا۔ وجہ یہی بتائی ہے کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی (البقرہ: ۲۸۲)۔ اس حدیث میں دونوں باتیں ثابت ہیں۔ کیونکہ محدث اسحاق بن ابی اسرائیل رضی اللہ عنہ اس زمانہ کے شاگرد ہیں جب اس کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ بلکہ تمام

معاصرین نے خاص طور پر اس کی حدیث کو قبول کیا ہے اور دوسری بات بھی ثابت ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ ہیں۔

اگر محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ روایت کے قابل نہ ہوتے، تو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ہرگز ان سے روایت نہ لیتے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت حدیث کے بارے میں بہت محتاط تھے۔

19

وَقِيلَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدَىٰ وَلِشُعْبَةَ لِمَا تَرَكْتُمَا حَدِيثَ حَكِيمٍ قَالَا نَخَافُ النَّارَ.

(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم ج ۱ ص ۱۲۲، ۱۲۳. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۷۱۷ھ). طبع: دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة الثانية، ۱۳۹۲ھ)

حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا: ”آپ حکیم (اسدی گوفی متشیخ) راوی سے روایت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا: ”آگ کے خوف سے“۔

کسی نے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابان بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیوں نہیں کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أقول حدثنا أبان بن أبي عياش .

(میزان الاعتدال فی نقد الرجال ج ۱ ص ۱۰ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۷۴۸ھ). تحقیق: علی محمد البجاوی. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۳۸۲ھ)

ترجمہ ”میں گدھے کا پیشاب پی لوں یہاں تک کہ سیر ہو جاؤں تو مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں حدثنا أبان بن أبي عياش کہوں“

اگرچہ بعض حضرات نے محمد بن جابر رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی ہے لیکن اسے ثقہ اور صدوق کہنے والے بھی موجود ہیں۔ لہذا یہ حدیث اپنے متابعات کے ساتھ قابل استدلال ہے۔

20

21 محمد بن جابر رضي الله عنه کی روایت کو امام ترمذی رضي الله عنه نے سنن ترمذی (رقم ۸۵ باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر) میں بطور متابعت پیش کیا ہے۔
اسی طرح امام ابوداؤد رضي الله عنه نے بھی سنن ابوداؤد (رقم ۱۸۳) میں محمد بن جابر رضي الله عنه کی حدیث کو بطور متابعت پیش کیا ہے۔

علامہ البانی رضي الله عنه غیر مقلد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

(سنن ابی داؤد، تحقیق و تعلق علامہ ناصر الدین البانی رضي الله عنه ص ۱۳۳ رقم ۷۳۸۔ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض؛ صحیح سنن ابوداؤد رقم ۱۶۸۔۔۔۔۔ ۱۸۳)

امام بخاری رضي الله عنه اور مسلم رضي الله عنه کے استاذ الحدیث امام احمد بن حنبل رضي الله عنه نے محمد بن جابر رضي الله عنه کی سند سے آٹھ روایات درج کی ہیں (مسند احمد رقم ۱۵۸۵۳ تا ۱۵۸۶۰)۔

6.5: حدیث خلیفہ راشد حضرت علی رضي الله عنه

حدیث نمبر 34: رَوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ."

(المنتقى شرح الموطأ.. المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ). الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر. الطبعة: الأولى. 1332 هـ)

وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ كَلْبِ بْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ.

فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ يَزِيدِ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ.

وَاخْتَلَفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، وَاسْمُهُ لَا يَصِحُّ، فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْهُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ أَبِي، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَوَهُمَ فِي رَفْعِهِ.

وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ عَاصِمٍ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ النَّهْشَبِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا.

(العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج ۳ ص ۱۰۶ سوال نمبر 457. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمته (المتوفى ۳۸۵هـ). تحقيق وتخریج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. الناشر: دار طيبة. الرياض. الطبعة: الأولى ۱۴۰۵هـ)

قلت: انفراد برفعه عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة.

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں: ”آپ ﷺ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے۔ پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔“

تحقیق اس روایت کو مرفوع بیان کرنے والے حضرت عبد الرحیم بن سلیمان ہیں۔ آپ بالا جماع ثقہ راوی ہیں۔

عبد الرحيم بن سليمان البروزي بالكوفة عن هشام بن عروة وعاصم الاحول وعنه هناد وابن أبي شيبة ثقة حافظ مصنف توفي 187 ع.

(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، ج ۱ ص ۲۵۰ رقم 3356. المؤلف:

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمته (المتوفى

۳۸۸هـ). المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب. الناشر: دار القبلة

للثقافة الإسلامية. مؤسسة علوم القرآن. جدة. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳هـ)

ان کا اس روایت کو مرفوع بیان کرنا ایک زیادت ہے، اور جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک ثقہ کی زیادت مقبول ہے۔

وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ. (بخاری تحت رقم 1483)

أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَّةِ مَقْبُولَةٌ. (متدرک حاکم تحت رقم 370، 3956، 7566)

اگر حدیث کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہو جائے، تو فقہاء و محدثین خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث مرفوع قرار دی جاتی ہے۔

1
أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ الْمُخْتَارَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُعَدِّثِينَ وَصَحَّحَهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُتَّصِلًا وَبَعْضُهُمْ مُرْسَلًا أَوْ بَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا حُكِمَ بِالْمُتَّصِلِ وَبِالْمَرْفُوعِ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ ثِقَةٍ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ مِنْ كُلِّ الطَّوَائِفِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

2
أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَى مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُعَدِّثِينَ مِنْهُمْ الْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَاقِفُونَ أَكْثَرَ مِنَ الرَّافِعِينَ حُكِمَ بِالرَّفْعِ.

(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بنووي رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلد ج ۳ ص ۱۷؛ ج ۵ ص ۹۵. أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف النووي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۱۰۷۱ھ). طبع: دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة الثانية، ۱۳۹۲ھ)

6.5.1: حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مؤیدات

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو مرفوع بیان کرنے میں عبد الرحیم بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہے۔ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق ثقہ ہے۔ اس حدیث کی تائید امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل (طحاوی رقم ۱۳۲۰؛ مصنف ابن ابی شیبہ رقم ۲۳۵۷؛ موطا محمد رقم ۱۰۹) کے سند صحیح سے ثابت ہونے سے ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اصحاب علی رضی اللہ عنہ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم ۲۳۶۱) اور اجماع اہل کوفہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ امام محدث، بے مثال فقیہ، مجتہد حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

جاء الثبت عن علي بن أبي طالب رضی اللہ عنہ و عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ. أنهما

كانا لا يرفعان في شئ من ذلك الا في تكبيرة الافتتاح
(كتاب الحج ج ۱ ص ۹۴ طبع دار المعارف، لاہور)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑے مضبوط طریقے سے ثابت ہے کہ وہ سوائے تکبیر افتتاح کے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں کئی روایات میں مروی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر صرف حوالے ذکر کیے جاتے ہیں۔

۱ ایک روایت جس کو امام شافعی رضی اللہ عنہ کتاب الام ج ۱ ص ۹۶؛ مسند شافعی ج ۱ ص ۸۸؛ ابوداؤد طیالسی ج ۱ ص ۲۲؛ مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۱۵۵ (رقم ۲۸۷۶)، ص ۱۶۳ (رقم ۲۹۰۲، ۲۹۰۳)، ص ۱۶۴ (رقم ۲۹۰۴)؛ مسند احمد رقم ۷۳۱، ۸۰۵؛ مسلم ج ۱ ص ۲۶۳ رقم ۱۸۱۱؛ ابوداؤد ج ۱ ص ۱۱۲ رقم ۷۶۰؛ نسائی رقم ۸۹۷، ۱۰۵۰؛ ترمذی ج ۲ ص ۷۵ رقم ۳۴۲۱؛ ابوعوانہ ج ۲ ص ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۶۸، ۱۸۷، ۱۸۸ طبع ہند؛ ابن خزیمہ ج ۱ ص ۳۰۶؛ طحاوی رقم ۱۳۲۲؛ دارقطنی رقم ۱۱۲۲، ۱۱۲۳؛ بیہقی ج ۲ ص ۸۷ لائے ہیں، مگر اس میں رفع یدین کا نام و نشان تک مذکور نہیں۔

۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے اور اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ قرار دینے کا ذکر ہے۔ اس میں بھی صرف تکبیروں کا ذکر ہے۔ رفع یدین کا نام و نشان تک نہیں۔

(دیکھیے! ابوداؤد طیالسی ج ۱ ص ۱۱۱؛ عبد الرزاق ج ۲ ص ۶۳ رقم ۲۴۹۸؛ ابن ابی شیبہ رقم ۲۵۰۷؛ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۸ رقم ۱۹۳۳۹، ص ۲۴۰ رقم ۱۹۴۵۰؛ بخاری ج ۱ ص ۱۰۸ رقم ۷۸۴، ۷۸۶، ص ۱۱۴ رقم ۸۲۶؛ مسلم ج ۱ ص ۱۶۹؛ ابوداؤد ج ۱ ص ۱۲۱ رقم ۸۳۵؛ نسائی رقم ۱۰۸۲؛ ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۹۲؛ ابوعوانہ ج ۲ ص ۹۲؛ بیہقی ج ۲ ص ۶۸، ۱۳۴)

۳ اسی طرح امام مالک نے ایک تیسری سند سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی ہے (موطا امام مالک ص ۲۵، رقم ۲۰۱)۔ اس میں بھی رفع یدین کا نام و نشان تک نہیں، صرف تکبیرات ہیں۔

۴ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کا جو طریقہ روایت کیا ہے۔ اس میں بھی رفع یدین کا ذکر نہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۴۰ رقم ۲۴۹۹)

۵ پانچویں سند سے حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ روایت کیا ہے (احمد رقم ۳۰۰۷، بخاری رقم ۷۸۷)۔ اس میں بھی رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔

۶ چھٹی سند سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے (مسند احمد ج ۴ ص ۲۳۲ رقم ۱۹۳۸۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کا جو طریقہ نقل کیا ہے۔ اس میں بھی رفع یدین کا نام و نشان نہیں۔

۷ ساتویں سند سے بھی ابن ابی شیبہ (ج ۱ ص ۲۴۱ رقم ۲۵۰۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کا جو طریقہ نقل کیا ہے۔ اس میں بھی رفع یدین کا نام و نشان نہیں۔ صرف تکبیرات کا ذکر ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صرف ایک روایت میں رفع یدین کا ذکر ہے جس کا ایک راوی عبد الرحمن بن ابی الزناد رحمۃ اللہ علیہ ضعیف ہے۔ تاہم اگر دونوں کو مان لیا جائے تو اب فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اصحاب علی رضی اللہ عنہ اور اجماع اہل کوفہ سے ہو گیا کہ رفع یدین والی حدیث پر عمل جاری نہیں رہا۔ اس لیے رفع یدین سنت نہیں۔ ہاں ترک رفع یدین والی حدیث پر عمل جاری رہا۔ اس لیے کہ ترک رفع یدین ہی سنت ہے کیونکہ سنت کے لیے مواظبت ضروری ہے۔

(شرح جزء رفع یدین ص ۲۵۰ از مولانا محمد امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ)

6.6: حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 35: - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ الْمَعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ، قَالَ: أَتَانَا أَبُو هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ، قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ.

وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ. وَالسُّكُوتُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
قَالَ يَزِيدُ: "يَدْعُو وَيَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ".

إسناده صحيح على شرط الشيخين غير سعيد بن سمعان فقد روى له البخارى في
"القراءة خلف الإمام" وأصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة.

ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه أبو داود (753)، والنسائي 124/2، وابن خزيمة (460) و(473)، والبيهقي
195/2 من طريق يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسناد. واقتصر أبو داود على رفع
اليدين.

وأخرجه الطيالسي (2374)، والبخارى في "القراءة خلف الإمام" (279)،
والترمذي (240)، وابن خزيمة (459) و(460) و(473)، والطحاوي 195/1، وابن
حبان (1777)، والحاكم 234/1، والبيهقي 27/2 من طرق عن ابن أبي ذئب به.
وأخرجه مقتصراً على رفع اليدين متداً الترمذي (239)، وابن خزيمة (458)،
والبيهقي 27/2 من طريق يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب به. ولفظه: كان رسول
الله إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.

وسياتي برقم (10492) عن محمد بن عبد الله بن الزبير، عن ابن أبي ذئب.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 15 ص 152 رقم 9608. المؤلف: أبو عبد الله أحمد
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب
الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت سعید بن سمعان رحمته الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد بنو زریق میں
تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین چیزیں ایسی ہیں کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کرتے تھے اور لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز
میں داخل ہوتے تو خوب ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کرتے۔ اور (اس کے بعد) تھوڑی
دیر سکوت فرماتے۔ اور جب رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے
تھے۔“

حدیث نمبر 36: - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا قَامَ يَغْنِي إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا"

تحقیق

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرؤذى. وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري. وأخرجه الطيالسي (2562)، ومن طريقه البيهقي 27/2، وأخرجه الدارمي (1237) عن عبيد الله بن عبد المجيد، كلاهما (الطيالسي وعبيد الله) عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد

وسياتي برقم (10491) عن محمد بن عبد الله بن الزبير، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو.

وسياتي أيضاً برقم (9608) و(10492) ضمن حديث من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، فيكون لابن أبي ذئب فيه شيخان.

قوله: "رفع يديه مداً" قال السندی: أى: رفعاً بليغاً، وهو مصدر من غير لفظ الفعل كقعدت جلوساً، إلا أنه على الأول للنوع. وعلى الثاني للتأكيد.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 13 ص 362 رقم 8875. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے، تو خوب ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کرتے۔

فائدہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حدیثوں میں رفع یدین کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو اگر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین ہوتا تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بیان فرماتے۔ کیونکہ رکوع والی رفع یدین نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بس تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین بیان کی ہے اور اس کی نسبت آپ رضی اللہ عنہ نے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔

حضرت امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کو رکوع کے وقت ترکِ رفعِ یدین کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اور باب باندھا ہے: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع یعنی باب اس کے بیان میں جس نے سوائے نماز کے شروع کے رفعِ یدین کا ذکر نہیں کیا۔ تو اگر یہ حدیث ترکِ رفعِ یدین کی دلیل نہ ہوتی تو امام ابوداؤد رحمہ اللہ اس سے ترکِ یدین پر دلیل نہ پکڑتے۔ اگر رکوع کو جھکتے یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفعِ یدین ہوتا، تو اس حدیث میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ جبکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے شروع کے علاوہ اور کسی رفعِ یدین کو بیان نہیں کیا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس باب میں ذکر کردہ حدیثوں سے یہ بات صراحتاً ثابت ہوتی ہے کہ تکبیر تو ہر اونچ نیچ میں ہوتی تھی مگر رفعِ یدین صرف افتتاحِ صلوٰۃ کے وقت ہی ہوتا تھا۔

6.7: حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 37: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ." (ابوداؤد رقم 749)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے۔ اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔"

فائدہ متعدد سندوں سے مروی یہ حدیث بھی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول روایت کی طرح اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفعِ یدین کرتے تھے۔ اس لیے ترکِ رفعِ یدین ہی اولیٰ اور افضل ہوگا۔

1.7.6: حضرت یزید بن ابی زیاہ رضی اللہ عنہ سے قدیم السماع

شاگردوں کی روایات

1 ہشیم بن بشیر رضی اللہ عنہ (المتوفی ۱۸۳ھ) کی روایت

ہشیم بن بشیر رضی اللہ عنہ قدیم السماع راوی ہیں۔

حدیث نمبر 38: - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَادَتَا تُحَاذِيَانِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يُعِدَّ.

(مسند ابی یعلیٰ، ج ۳ ص ۲۴۸ رقم 1691. المؤلف: أبو یعلیٰ أحمد بن علی بن المثنیٰ بن یحییٰ بن عیسیٰ بن ہلال التیمی، الموصلی رحمہ (المتوفی ۴۰۲ھ). المحقق: حسین سلیم أسد. الناشر: دار البأمون للتراث، دمشق. الطبعة: الأولى، ۲۰۰۲ھ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو تکبیر تحریمہ کہی اور رفع یدین کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر لے گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

- | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| ۱۔ اسحاق بن اسماعیل 225ھ | ثقة | الکاشف: 285 |
| ۲۔ ہشیم بن بشیر 183ھ | ثقة | الکاشف: 5979 |
| ۳۔ یزید بن ابی زیاد 137ھ | لم يترك (ثقة) | تاریخ اسماء الثقات: 1561 |
| ۴۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ | ثقة | التقریب: 3993 |

۵۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی (کلہم عدول) اقرب: 648

نوٹ اس سند کے تمام راوی ثقہ اور صدوق ہیں۔ یزید بن ابی زیاد الکوفی رضی اللہ عنہ۔ جمہور محدثین کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک ثقہ اور حسن الحدیث ہیں۔

حدیث نمبر 39:- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ".

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 15 ص 42 رقم 9608. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رضي الله عنه (المتوفى 241 هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421 هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے۔"

حدیث نمبر 40:- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَادَتْهُمَا تُحَاذِيَانِ بِأُذُنَيْهِ".

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 11 ص 211 رقم 2411. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي رضي الله عنه (المتوفى 235 هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، 1409 هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کانوں کے بالمقابل ہو جاتے تھے۔"

2 **عبداللہ بن ادریس رضی اللہ عنہ (المتوفی 192ھ) کی روایت**

عبداللہ بن ادریس رضی اللہ عنہ بھی قبل از اختلاط کے شاگرد ہیں۔

حدیث نمبر 41:- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا".

(مسند أبي يعلى، ج 3 ص 239 رقم 1692. المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي رحمته الله (المتوفى سنة 240هـ). المحقق: حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق. الطبعة: الأولى، سنة 1403هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو رفع یدین کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھوں کو کانوں کے بالکل قریب دیکھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔"

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

۱۔ اسحاق بن اسماعیل 225ھ	ثقة	الکاشف 286
۲۔ عبد اللہ بن ادريس 192ھ	ثقة فقيه	تقريب 3207
۳۔ يزيد بن ابى زياد 137ھ	ثقة	تاريخ اسماء الثقات 1561
۴۔ عبد الرحمن بن ابى ليلى 83ھ	ثقة تابعى	تقريب 3993
۵۔ حضرت براء بن عازب <small>رضی اللہ عنہ</small>	صحابى (كلهم عدول)	تقريب 648

3 سفیان ثوری رحمته الله (المتوفى 171ھ) کی روایت

سفیان ثوری رحمته الله بھی عند الحدیثین قبل از اختلاط کے شاگرد ہیں۔

حدیث نمبر 42:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى إِبْهَامُهُ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ".

(المصنف، ج ۲ ص ۷۰ رقم 2530 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمته (المتوفى: 211 هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمته. الناشر: المجلس العلمي - الهند يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے، تو رفع یدین کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کے قریب ہو جاتے۔

حدیث نمبر 43:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى تَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ".

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳ ص ۲۳۱ رقم 18702 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب (نماز شروع کرتے وقت) پہلی تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھوں کو کانوں کے قریب دیکھتے۔“

حدیث نمبر 44:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شَحْمَتِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ".

(شرح معاني الآثار، ج ۱ ص ۲۲۳ تحت رقم 1346 المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصرى المعروف بالطحاوى رحمته (المتوفى ۳۲۱ هـ) حققه وقدم له: محمد زهرى النجار، محمد سيد جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد

الرحمن المرعشلی، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے، تو رفع یدین کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ۱۔ ابو بکرہ بکار بن قتیبة 270ھ | ثقة | الثقات 12703 |
| ۲۔ مؤمل بن اسماعیل 206ھ | كثير الخطاء وحدث حفظا فغلط | الكاشف 5747 |
| ۳۔ سفیان بن ثوری 161ھ | ثقة حافظ | تقريب 2445 |
| ۴۔ یزید بن ابی زیاد 137ھ | ثقة | تاريخ اسماء الثقات 1561 |
| ۵۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ | ثقة تابعی | تقريب 3993 |
| ۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ | صحابی | تقريب 648 |

تنبیہ اس روایت میں مؤمل بن اسماعیل رضی اللہ عنہ کثیر الخطاء ہے مگر یاد رہے کہ اس حدیث میں مؤمل بن اسماعیل رضی اللہ عنہ کا کثیر الخطاء ہونا مضرب نہیں کیونکہ مؤمل بن اسماعیل رضی اللہ عنہ کی بہت سے راویوں نے متابعت کر رکھی ہے۔

4 سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ (المتوفی ۱۹۸ھ) کی روایت

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ بھی محدثین کرام کے مطابق قدیم السماع راوی ہیں۔

حدیث نمبر 45:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ. وَزَادَ قَالَ: "مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَا تُعَدُّ لِرَفْعِهَا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ."

(المصنف، ج ۲ ص ۱۷۱ رقم 2531 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع

الحميري اليمني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن

الأعظمى للناس. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403

ترجمہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ سے بواسطہ عبد الرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ کے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے اسی کے مانند حدیث روایت کی اور اس میں یہ اضافہ بھی نقل فرمایا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ رفع یدین کیا۔ پھر اس نماز میں دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

تقریب 4064	ثقة حافظ	۱۔ عبد الرزاق بن ہمام 211ھ
الکاشف 2002	ثقة ثبت	۲۔ سفیان بن عیینہ 198ھ
تاریخ اسماء الثقات 1561	ثقة	۳۔ یزید بن ابی زیاد 137ھ
تقریب 3993	ثقة تابعی	۴۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ
تقریب 648	صحابی	۵۔ حضرت براء بن عازب <small>رضی اللہ عنہ</small>

5 موسیٰ بن محمد الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت

موسیٰ بن محمد الانصاری رضی اللہ عنہ بھی ابن عبد البر رضی اللہ عنہ کے نزدیک قدیم السماع راوی ہیں۔

حدیث نمبر 46: - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغٍ،

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ

فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا».

(التبہید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید ج ۹ ص ۲۱۳. المؤلف: أبو عمر یوسف بن

عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمیری القرطبی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۴۶۳ھ)۔ تحقیق: مصطفیٰ بن أحمد العلوی، محمد عبد الکبیر البکری۔ الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب۔ ۳۸ھ

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، تو رفع یدین کیا، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کانوں کے برابر کیے، پہلی مرتبہ میں، اس پر زیادہ نہ کیا۔“

تنبیہ اس روایت کی سند میں حضرت موسیٰ بن محمد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن ابی زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے لا یعود کے ہم مثل روایت کیا ہے۔

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ و توثیق درج ذیل ہے:

- ۱۔ عبد الوارث بن سفیان 333ھ اوثق الناس الصلۃ ابن بشکوال 122/1
 - ۲۔ قاسم بن اصبح امام الحافظ محدث (ثقة) سیر اعلام النبلاء 266
 - ۳۔ احمد بن زھیر بن حرب ثقة عالماً مستقناً حافظاً لسان المیزان 556
 - ۴۔ الفضل بن دکین ابو نعیم ثقة ثبت تقریب التہذیب 5401
 - ۵۔ موسیٰ بن محمد الانصاری الکوفی ثقة الجرح و تعدیل 711
 - ۶۔ یزید بن ابی زیاد 137ھ تاریخ اسماء الثقات 1561
 - ۷۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ تقریب 3993
 - ۸۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی تقریب 648
- اس سند کے تمام راوی ثقة ہیں۔

6 امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت

امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی محدثین کرام کے مطابق قدیم السماع راوی ہیں۔

حدیث نمبر 47: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَعْبُ

بُنْ عَجْرَةَ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ".

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳۰ ص ۲۲۳ رقم 18692 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى ۲۴۱هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱هـ)

ترجمہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ: میں نے ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کے سامنے جن میں حضرت کعب بن عجر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا: "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے۔"

حدیث نمبر 48: - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْعَلَاءِ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، فِي هَذَا الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُ قَوْمًا مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ".

(سنن الدارقطني، ج ۲ ص ۴۸ رقم 1127 المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمه الله (المتوفى ۳۸۵هـ) حقه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۲هـ)

(الفصل للوصل المدرج في النقل، ص ۳۷۰ المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدى الخطيب البغدادي رحمه الله (المتوفى: 463هـ) المحقق: محمد بن مطر الزهراني. الناشر: دار الهجرة للطباعة: الأولى، 1418/د 1997م)

ترجمہ حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ

میں نے ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو اس مجلس میں ایک جماعت کے سامنے جن میں حضرت کعب بن عجر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| ۱۔ احمد بن علی بن العلاء الجوزجانی | ثقة | سیر اعلام النبلاء: 102 |
| ۲۔ ابوالاشعث احمد بن المقدم | ثقة | الکاشف: 89 |
| ۳۔ محمد بن بکر البرسانی | ثقة | الکاشف: 4746 |
| ۴۔ شعبہ بن الحجاج | ثقة | الکاشف: 2778 |
| ۵۔ یزید بن ابی زیاد | ثقة | تاریخ اسماء الثقات: 1561 |
| ۶۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ | ثقة تابعی | تقریب: 3993 |
| ۶۔ حضرت براء بن عازب <small>رضی اللہ عنہ</small> | صحابی جلیل | تقریب: 648 |

اس حدیث کے تمام راوی ثقہ، مثبت اور صدوق ہیں۔

تنبیہ اس روایت سے یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ پر تالیس کا اعتراض بھی غلط ثابت ہوتا ہے اور مزید یہ کہ اس روایت میں ”ثم لا يعود“ کے الفاظ نہیں مگر ”یرفع یدیه فی اول تکبیرة“ کا مطلب دیگر روایتوں سے روشن اور واضح ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر اولیٰ میں کرتے تھے مگر اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔

7 ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ (المتوفی ۱۲۸ھ) کی روایت

حدیث نمبر 49:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَدَمِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الْمُخَرَّمِيُّ. نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ. نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى

بِهِنَا أُذُنِيهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ.

(سنن الدارقطني، ج ۲ ص ۵۱، ۵۲ رقم 1132. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني رحمته (المتوفى ۳۸۵هـ). حقه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۴هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کہی اور رفع یدین کیا یہاں تک کہ آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر لے گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔

فائدہ ابن ابی لیلیٰ رحمته بھی یزید بن ابی زیاد کے قدیم شاگردوں میں سے ہیں۔ لہذا ان کی روایت بھی قدیم السماع روایت ہے۔

حدیث نمبر 50: - نَا مُحَمَّدٌ، نَا بَكْرٌ، نَا عَيْسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ."

(معجم ابن الأعرابي، ج ۱ ص ۳۱۲، ۳۱۳ رقم 599 المؤلف: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصرى الصوفى رحمته (المتوفى: 340هـ). تحقيق وتخریج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسينى. الناشر: دار ابن الجوزى، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1997م)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کانوں کے برابر ہو جاتے اور پھر ہاتھوں کو نہ اٹھاتے یہاں تک کہ (نماز سے) فارغ ہو جاتے۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ و توثیق درج ذیل ہے۔

- ۱۔ محمد بن عبید بن اسباط مجہول اسکی ثقاہت معلوم نہ ہو سکی۔
- ۲۔ بکر بن عبدالرحمن ثقہ تقریب التہذیب: 744
- ۳۔ عیسیٰ بن المختار ثقہ تقریب التہذیب: 5322
- ۴۔ ابن ابی لیلیٰ صدوق ثقہ معرفة الثقات عجل: 1618
- ۵۔۔ یزید بن ابی زیاد 137ھ ثقہ تاریخ اسماء الثقات: 1561
- ۵۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ ثقہ تابعی تقریب: 3993
- ۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی تقریب: 648

نوٹ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے محمد بن عبید بن اسباط رضی اللہ عنہ کے، اس کا تعین نہ ہو سکا کہ یہ راوی کون ہے؟ مگر پھر بھی اس سند پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اگر ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ سے نیچے کوئی راوی ضعیف بھی ہو تو اس سند پر کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی تھی۔ لہذا اگر کتاب سے یہ روایت ثابت ہو تو پھر نیچے سند کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی کتاب میں لکھا؟ اس کا اعتراف خود امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِيرٍ، قَالَ نَظَرْتُ فِي كِتَابِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِذَا هُوَ يَرُوهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ۔

(العلل ومعرفة الرجال، ج ۱ ص ۶۸، رقم 708، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى ۲۴۱ھ)، المحقق: وصی اللہ بن محمد عباس، الناشر: دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية، ۱۴۲۲ھ)

ترجمہ ابن نمیر رضی اللہ عنہ (ثقہ) سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن نمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کی کتاب دیکھی تو وہ (ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ نے) اسے یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ (الکوفی) سے روایت کیا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

مَنْ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ كِتَابِهِ، فَإِنَّمَا حَدَّثَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ
يَزِيدٍ.

(قرة العينين برفع اليدين فى الصلاة، ص ۳۰، ۳۱ تحت رقم 34. المؤلف: محمد بن
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى، أبو عبد الله (المتوفى: 256 هـ).
تحقيق: أحمد الشريف الناشر: دار الأرقم للنشر والتوزيع، الكويت. الطبعة:
الأولى، 1404 هـ - 1983 م)

ترجمہ جس نے ابن ابى لیلیؒ کی کتاب سے روایت کیا تو وہ ابن ابى لیلیؒ عن یزید سے روایت کرتا ہے۔

اس مندرجہ بالا تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ابن ابى لیلیؒ اس روایت کو جب کتاب سے روایت کرتے تو یزید بن ابى زیاد الکوفىؒ سے روایت نقل کرتے تھے۔

8 اسرائیل بن یونسؒ (المتوفى ۱۶۲ھ) کی روایت

اسرائیل بن یونسؒ بھی یزید بن ابى زیاد الکوفىؒ کے قدیم شاگرد ہیں۔

حدیث نمبر 51:- أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَيْلِيِّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ جِذَاءَ أُذُنَيْهِ، وَلَمْ يَعْذُ.

(المخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، ج ۲ ص ۳۶۵ رقم 1712.
المؤلف: أبو بكر البيهقي (384 هـ - 458 هـ). تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي
بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال. الناشر: الروضة
للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولى، 1436 هـ -
2015 م)

ترجمہ حضرت براء بن عازبؒ فرماتے ہیں: میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ جس وقت نماز میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ نے رفع یدین کیا

یہاں تک کہ آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر لے گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔

9 اسماعیل بن زکریا الخلقانی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۳۷۳ھ) کی روایت

اسماعیل بن زکریا رضی اللہ عنہ بھی یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ کے قدیم السماع شاگردوں میں سے ہیں۔

حدیث نمبر 52:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِرِجْلَيْهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

(سنن الدارقطنی، ج ۲ ص ۲۹ رقم 1129. المؤلف: أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۳۸۵ھ). حققه وضبط نصح وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳ھ)

حدیث نمبر 53:- حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نَا لَوْيْنٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، مِثْلَهُ.

(سنن الدارقطنی، ج ۲ ص ۵۱ رقم 1130. المؤلف: أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۳۸۵ھ). حققه وضبط نصح وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳ھ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ نے نماز شروع کی، تو رفع یدین کیا۔ یہاں تک کہ آپ

ﷺ دونوں ہاتھ کانوں تک لے گئے۔ پھر آپ ﷺ نے کسی اور مقام پر رفع یدین نہیں کیا حتیٰ کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو گئے۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

- ۱۔ یحییٰ بن محمد بن صاعد 318ھ ثقہ، امام الحافظ الحجد سیر اعلام النبلاء 283
- ۲۔ محمد بن سلیمان لوین 246ھ ثقہ الکاشف 4882
- ۳۔ اسماعیل بن زکریا 173ھ صدوق، بخطی قلیلاً تقریب التہذیب 445
- ۴۔ یزید بن ابی زیاد 137ھ ثقہ تاریخ اسماء الثقات 1561
- ۵۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ ثقہ تقریب التہذیب 3993
- ۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی (کلہم عدول) تقریب التہذیب 648

اس سند کے تمام راوی ثقہ اور صدوق ہیں۔ اور اسماعیل بن زکریا رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخطی کے الفاظ جرح اس راوی کو ضعیف نہیں بناتے کیونکہ اصول حدیث کی روشنی میں کم غلطیاں کرنے والا راوی ثقہ ہوتا ہے۔

10 شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ (المتوفی ۷۷ھ) کی روایت

شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یزید بن ابی زیاد الکوفی رضی اللہ عنہ کے قدیم السماع شاگردوں میں سے ہیں۔

حدیث نمبر 54:- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ رَأْسِهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ."

(مسند ابی یعلیٰ، ج ۳ ص ۲۳۸ رقم 1690. المؤلف: أبو یعلیٰ أحمد بن علی بن المثنیٰ بن

یحییٰ بن عیسیٰ بن ہلال التیمی، الموصلی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۷۷ھ). المحقق: حسین

سلیم أسد. الناشر: دار البأمون للتراث، دمشق. الطبعة: الأولى ۲۰۰۳ھ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”بے شک رسول اللہ ﷺ جب نماز

شروع کرتے تو اپنے سر کے برابر رفع الیدین کرتے، پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر 55: - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنصُورٍ، نَا شَرِيكَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يَعُدَّ.

(مسند الرویانی، ج ۱ ص ۲۳۹ رقم 344. المؤلف: أبو بكر محمد بن هارون الرویانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۳۰۵ھ). المحقق: أيمن على أبو يمانی. الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة. الطبعة: الأولى، ۱۶/۳۱ھ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، کانوں کے برابر۔ پھر نہیں اٹھاتے تھے۔

حدیث نمبر 56: - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج ۹ ص ۲۱۵. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۳۶۳ھ). تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب. ۸/۳۸ھ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کانوں کے برابر کرتے اور پھر ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

- ۱۔ محمد بن ہارون الرویانی 307 ھ حافظ ثقہ سیر اعلام النبلاء 284-507/14
- ۲۔ محمد بن اسحاق الصغانی 274 ھ ثقہ ثبت تقریب التہذیب: 5721
- ۳۔ معالیٰ بن منصور الرازی 211 ھ ثقہ نبیل الکاشف: 5564
- ۴۔ شریک بن عبد اللہ 177 ھ لیس بہ بأس الکاشف: 2276
- ۵۔ یزید بن ابی زیاد 137 ھ ثقہ تاریخ اسماء الثقات: 1561
- ۶۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 83 ھ ثقہ تابعی تقریب التہذیب: 3993
- ۷۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی تقریب التہذیب: 648

اس سند کے تمام راوی ثقہ اور صدوق ہیں۔

تنبیہ شریک بن عبد اللہ النخعی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بڑی اہم ہے کیونکہ اول تو شریک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قدیم السماع راوی ہیں۔ دوسرا یہ کہ شریک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو فیوں کی حدیثوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ لہذا جب کوئی راوی کوئی ہو تو ترجیح شریک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو ہی ہوگی۔ علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب الکاشف (رقم ۲۲۷۶) پر شریک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں: "ہو اعلم بحديث الكوفين من الثوري.. یعنی کو فیوں کی روایات کو شریک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ لہذا شریک رضی اللہ عنہ کی روایت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ، شعبہ رضی اللہ عنہ اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے مضبوط ہوگی، اگر راوی کوئی ہو۔ اور یہاں پر شریک رضی اللہ عنہ روایت ہی یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ سے کر رہے ہیں جو کہ کوئی راوی ہیں۔ لہذا اس روایت پر کسی بھی طرح اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ مزید یہ کہ شریک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی تدلیس کا اعتراض بھی مردود ہوگا کیونکہ ان کے تقریباً تیرہ (۱۳) متابعات موجود ہیں۔

11 ابو عمر البزاز رضی اللہ عنہ کی روایت

امام دینار بن عمر ابو عمر البزاز رضی اللہ عنہ کی روایت درج ذیل ہے:

حدیث نمبر 57: - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، نَا صَلَاحُ

بْنِ مَالِكٍ، نَا أَبُو عُمَرَ الْبَزَّازُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ".

(حدیث الزہری، (حدیث ابی الفضل الزہری)، ص ۷۰ رقم 123. المؤلف: عبید اللہ بن عبد الرحمن بن محمد بن عبید اللہ بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف العوفی، الزہری، القرشی، أبو الفضل البغدادی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: 381ھ) دراسة وتحقیق: الدكتور حسن بن محمد بن علی شبالة البلوط. الناشر: أضواء السلف، الرياض. الطبعة: الأولى، 1418ھ-1998م)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کانوں کے برابر ہو جاتے اور پھر ہاتھوں کو نہ اٹھاتے یہاں تک کہ (نماز سے) فارغ ہو جاتے۔"

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

- ۱- عبید اللہ بن عبد الرحمن ابو الفضل الزہری ثقہ تاریخ بغداد: 5531
- ۲- ابراہیم بن عبد اللہ بن ایوب الحمری مختلف فیہ تاریخ بغداد: ۳۱۵۲
- ۳- صالح بن مالک الخوارزمی مستقیم الحدیث صدوق تاریخ بغداد: 4852
- ۴- دینار بن عمر ابو عمر البزار ثقہ الکاشف: 1484
- ۵- یزید بن ابی زیاد 137ھ ثقہ تاریخ اسماء الثقات: 1561
- ۶- عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ ثقہ تابعی تقریب: 3993
- ۷- حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی تقریب: 648

نوٹ اس سند میں ابراہیم بن عبد اللہ الحمری رضی اللہ عنہ مختلف فیہ راوی ہے مگر اس روایت میں اس کا مختلف فیہ ہونا مضر نہیں کیونکہ اس روایت کے متعدد شواہد اور متابعات موجود ہیں۔ لہذا اس کے مختلف فیہ ہونے سے اس روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔

تحقیق اس مندرجہ بالا تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ کے قدیم السماع اور اختلاط سے قبل سننے والے 13 شاگردوں میں سے 11 شاگردوں نے **ثُمَّ لَا يَعُودُ** یا اس کے مترادف الفاظ نقل فرمائے۔ لہذا اصول کی روشنی میں **ثُمَّ لَا يَعُودُ** اور دیگر الفاظ جو ترک رفع الیدین پر دلالت کرتے ہیں بالکل صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ اور جن محدثین کرام پر ان الفاظ کی زیادت واضح نہیں ہو سکی تو اس کے بارے میں اصول ہے کہ جاننے والے کی بات معتبر ہوتی ہے اور مزید یہ کہ دلائل نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ترک رفع الیدین کے الفاظ محفوظ اور ثابت ہیں۔

میں اس مقام پر تصریح کر دوں کہ اگر برسبیل تنزل **ثُمَّ لَا يَعُودُ** پر اعتراض صحیح بھی ہو تو میں دیگر کتب سے اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ اگر **ثُمَّ لَا يَعُودُ** کے الفاظ پر اعتراض وارد کیا جائے تو دوسرا متن جو کہ باقی راویوں سے منقول ہے، قبول کیا جانا چاہئے، جس کا اقرار علامہ ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ نے کیا۔

قَالَ أَبُو عَمْرٍو: الْمَحْفُوظُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: مَرَّةً وَاحِدَةً. وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ فِيهِ: "ثُمَّ لَا يَعُودُ". فَخَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 9 ص 220. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي رحمته (المتوفى 463 هـ). تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. 138 هـ)

ترجمہ حضرت یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث محفوظ ہے جس میں "اول مرة" یا "مرة واحدة" کے الفاظ ہیں اور جنہوں نے "ثُمَّ لَا يَعُودُ" کے الفاظ استعمال کئے ہیں وہ محدثین کرام کے نزدیک خطا ہے۔

نوٹ محدث ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ تو واضح ہو گیا کہ "رفع الیدین فی اول مرة" اور "رفع یدیه مرة واحدة" کے الفاظ ثابت اور محفوظ ہیں۔ محدثین کرام

ﷺ کا اعتراض صرف "ثُمَّ لَا يَعُودُ" پر ہے۔ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ چند محدثین کرام ﷺ کا "ثُمَّ لَا يَعُودُ" پر اعتراض اصول و تحقیق کی روشنی میں صحیح نہیں ہے کیونکہ یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ کے تقریباً گیارہ (۱۱) قدیم السماع شاگرد اس لفظ یا اس کے مترادف الفاظ کو روایت کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ احناف کا موقف ان الفاظ کے بغیر بھی "اول مرة" یا "مرة واحدة" کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا الفاظ اور متن میں باوجود اختلاف بھی الحمد للہ ہمارا موقف روز روشن کی طرح واضح ہے، جس کی تصریح حافظ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ نے التمهید (ج ۹ ص ۲۲۰) میں بھی کی ہے۔

12 حَمَزَةُ الزِّيَاةِ ﷺ کی روایت

حدیث نمبر 58: - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا حَفْصُ قَالَ: نَا حَمَزَةُ الزِّيَاةِ.

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ".
لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَزَةَ إِلَّا حَفْصٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ.

(المعجم الأوسط. ج ۲ ص ۸۴ رقم 1325. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. أبو القاسم الطبراني رضي الله عنه (المتوفى ۳۲۰هـ). المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد. عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. الناشر: دار الحرمين، القاهرة)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے۔"

13 اسباط رضی اللہ عنہم کی روایت

حضرت اسباط رضی اللہ عنہ کو اگرچہ قدیم السماع راویوں میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ مگر ان کی روایت تائید کے طور پر پیش ہے۔

حدیث نمبر 59: - حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ.
(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۳۰ ص ۶۱۳، ۶۱۵ رقم 18674. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني عنده (المتوفى ۲۴۱ھ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کانوں کی سیدھ تک کرتے تھے۔“

6.7.2:۔ یزید بن ابی زیاد الکوفی رضی اللہ عنہ کے متابعات

یزید بن ابی زیاد الکوفی رضی اللہ عنہ کی حدیث اصول کی روشنی میں صحیح اور ثابت ہے مگر ہم مزید اس کے متابعات بھی پیش کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے اور کسی قسم کا اعتراض نہ اٹھے۔

حدیث نمبر 60:۔ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عَيْسَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ”رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ.“ (ابوداؤد رقم 752)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو رفع یدین کیا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے تک کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کیا۔“

حدیث نمبر 61:۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مَوْمِلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ”كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شَحْمَتِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.“
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي

لَيْلِي، عَنْ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۲۳، تم ۱۳۴۷، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی (المتوفى ۳۲۰هـ) حققه وقدم له: محمد زهری النجار، محمد سید جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى ۱۴۱۳هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر افتتاح (تکبیر تحریمہ) فرماتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لوتک پہنچ جاتے۔ پھر رفع الیدین کی طرف نہ لوٹتے۔

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کی مختصر توثیق درج ذیل ہے۔

- ۱۔ ابراہیم بن ابی داؤد الکونی حافظ الجودین الثقات الاثبات سیر اعلام النبلاء 237
- ۲۔ عمرو بن عون الواسطی 225ھ ثقہ ثبت تقریب: 5088
- ۳۔ خالد بن عبد اللہ الواسطی 179ھ ثقہ عابد الکاشف: 1323
- ۴۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 148ھ صدوق ثقہ تاریخ اسماء الثقات: 1561
- ۵۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ ثقہ تقریب التہذیب: 5307
- ۶۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ ثقہ تابعی تقریب التہذیب: 3993
- ۷۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی تقریب التہذیب: 648

نوٹ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ صدوق اور حسن الحدیث ہیں، اور متابعات اور شواہد میں ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث رد نہیں کی جا سکتی۔

حدیث نمبر 62: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا

وَ كَيْعُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ
الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۲۳ رقم 1348. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن
سلامة بن عبد الملك بن سلبة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (توفي ۳۲۰هـ). حققه وقدم له: محمد زهري النجار. محمد سيد جاد الحق، من
علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد
الرحمن المرعشلي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم
الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نبی اکرم ﷺ جب تکبیر افتتاح (تکبیر
تحریمہ) فرماتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے ہاتھوں کے انگوٹھے آپ
کے کانوں کی لوؤں تک پہنچ جاتے۔ پھر رفع یدین کی طرف نہ لوٹتے تھے۔“

سند کی تحقیق

اس سند کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

- ۱۔ محمد بن نعمان بن بشیر ثقہ تقریب التہذیب: 6357
- ۲۔ یحییٰ بن یحییٰ بن بکر 226ھ ثقہ ثبت تقریب التہذیب: 7668

بقیہ رجال کی تفصیلات گزر چکی ہیں ان کی توثیق ثابت کر دی گئی ہے۔

یہ روایت بھی اوپر والی روایت جیسی ہے۔

حدیث نمبر 63: - نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا زِيَادُ الْبَكَّائِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ

عَيْسَى، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتْنا بِأُذُنَيْهِ مَرَّةً
وَاحِدَةً، لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ."

(مسند الروياني، ج ۱ ص ۳۴۰ رقم 348. المؤلف: أبو بكر محمد بن هارون الروياني (توفي ۳۰۰هـ). المحقق: أمين على أبو يماني. الناشر: مؤسسة قرطبة -
القاهرة. الطبعة: الأولى ۱۴۱۶هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھتے تو رفع یدین کرتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے ہاتھ کانوں تک پہنچتے۔ رفع یدین ایک مرتبہ کرتے، پھر اس پر زیادہ نہ کرتے۔“

سند کی تحقیق

اس سند کے راویوں کی مختصر توثیق درج ذیل ہے:

۱۔ احمد بن مقدم ابوالاشعث 253ھ ثقہ الکاشف: 89

۲۔ زیاد بن عبد اللہ بن الطفیل البرکائی مختلف فیہ تقریب التہذیب: 2085

۳۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 148ھ صدوق ثقہ تاریخ اسماء الثقات: 1561

۴۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ ثقہ تقریب التہذیب: 5307

۵۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ ثقہ تابعی تقریب التہذیب: 3993

۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی تقریب التہذیب: 648

نوٹ اس سند میں زیاد بن عبد اللہ البرکائی مختلف فیہ ہے مگر اس حدیث پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ دیگر متابعات اور شواہد موجود ہیں۔

حدیث نمبر 64: - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَ

عَيْسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.

(مسند ابی یعلیٰ ج ۳ ص ۲۳۸ رقم 1689. المؤلف: أبو یعلیٰ أحمد بن علی بن المثنیٰ بن

یحییٰ بن عیسیٰ بن ہلال التیمی، الموصلی، (المتوفی ۲۰۳ھ) المحقق: حسین

سلیم أسد الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة: الأولى، ۱۴۰۴ھ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع

کرتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے تک کسی اور جگہ رفع یدین

نہیں کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 65: - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ،

وَعِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَفْرُغَ".

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 213 رقم 2440

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي رحمته الله (المتوفى 235هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد الرياض. الطبعة: الأولى 1409هـ)

(مصنف ابن أبي شيبة رقم 2355 طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه، كراچي، 1428هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضي الله عنه فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے تک کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

۱۔ وکیع بن الجرح 128-197ھ ثقہ عابد تقریب التہذیب: 7414

۲۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 148ھ صدوق ثقہ تاریخ اسماء الثقات: 1561

۳۔ الحکم بن عتیبہ الکندی 115ھ ثقہ الکاشف: 1185

۴۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ تقریب التہذیب: 5307

۵۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ 83ھ ثقہ تابعی تقریب التہذیب: 3993

۶۔ حضرت براء بن عازب رضي الله عنه صحابی تقریب التہذیب: 648

نوٹ اس سند کے تمام راوی ثقہ اور صحیح ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضي الله عنه حسن الحدیث اور صدوق ہے۔ لہذا ابن ابی لیلیٰ رضي الله عنه پر اعتراض کرنا مردود اور باطل ہے۔

حدیث نمبر 66:- قَالَ وَكَيْعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى أَخِيهِ، وَالْحَكَمِ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهَا حَتَّى

يَنْصَرِفَ .

(المدونة، ج ۱ ص ۱۶۶ المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي
المدني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (المتوفى: 179 هـ). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى.
1415 هـ - 1994 م)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے تک کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 67: - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ حَتَّى يَنْصَرِفَ .

(مسند أبي يعلى، ج ۳ ص ۲۳۸ رقم 1689. المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (المتوفى ۲۰۴ هـ). المحقق: حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق. الطبعة: الأولى ۱۴۰۴ هـ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے اور پھر نماز سے فارغ ہونے تک رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

سند کی تحقیق

اس روایت کے راویوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

۱۔ اسحاق بن اسماعیل 225 ھ	ثقة	الکاشف 286
۲۔ وکیع بن الجراح 197 ھ	ثقة عابد	تقریب التہذیب: 7414
۳۔ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ 148 ھ	صدوق ثقة	تاریخ اسماء الثقات: 1561
۴۔ الحکم بن عتیبہ الکندی 115 ھ	ثقة	الکاشف: 1185
۵۔ عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ	ثقة	تقریب التہذیب: 5307
۶۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ 83 ھ	ثقة تابعی	تقریب: 3993
۷۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ	صحابی	تقریب: 648

نوٹ اس مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان متابعات کے تمام اسناد بھی صحیح اور ثابت ہیں۔ لہذا یہ تمام متابعات بھی اپنی جگہ ایک مستقل حدیث کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ اب ان تمام سندوں کا رد سوائے ضدی اور مسلکی حمایت کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان مندرجہ بالا احادیث میں عیسیٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ (ثقفہ) اور الحکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ (ثقفہ) راویوں نے یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ کی متابعت کی ہوئی ہے۔ لہذا یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ کی روایت بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ اور اس پر تدلیس کا الزام بھی غلط ہے۔

حدیث نمبر 68: - حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثنا رَجَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ، سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ حَنْصِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْفَتَحَتِ الصَّلَاةُ رَأَى حَتَّى رَأَيْتُ إِنْهَامِيهِ جِذَاءً أُذُنِيهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى سَلَّمَ.

تاریخ أصبهان = أخبار أصبهان، ج ۱ ص ۳۷۰. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ۲۳۵ھ). المحقق: سيد كسروي حسن. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۰ھ)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا۔ پھر دونوں ہاتھ نہ اٹھائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔“

نوٹ اس سند میں حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ، محمد بن ابی یوسف رضی اللہ عنہ کا متابع ہے۔

سند کی تحقیق

اس سند کے تمام راوی ثقہ اور صدوق ہیں۔

- ۱۔ ابو نعیم الاصبہانی رضی اللہ عنہ واحد فی عصرہ فی فضلہ منتخب من کتاب السیاق نیشاپور 198
 - ۲۔ ابو احمد محمد بن احمد بن ابراہیم العسال رضی اللہ عنہ ثقہ صالح تاریخ بغداد رقم 106 سیر اعلام النبلاء 6/16
 - ۳۔ محمد بن جعفر بن محمد بن سعید رضی اللہ عنہ شیخ کثیر الحدیث ثقہ تاریخ اصہبان 1535
 - ۴۔ رجاء بن صہیب رضی اللہ عنہ انه لم یکن باصبہان افضل منه طبقات اصہبان 191/2
 - ۵۔ الحسین بن حفص قاضی رضی اللہ عنہ محلہ صدقہ الکاشف 1086
 - ۶۔ ابی یوسف قاضی یعقوب بن ابراہیم رضی اللہ عنہ امام مجتہد علامہ المحدث سیر اعلام النبلاء رقم 141
 - ۷۔ ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ صدوق ثقہ معرفۃ الثقات علی رقم 1618
 - ۸۔ الحکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ ثقہ الکاشف 1185
 - ۹۔ عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ ثقہ تقریب التہذیب 5307
 - ۱۰۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی تقریب التہذیب 648
- نوٹ** اس مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ روایت صحیح اور ثابت ہے۔ ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ اور قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ پر اعتراضات فضول اور مردود ہیں۔ اس سند میں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ کی متابعت کی ہے۔ لہذا اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ الحکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ منفرد نہیں بلکہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ ان کے (ثقہ) متابع بھی ہیں۔ لہذا یہ سند بالکل صحیح اور ثابت ہے۔

6.7.3: حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت

حدیث نمبر 69: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بَالُوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَبَالُ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَوْحِ بْنِ أَبِي الْحَرِثِشِ الْبِصْصِيُّ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، رَوْحِ بْنِ أَبِي الْحَرِثِشِ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَقُولُ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكِبَيْهِ لَا يَعُودُ يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يُسَلِّمَ مِنْ صَلَاتِهِ".

(مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم، ج 1 ص 156. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن

عبد اللہ بن أحمد بن إسماعیل بن موسیٰ بن مهران الأصبهانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: 430ھ).
المحقق: نظر محمد الفاریابی. الناشر: مكتبة الكوثر - الرياض. الطبعة: الأولى
1415ھ

ترجمہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ پھر سلام پھیرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

6.7.4:۔ یزید بن ابی زیاد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے راوی یزید بن ابی زیاد القرظی رحمۃ اللہ علیہ، الہاشمی ولاء والکوفی پر اگرچہ بعض ارباب جرح و تعدیل نے ان کے مذہب تشیع اور آخر عمر میں حافظہ خراب ہو جانے کی بنا پر کلام کیا ہے۔ لیکن علی الاطلاق ضعیف قرار دینا خلاف انصاف ہے۔

یزید بن ابی زیاد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کو مندرجہ ذیل محدثین نے توثیق، تحسین یا تعریف کی ہے۔

1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ان سے تعلیقاً ایک کلمہ کے معنی کی روایت لی ہے۔

2 وَقَالَ جَرِيْرٌ: عَنْ يَزِيْدَ فِي حَدِيْثِهِ: الْقَسِيْئَةُ: ثِيَابٌ مُّضْلَعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيْهَا الْحَرِيْرُ. (بخاری باب لبس القسيئتي فوق رقم الحديث: 5838؛ ج 2 ص 218 طبع قدیمی کراچی)
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں مقرونًا ان سے روایت کرتے ہیں۔

3 وَقَدْ رَوَى لَهُ: مُسْلِمٌ فَقَرَنَهُ بِآخِرِ مَعَهُ. (سير أعلام النبلاء، ج 4 ص 244)
وَيَزِيْدُ اسْتَشْهَدَ بِهِ مُسْلِمٌ. (فتح الباری ج 11 ص 154)

حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن ابی زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو ان رجال میں شمار کرتے ہیں جو سچے اور عدالت و مروت سے متصف ہیں اور اس سے روایت بھی کی جاسکتی ہے:

فَإِنَّ اسْمَ السَّيِّدِ، وَالصِّدْقِ، وَتَعَاطَى الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ،
وَيَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَيْثِ بِنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَالِ الْأَثَارِ،
وَنُقَالِ الْأَخْبَارِ.

(صحیح مسلم: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم. ج ۱ ص ۵، ۶. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري
النيسابوري رحمته الله (المتوفى: ۲۱۵ھ). المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار
إحياء التراث العربي - بيروت).

(مقدمہ مسلم ج ۱ ص ۵۳ طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

علامہ شوکانی رحمته الله فرماتے ہیں:

4

وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَأَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعِ -
(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص ۱۱۷ تحت رقم 32. المؤلف: محمد بن
علي بن محمد الشوكاني رحمته الله (المتوفى: 1250ھ). المحقق: عبد الرحمن بن يحيى
المعلمي اليماني. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)

ترجمہ یزید رحمته الله کی روایت امام مسلم رحمته الله نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں لی ہے، اور بخاری
رحمته الله نے تعلیقاً۔ اور اصحاب سنن اربعہ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) نے ان
سے روایت کی ہے۔

امام ترمذی رحمته الله فرماتے ہیں:

5

وَيَزِيدُ بِنِ أَبِي زِيَادٍ كُوفِيٌّ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ
وَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ.

(ترمذی ج ۲ ص ۷۲۷ تحت رقم الحدیث 2476 بتحقیق احمد شاہ)

امام ترمذی رحمته الله نے متعدد مقامات پر یزید بن ابی زیاد الکوفی رحمته الله کی تصحیح اور تحسین کی
ہے۔

6

(i) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ

- الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ. (سنن ترمذی رقم 528، 529)
 (ii) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
 زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ... حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
 صَحِيحٌ. (ترمذی: 777)
 (iii) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ... هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (سنن ترمذی: 832)
 (iv) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ،
 عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.....
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (سنن ترمذی: 838)
 (v) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
 أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: ... حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. (سنن ترمذی: 932)
 (vi) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ... هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ
 إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (سنن ترمذی: 1716)
 (vii) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ... هَذَا حَدِيثٌ
 صَحِيحٌ. (سنن ترمذی: 3514)
 (viii) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
 يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ،
 قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (سنن ترمذی: 3532)
 (ix) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى،

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(سنن ترمذی: 3607)

(X) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ،
قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (سنن ترمذی: 3608)

(xi) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن ترمذی: 3758)

(xii) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن ترمذی: 3768)

(سنن الترمذی. المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاک.
الترمذی، أبو عيسى. (المتوفى: 279 هـ). تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1،
2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر.
الشریف (ج 4، 5). الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر.
الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م. عدد الأجزاء: 5 أجزاء)

مندرجہ بالا تفصیل سے واضح ہو گیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید بن ابی زیاد
الکوفی رحمۃ اللہ علیہ ثقہ راوی ہے۔

نوٹ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یزید بن ابی زیاد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ سے عبد اللہ بن ادريس
رحمۃ اللہ علیہ، ہشیم رحمۃ اللہ علیہ، سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور زیاد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی تحسین اور تصحیح
کی گئی ہے۔ جبکہ یہی راوی ترک رفع یدین والی حدیث بھی یزید بن ابی زیاد رحمۃ اللہ علیہ
سے روایت کرتے ہیں۔

7 امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق: امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن ابی زیاد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کی

متعدد روایات پر سکوت کیا ہے جو عندالمحدثین کم از کم حسن درجہ کی روایت ہے۔ امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے، مندرجہ ذیل احادیث جو یزید بن ابی زیاد سے مروی ہیں، سکوت کیا ہے:

93,749,1474,1731,1740,1792,1833,1848,
1881,1898,1966,1967,1968,2026,2373,2456, 2647,
4599, 5223

(سنن أبی داود۔ المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رضی اللہ عنہ (المتوفى: 275ھ)۔ المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد۔ الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت۔ عدد الأجزاء: 4)

یہ بھی ممکن ہے کہ غیر مقلدین کو سکوت امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ کا اصول غلط نظر آئے مگر ہم اس کی تائید میں امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے قول نقل کر دیتے ہیں۔

امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

سمعت أبا داود يقول: "يزيد بن أبي زياد ثبت، لا أعلم أحدا ترك حديثه، وغيره أحبُّ إلىَّ منه".

(سؤالات أبی عبید الأجرى أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل ص 158 رقم 139. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رضی اللہ عنہ (المتوفى: 275ھ)۔ المحقق: محمد علي قاسم العمري. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، 1403ھ/1983م)

ترجمہ یعنی ثبت ہے (ثقف ہے) اور میں نہیں جانتا کہ اس کی حدیث ترک کی گئی ہو۔

اس روایت میں الاجری رضی اللہ عنہ راوی مجہول ہے مگر یہ روایت بطور تائید پیش کی گئی ہے۔ لہذا ان دونوں اسلوب سے امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ کے نزدیک یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ کا ثقہ ہونا ثابت ہے۔

امام احمد بن صالح المصری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: "يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ثِقَّةٌ لَا يُعْجِبُنِي قَوْلُ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ".

(تاریخ أسماء الثقات، ج ۱ ص ۲۵۶، رقم 1561، المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداد البغدادي المعروف بـ ابن شاهين رحمته (المتوفى: 385 هـ)، المحقق: صبحي السامرائي، الناشر: الدار السلفية - الكويت، الطبعة: الأولى، 1404-1984)

ترجمہ یزید بن ابی زیاہ رحمته ثقہ ہے اور جو یزید بن ابی زیاد رحمته کے بارے میں کلام کرتا ہے مجھے خوش نہیں کرتا (یعنی امام احمد بن صالح رحمته کے نزدیک وہ تمام اقوال جرح فضول اور غلط ہیں)۔

9 امام ابن شاہین رحمته نے یزید بن ابی زیاد رحمته کو اپنی کتاب تاریخ أسماء الثقات رقم: 1561 میں ذکر کیا ہے یعنی ابن شاہین رحمته کے نزدیک بھی یزید بن ابی زیاد رحمته ثقہ راوی ہے۔

10 امام شعبہ رحمته کی تحقیق: امام بخاری رحمته لکھتے ہیں کہ امام شعبہ رحمته حدیث یزید بن ابی زیاد رحمته سے روایت کرتے تھے:

يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ... رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ. (تاریخ الکبیر 334/8 رقم: 3220 طبع حیدرآباد دکن)

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ -وَلَيْسَ بِمُحْجَّجٍ- عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: مَا أَبَالِي إِذَا كُتِبْتُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَنْ لَا أَكُتِبَهُ، عَنْ أَحَدٍ.

(سیر أعلام النبلاء، ج ۶ ص ۲۷۶، ۲۷۷، رقم 872، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قانماز الذهبي رحمته (المتوفى: 748 هـ)، الناشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: 1427 هـ - 2006 م)

ترجمہ یعنی جب میں یزید بن ابی زیاد سے لکھ لوں تو مجھے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔

اس سے واضح ہو گیا کہ امام شعبہ کے نزدیک یزید بن ابی زیاد رحمته ثقہ راوی ہے۔

11 امام شعبہ رحمته ان کے بارے کہتے ہیں: "یزید بن ابی زیاہ رحمته سے حدیثیں لکھنے

کے بعد مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کسی اور سے حدیثیں نہ لکھوں۔“

(میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۲۳ رقم 9695)

12 حضرت سفیان بن یعقوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وقال يعقوب بن سفیان: "ويزيد وأن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وأن لم يكن مثل الحكم ومنصور."

(تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۳۰)

ترجمہ ”تغیر حافظہ کی بناء پر گو کہ لوگوں نے ان میں کلام کیا ہے پھر بھی وہ عادل وثقہ ہیں اگرچہ حکم رضی اللہ عنہ اور منصور رضی اللہ عنہ کے درجہ کے نہ ہوں۔“

13 امام عجل رضی اللہ عنہ انہیں جائز الحدیث کہتے ہیں۔ اور یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔

وقال العجلی جائز الحدیث وكان بأخرة يلقن.

(تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۳۰)

14 امام ابن حبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وقال بن حبان: "كان صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن فوقت المناكير في حديثه فسباع من سمع منه قبل التغير صحيح." (تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۳۰)

ترجمہ یزید رضی اللہ عنہ صدوق ہیں۔ البتہ بوڑھے ہو جانے پر ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور تلقین قبول کرنے لگے تھے۔ اس وجہ سے ان کی حدیثوں میں مناکیر داخل ہو گئیں۔ لہذا جن لوگوں نے ان سے تغیر حافظہ سے پہلے حدیثیں سنیں۔ ان کا سماع صحیح ہے۔

15 امام ذہبی رضی اللہ عنہ اس اعتراف کے ساتھ کہ وہ متقن نہیں تھے۔ انہیں الامام، المحدث، وكان أوعية العلم جیسے وقع الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اور ان کے لائق اعتبار ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”امام شعبہ رضی اللہ عنہ نقد رجال میں مہارت و حذات کے باوصف ان سے روایت کرتے ہیں۔“

يزيد بن أبي زياد... الإمام، المحدث، أبو عبد الله الهاشمي مولاهم.

الْكُوفِيُّ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ مَعْدَةَ، فِي صِغَارِ التَّابِعِينَ.
وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ... حَدَّثَ عَنْهُ: شُعْبَةُ.

وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ: شُعْبَةُ مَعَ بَرَاعَتِهِ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ.

(سير أعلام النبلاء، ج ۶ ص ۲۷۶، ۲۷۷، رقم 872. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله

محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي رحمه الله (المتوفى: 748 هـ). الناشر: دار

الحديث- القاهرة. الطبعة: 1427 هـ- 2006 م)

16 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”محدث جریر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یزید بن ابی زیاد

رحمہ اللہ، عطاء بن سائب رحمہ اللہ سے زیادہ مضبوط اور حافظہ والا ہے۔

وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير: ”كان أحسن حفظاً من عطاء“.

(تهذيب التهذيب ج ۱۱ ص ۳۳۰)

□ عطاء بن سائب رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اور اصحاب سنن روایت کرتے ہیں۔ اس

لیے علی الاطلاق انہیں ضعیف کہنا درست نہیں۔

17 علامہ زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قَالَ الشَّيْخُ: وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ مَعْدُوْدٌ فِي أَهْلِ الصِّدْقِ، كُوفِيُّ، يُكْنَى أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ، ذَكَرَ أَبُو الْحَارِثِ الْقُرَوَيْسِيُّ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ،
جَيِّدُ الْحَدِيثِ.

(نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الأملعي في تخریج الزيلعی، ج ۱

ص ۴۰۲. المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعی رحمه

(المتوفى: 762 هـ). قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُورِي. صححه ووضع الحاشية:

عبد العزيز الديوبندي الفنجانی، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف

الكاملفوري. المحقق: محمد عوامة. الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر -

بيروت لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية الطبعة: الأولى،

1418 هـ/ 1997 م)

ترجمہ امام ابن دینق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یزید بن ابی زیاد ابو عبد اللہ کوفی رحمہ اللہ سچے

راویوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام ابوالحارث قروی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوالحسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ جید الحدیث ہے۔ امام عجل اللہ فرماتے ہیں:

18

یزید بن ابی زیاد مولیٰ بنی ہاشم کوفی ثِقَّةٌ جَائِزُ الْحَدِيثِ وَكَانَ بِأَخْرِهِ يَلْقَنُ

(معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاہبہم وأخبارہم. ج ۲ ص ۶۳۲ رقم 2019. المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي رضی اللہ عنہ (المتوفى: 261ھ). المحقق: عبد العليم عبد العظيم البستوى الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية. الطبعة: الأولى 1405 - 1985)

ترجمہ ثقہ جائز الحدیث ہے اور آخر میں تلقین قبول کرتا تھا۔

حافظ خراب یا تلقین ہونے کی وجہ سے راوی ضعیف ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس کا ثبوت امام عجل اللہ عنہ نے خود ثقہ جائز الحدیث لکھ کر فراہم کر دیا ہے۔ اور مزید یہ کہ حافظ کے خراب ہونے سے پہلے کی تمام روایات صحیح ہیں۔

19 امام یعقوب بن سفیان فسوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔

يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ لِتَغْيِيرِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَهُوَ عَلَى الْعَدَالَةِ وَالثِّقَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَ مَنْصُورٍ وَالْحَكْمِ وَالْأَعْمَشِ، فَهُوَ مَقْبُولُ الْقَوْلِ ثِقَّةٌ.

(المعرفة والتاريخ ج ۳ ص ۸۱. المؤلف: يعقوب بن سفیان بن جوان الفارسی الفسوی، أبو يوسف رضی اللہ عنہ (المتوفى: 277ھ). المحقق: أكرم ضياء العمري. الناشر: رسالة، بيروت. الطبعة: الثانية. 1401ھ - 1981 م)

ترجمہ یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ پر کلام کیا گیا اسکے حافظہ کی تغیر کی وجہ سے مگر وہ عادل اور ثقہ ہیں۔ اگرچہ وہ حکم رضی اللہ عنہ، منصور رضی اللہ عنہ اور عجل اللہ عنہ جیسے نہیں ہیں۔ یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ قابل قبول اور عادل اور ثقہ راوی ہے۔

معلوم ہوا کہ امام یعقوب فسوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہیں۔

20 امام جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَقَالَ عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ كَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَحْسَنَ حِفْظًا
مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ.

(تاریخ الکبیر 334/8 رقم: 3220 طبع حیدرآباد دکن؛ تاریخ الاوسط 39/2)

ترجمہ حضرت جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ”یزید رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ عطاء بن سائب رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر ہے۔“

□ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

نا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن حنبل فيما كتب إلى
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال سألت جريرا عن ليث وعطاء بن
السائب ويزيد بن ابى زياد. فقال: يزيد احسنهم استقامة في الحديث،
ثم عطاء قال عبد الله وسألت ابى عن هذا فقال: اقول كما قال جرير.
(الجرح والتعديل. (ج 9 ص 265 رقم 1114). المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد
بن إدریس بن المنذر التميمي. المخطي. الرازي ابن أبي حاتم رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى:
322ھ). الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن -
الهند. دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى. 1327ھ)

ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ سے لیث رحمۃ اللہ علیہ، عطاء بن سائب رحمۃ اللہ علیہ اور یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ تو انہوں (امام جریر رحمۃ اللہ علیہ) نے کہا: ”یزید رحمۃ اللہ علیہ بہتر اور مستقیم الحدیث یعنی ثقہ ہے۔ پھر عطاء بن سائب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔“

نوٹ ان حوالوں سے صاف ظاہر ہوا کہ محدث جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ عطاء بن سائب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہتر ہیں۔ اور یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ احسن اور مستقیم فی الحدیث ہیں اور یہ بات واضح طور پر ثقاہت کی دلیل ہے۔ مزید یہ کہ یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ کو عطاء بن سائب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اچھا ماننا ہے۔

21 امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قال ابن سعد: "كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره".
 (الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات ج 1 ص 509 رقم 12. المؤلف:
 بركات بن أحمد بن محمد الخطيب، أبو البركات، زين الدين ابن الكيال
 (المتوفى: 929هـ). المحقق: عبد القيوم عبد رب النبي. الناشر: دار المأمون.
 بيروت. الطبعة: الأولى. 1981م)

ترجمہ وہ فی نفسہ ثقہ ہے سوائے اس کے کہ آخر عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے۔

امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی اہم ہے کیونکہ وہ اہل کوفہ کے بارے میں بڑے سخت
 ہیں اور کوفی راویوں پر سختی سے جرح کر دیتے ہیں مگر ان کا یزید رحمۃ اللہ علیہ کو ثقہ کہنا ایک
 بڑی ثقاہت کی دلیل ہے۔ مزید یہ کہ ہم اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کا
 آخری عمر میں اختلاط میں ہونا ہمیں مضرب نہیں ہے۔ اور نہ ہی یزید رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف ثابت
 کر سکتا ہے۔ اگر مختلط ہونے سے راوی ضعیف ہو تو پھر عطا بن سائب رحمۃ اللہ علیہ بھی
 ضعیف ثابت ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بہت سارے ثقہ راوی بشمول سفیان بن عیینہ
رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اور محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا آخری عمر میں حافظہ
 خراب ہو گیا تھا۔ تو کیا مختلط ہونے سے یہ راوی ضعیف قرار پائیں گے؟ جس طرح یہ
 راوق بھی ثقہ ہیں اسی طرح یزید بن ابی زیاد رحمۃ اللہ علیہ بھی ثقہ اور ثابت ہیں۔

22 امام ابن العماد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"وهو حسن الحديث". (شذرات الذهب 206/1)

ترجمہ یزید رحمۃ اللہ علیہ حسن الحدیث ہے۔

23 امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق: امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ کی
 متعدد روایات کی تحسین اور تصریح کی ہے۔ امام الضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی
 حدیث کی تصحیح کی ہے۔ (المختارہ: 363/3 المختارہ: 239/3)

24 امام ابن الجارود رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق: امام ابن الجارود رحمۃ اللہ علیہ نے المنتقی من السنن
 البسندۃ میں اس کی حدیث روایت کی ہے۔ (المنتقی 263/1)

25 امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث کی تخریج کی ہے۔ (صحیح ابن خزیمہ 117)

26 محدث اعظمی رضی اللہ عنہ کی تحقیق: ابن خریمہ کی حدیث پر اس کے محشی محدث اعظمی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے: "اسنادہ صحیح" (ابن خزیمہ 117)

27 امام حمیدی رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث اپنی کتاب میں لی ہے۔
(صحیح حمیدی رقم: 46-332-358)

28۔ امام ابن المبارک رضی اللہ عنہ کی تحقیق: امام ہشامی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:
"یزید بن ابی زیاد و ثقہ ابن مبارک وغیرہ۔ (مجمع الزوائد: 5346)

29 امام ابن ملقن رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے:

حدیث یزید بن ابی زیاد - وَهُوَ (صَدُوق) سَاءَ حَفْظُهُ.

(البدر المنیر فی تخریج الأحادیث والأثار الواقعة فی الشرح الکبیر، ج ۲ ص ۵۹۵۔
المؤلف: ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علی بن أحمد الشافعی
المصری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۸۰۴ھ)۔ المحقق: مصطفیٰ أبو الغیط وعبد اللہ بن سلیمان
ویاسر بن کمال۔ الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع - الرياض - السعودية۔
الطبعة: الاولى ۱۴۲۵ھ)

30 امام بوسیری رضی اللہ عنہ نے متعدد مقامات پر اس کی حدیث کی تحسین کی ہے۔

امام بوسیری رضی اللہ عنہ نے لکھا: "فی اسنادہ یزید بن ابی زیاد، مختلف فیہ، فیکون
الاسناد حسناً۔ (زوائد ابن ماجہ 1159)

امام بوسیری رضی اللہ عنہ نے لکھا: "هذا اسنادہ حسن۔ یزید بن ابی زیاد مختلف فیہ۔
(زوائد ابن ماجہ: 418)

31 امام ہشامی رضی اللہ عنہ نے متعدد مقامات پر ان کی حدیث کی تحسین کی ہے۔

۱ و فیہ یزید بن ابی زیاد و حدیث حسن۔ (مجمع الزوائد 13014)

۲ یزید بن ابی زیاد و هو حسن الحدیث۔ (مجمع الزوائد 13946)

32 امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کہا:

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ تَغَيَّرَ بِآخِرِهِ.

(علل الترمذی الکبیر، ص ۳۹۱۔ المؤلف: محمد بن عیسیٰ بن سؤرة بن موسیٰ بن

الضحاک الترمذی، أبو عیسی (المتوفی ۲۷۹ھ). رتبہ علی کتب الجامع: أبو طالب

القاضی۔ المحقق: صبحی السامرائی، أبو المعاطی النوری، محمود خلیل الصعیدی۔

الناشر: عالم الکتب، مکتبۃ النهضۃ العربیۃ، بیروت۔ الطبعة: الأولى ۱۳۰۹ھ

33 امام تمام الرازی رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث اپنی کتاب فوائد تمام رقم 778 میں لی ہے۔

34 امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت اپنی مسند یحییٰ بن معین رقم 68 پر لی ہے۔

35 امام ابو عوانہ رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث کی تخریج کی ہے۔

(صحیح ابو عوانہ 1970-8485)

36 امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث کی تخریج کی ہے۔

2132، 2116، 2090، 2034، 1971، 1189، 10

2390، 2389، 2249، 2243، 2233، 2134،

(مسند اسحاق بن راہویہ۔ المؤلف: أبو یعقوب اسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن

إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه رضی اللہ عنہ (المتوفی ۲۳۸ھ)۔ المحقق:

د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي۔ الناشر: مکتبۃ الإیمان - المدینة

المنورة۔ الطبعة: الأولى ۱۴۱۲ھ - ۱۷۱۷ء: 5)

اس حدیث کے حاشیہ میں محشی عبد الغفور البلوشي لکھتا ہے ”رجالہ بین ثقہ و

صدوق“۔

37 امام بغوی رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث کی تصحیح و تحمین کی ہے۔

(شرح السنہ: 334-1758-3936)

38 امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے کہا:

وَكَانَ يَزِيدُ صَدُوقًا إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَبُرَ سَاءَ حَفْظُهُ وَتَغْيِيرُ فَكَانَ يَتَلَقَّنُ مَا

لَقِنَ فَوْقَ الْمَنَّاكِرِ فِي حَدِيثِهِ مِنْ تَلْقِينِ غَيْرِهِ إِتْيَاهُ وَاجَابَتُهُ فِيمَا لَيْسَ

مِنْ حَدِيثِهِ لِسُوءِ حَفْظِهِ فَسَمَاعٌ مِنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ دُخُولِهِ الْكُوفَةَ فِي

أَوَّلِ عَمْرِهِ سَمَاعٌ صَوِّحٌ وَسَمَاعٌ مِنْ سَمِعَ مِنْهُ فِي آخِرِ قَدُومِهِ الْكُوفَةَ بَعْدَ

تَغْيِيرِ حَفْظِهِ وَتَلْقَنَهُ مَا يَلْقَنُ سَمَاعٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ۔

(المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین ج ۳ ص ۱۰۰ رقم 1177
المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَدَ التیمی. أبو حاتم.
الدارمی، البُستی بختہ (المتوفی: 354ھ). المحقق: محمود إبراهيم زايد. الناشر: دار
الوعی - حلب. الطبعة: الأولى. 1396ھ).

- 39 امام مغلطائی رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف و توثیق کی ہے۔ (شرح ابن ماجہ 1470/1)
- 40 امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث اصول میں لی ہے۔ (شرح ابن ماجہ 1470/1)
- 41 امام ابن منجوی رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ کو صحیح مسلم کے رجال میں شمار کیا ہے۔
(رجال مسلم: 1873)
- 42 امام بوسیری رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث کی تصحیح کی ہے۔
- ۱ هذا اسنادہ صحیح (مصباح الزجاجة 546)
- ۲ هذا اسنادہ صحیح (مصباح الزجاجة 1263)
- 43 امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے لکھا:

یزید بن أبی زیاد الکوفی مولی بنی ہاشم۔ عالم فہم صدوق ردئی
الحفظ لم یتک

(الکاشف فی معرفۃ من لہ روایۃ فی الکتب الستۃ ج ۲ ص ۸۲ رقم 6305
المؤلف: شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی بختہ
(المتوفی ۴۸۸ھ) المحقق: محمد عوامۃ أحمد محمد نمر الخدیب. الناشر: دار القبلة
للثقافة الإسلامية. مؤسسة علوم القرآن. جدة. الطبعة: الأولى. ۱۴۱۳ھ)

44 علامہ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث کو محفوظ لکھا ہے۔ (التمہید 220/9)

45 امام سعید بن منصور رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث کی تخریج کی ہے۔

(سنن - 2386-2445-2362)

46 امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے کتاب العلل میں متعدد مقامات پر اس کی حدیث کو اصح اور

صواب لکھا ہے۔ (کتاب العلل 808-391)

47 امام ابن دقیق العید رضی اللہ عنہ نے اسے سچا راوی لکھا ہے۔ (نصب الراية 402/1)

- 48 امام ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث کی تخریج کی ہے۔
(مستخرج ابو عوانہ 6846-1556)
- 49 مولانا مبارک پوری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:
- ”اخرجه الطبرانی بالاسانيد و رجاله بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن ابي زياد و هو حسن الحديث كذا في مجمع الزوائد (تحفة الاحوذى 3436)
- 50 ناصر الدین البانی رضی اللہ عنہ نے متعدد مقامات پر اس کی حدیث کی تصحیح و تحسین کی ہے:
صحیح سنن ابی داؤد رقم: 93-1733-1794-1968-1969-1970-2028-458
صحیح ابن ماجہ رقم: 504-1379-1513-2670-3028-3031-3081
- 51 غیر مقلد ابی الحسن مبارک پوری رضی اللہ عنہ نے اس کی توثیق نقل کی ہے۔
(مرعاة المفاتيح 312)
- 52 علامہ عینی رضی اللہ عنہ یزید رضی اللہ عنہ کے بارے لکھتے ہیں۔ فی نفسه فهو ثقة۔
(البنایہ شرح ہدایہ 2/295)
- 53 قاضی شوکانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ انہ صدوق۔ (نیل الاوطار 7/5)
- 54 نواب صدیق رضی اللہ عنہ نے مجمع الزوائد کے حوالے اس کی حدیث کی تحسین نقل کی ہے۔
(نزل الابرار 248)
- 55 علامہ احمد محمد شاہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:
- ”ویزید هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته. والحق أنه ثقة. قال ابن شاهين في الثقات. قال أحمد بن صالح البصري يزيد بن أبي زياد ثقة. ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن سعد في الطبقات: وكان ثقة في نفسه.“
- (جامع ترمذی بتحقیق و شرح احمد شاہ کر، ج 1 ص 195)
- ترجمہ یزید بن ابی زیاہ رضی اللہ عنہ کو بعض محدثین نے ان کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اور بعض نے ان کے آخر عمر میں حافظہ خراب ہو جانے کی بنا پر ضعیف کہا ہے، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ ابن شاہین رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو ثقافت میں داخل کیا ہے۔ امام احمد بن

صالح مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہے اور مجھے اس کا قول پسند نہیں جس نے اس راوی میں کلام کیا ہے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں فرمایا ہے کہ یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہے۔

یہی احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی دوسری جلد میں ایک حدیث پر گفتگو فرماتے ہوئے جس کی سند میں یہی راوی یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ ہے، فرماتے ہیں:

”فمدار الحدیث علی یزید بن ابی زیاد وهو ثقہ، صحیح الحدیث۔“

(جامع ترمذی بتحقیق وشرح احمد شاہ، ج ۲ ص ۲۰۹)

اس حدیث کا مدار یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ ہے اور وہ ثقہ ہے اور اس کی حدیث صحیح ہے۔

ترجمہ

علامہ محمد ہاشم بن عبدالغفور سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

56

”ترک رفع یدین والی احادیث میں سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ والی روایات ہے اس کی تخریج عبد الرزاق، امام احمد، ابوداؤد، ابن ابی شیبہ، طحاوی، دارقطنی وغیرہ نے کی ہے۔ پھر ان احادیث کی تخریج کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اور ایسے ہی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ والی حدیث کی کئی دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں اور مسانید میں تخریج کی ہے اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بعض اسناد شیخین کی شرط پر جید اور صحیح ہیں اور بعض اسناد حسن ہیں۔ اسناد صحیحہ میں سے مدنی عبد الرزاق والی سند ہے۔ عبد الرزاق کی سند میں سوائے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے تین راوی ہیں: سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن زیاد ہاشمی کو فی رحمۃ اللہ علیہ، اور عبد الرحمن بن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ۔ (کشف الرین فی مسکتہ رفع الیدین مترجم ص ۵۷ تا ۶۵)

آگے مزید علامہ محمد ہاشم بن عبدالغفور سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یزید بن زیاد ہاشمی کو فی رحمۃ اللہ علیہ یہ مختلف فیہ راوی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے معلق روایت صحیح بخاری میں لی ہے اور اس سے حفاظ حدیث مثل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب السنن الاربعہ نے روایات کی ہیں۔ ہم ان محدثین کے نام عنقریب امام عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری سے نقل کریں گے جنہوں نے ان کی توثیق بیان کی ہے۔“

(کشف الرین فی مسکتہ رفع الیدین مترجم ص ۶۷)

57 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَيَزِيدُ فِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ.

(التلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير، ج ۲ ص ۲۳۸. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: 852 هـ). تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب. الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر. الطبعة: الأولى، 1416 هـ / 1995 م)

ترجمہ اور یزید رحمۃ اللہ علیہ میں تھوڑا سا ضعف ہے۔

58 علامہ ابن عماد رحمۃ اللہ علیہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے نقل فرماتے ہیں:

ویزید بن أبي زياد الكوفي وهو حسن الحديث . روى له مسلم مقرونا بأخر. قاله في "العبر".

(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج ۲ ص ۱۸۴. المؤلف: عبد الحی بن أحمد بن محمد ابن العماد العکری الحنبلی، أبو الفلاح رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۱۰۸۹ هـ). حققه: محمود الأرنأؤوط. خرج أحاديثه: عبد القادر الأرنأؤوط. الناشر: دار ابن كثير، دمشق، بيروت. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۶ هـ)

ترجمہ ”یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ حسن حدیث والا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دوسروں رايوں کی تائید میں روایت لی ہے۔“

59 علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی یزید بن ابی زیا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں توثیق فرمانے کے بعد فرماتے ہیں:

وخرج حديثه ابن خزيمة في "صحيحه". وقال الساجي: صدوق، وكذا قال ابن حبان، وخرج مسلم حديثه في "صحيحه" واستشهد به البخاري.

(البنایة شرح الهدایة، ج ۲ ص ۲۵۵. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى ۸۵۵ هـ). الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۰ هـ)

ترجمہ ”ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس سے روایت لی ہے۔ علامہ ساجی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس کو صدوق کہتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح مسلم میں اس سے حدیث

تخریج کی ہے۔ بخاری رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے استدلال کیا ہے
ایک ضروری تشبیہ:۔ اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ مشہور غیر مقلد قاضی شوکانی رضی اللہ عنہ
 نے غلط فہمی کی بنا پر یزید بن ابی زیاد القرشی الہاشمی الکوفی ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ، کو یزید بن
 زیاد رضی اللہ عنہ، اور بقول بعض ابن ابی زیاد القرشی الدمشقی رضی اللہ عنہ سمجھ لیا۔ علمائے رجال نے
 یزید دمشقی رضی اللہ عنہ پر جو شدید جرحیں کی ہیں۔ ان سب کو نیل الاوطار (ج ۱ ص ۲۷۵) (۲۷۵)
 میں زیر بحث یزید بن ابی زیاد کو رضی اللہ عنہ پر چسپاں کر دیں۔ انہی کی تقلید و اتباع میں
 مولانا حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رضی اللہ عنہ نے تحفۃ الاحوذی (ج ۲ ص ۹۶) میں لکھ دیا
 کہ ”یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ حسن الحدیث نہیں ہیں۔ اس لیے امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے ان
 سے مروی حدیث کی تحسین کسی اور وجہ سے کی ہے“۔ جبکہ یزید بن ابی زیاد کو رضی اللہ عنہ
 حسن الحدیث سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ کی تحسین بالکل درست
 اور بے غبار ہے۔ جس میں کسی تاویل و توجیہ کی ضرورت نہیں۔ بعینہ یہی وہم امام نووی
رضی اللہ عنہ کو مقدمہ مسلم کی شرح میں پیش آ گیا ہے۔ جس پر حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے تہذیب
 التہذیب میں نقد کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

وأغرب النووی فذکر فی مقدمة شرح مسلم ترجمة یزید بن أبی زیاد
 وابن أبی زیاد الدمشقی المذكورة قبل هذه الترجمة وزعم أنه مراد
 مسلم بقوله یزید بن أبی زیاد وفيه نظر لا يخفی.

(تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۳۱)

علامہ شبیر احمد عثمانی رضی اللہ عنہ نے بھی شرح مسلم میں امام نووی رضی اللہ عنہ پر گرفت کی ہے۔

(مقدمہ مسلم معہ فتح الملہم ص ۱۱۶)

یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ کو فی ثقہ اور صحیح الحدیث ہے۔ البتہ آخری عمر میں حافظہ کا متغیر
 ہونا عیب ہے مگر جب اس سے روایت کرنے والے راوی کا تغیر حافظہ سے پہلے کا
 سماع ہو، تو اس کی صحت حدیث میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور یہ ترک رفع یدین کی روایت
 یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے قدیم السماع ہیں مثلاً سفیان ثوری
رضی اللہ عنہ، امام شعبہ رضی اللہ عنہ، محمد بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ عنہ جزاء رفع یدین

(رقم ۳۴) میں لکھتے ہیں کہ شعبہ رحمۃ اللہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ اور زہیر رحمۃ اللہ کا سماع یزید رحمۃ اللہ سے اول عمر میں تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں: ”سفیان ثوری رحمۃ اللہ، زہیر بن معاویہ رحمۃ اللہ اور ہشیم رحمۃ اللہ کا سماع یزید رحمۃ اللہ سے اول عمر میں ہوا ہے (سنن بیہقی ج ۲ ص ۷۶)۔ ہاں آخر عمر میں جس نے یزید رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے اس کے بارے میں کلام ہو سکتا ہے مگر اس روایت کے راوی تو قدماء ہیں۔

مندرجہ بالا تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسماء الرجال کے اماموں کی اکثریت کے نزدیک یزید بن ابی زیاد البہاشمی ثقہ اور حسن الحدیث ہے۔ اور جن محدثین کرام نے اس پر اعتراض کیا ہے وہ صرف اس کے حافظ خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ لہذا یزید بن ابی زیاد کی حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی تمام روایات صحیح اور معتبر ہیں۔

6.7.5:- ”ثم لا يعود“ کی زیادت صحیح ہے

اعتراض بعض حضرات نے ”ثم لا يعود“ کی زیادت کو یزید بن ابی زیاد رحمۃ اللہ کے اختلاط و تلقین کا نتیجہ قرار دیا ہے۔

جواب یہ رائے متعدد وجوہ کی بنا پر غلط ہے۔ چند وجوہ درج ذیل ہیں:

۱ دارقطنی کی روایت میں ”ثم لا يعود“ کے بجائے ”فی اول تکبیرۃ“ کا لفظ ہے۔ جن روایتوں میں ”ثم لا يعود“ کا لفظ نہیں۔ ان کا مفہوم بھی اس کے سوا کیا ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا۔

۲ اس میں وہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے جس موقع پر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ یہ ان کے کمال ضبط کی علامت ہے۔

۳ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے تین ثقہ راوی ہیں: عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ، عدی بن ثابت رحمۃ اللہ اور شعبی رحمۃ اللہ۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ سے روایت کرنے والے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ اور حضرت عدی بن ثابت رحمۃ اللہ سے روایت کرنے والے یزید بن ابی زیاد رحمۃ اللہ، حکم بن عتیبہ رحمۃ اللہ اکیلے یا عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ کے ساتھ۔ حضرت حکم بن عتیبہ

رضی اللہ عنہ اور عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ دونوں بالاتفاق ثقہ ہیں۔ ان دونوں سے روایت کرنے والے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یزید بن ابی زید رضی اللہ عنہ کی ثقاہت بھی مسلم ہے۔ تینوں ثقہ راویوں کی روایات یقیناً صحیح ہے۔

یزید رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو یزید رضی اللہ عنہ کے اکابر اصحاب نقل کر رہے ہیں۔ مثلاً امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ، اسماعیل بن زکریا رضی اللہ عنہ، شعبہ رضی اللہ عنہ، اسرائیل بن ابی اسحاق رضی اللہ عنہ (بیہقی فی "الخلافیات" الجوہر النقی ج ۲ ص ۷۶؛ مبانئ الاخبار بحوالہ نیل الفرقین ص ۱۱۳)، نصر بن شمیل رضی اللہ عنہ، حمزہ زیات رضی اللہ عنہ (المعجم الأوسط ج ۲ ص ۸۴ رقم ۱۳۲۵)، ہشیم رضی اللہ عنہ، شریک رضی اللہ عنہ، محمد بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ، ابن ادریس رضی اللہ عنہ، اسباط رضی اللہ عنہ، موسیٰ بن محمد انصاری رضی اللہ عنہ۔ کوئی وجہ نہیں کہ ان اکابر کی پوری جماعت کی روایت کے بعد بھی اس لفظ کو غیر محفوظ کہا جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث چونکہ متعدد طرق سے مروی ہے۔ اس لیے وہ محدثین کے اصول پر صحیح ہے۔ پھر جس طرح حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے امام شعبی رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور ترک رفع یدین پر صریح بھی۔ یہ روایت بلاشبہ لائق استدلال ہے۔

علامہ عینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قلت: تعارض قول أبي داود وقول ابن عدي في "الكامل" رواه هشيم وشريك وجماعة معها عن يزيد بإسناده، وقالوا فيه: لم يعد. يظهر أن شريكا لم يتفرد برواية هذه الزيادة، فسقط أيضا بذلك كلام الخطابي: لم يقل في هذا: ثم لا يعود غير شريك: لأن شريكا قد توقع علينا كما أخرجه الدارقطني عن إسماعيل بن زكريا ثنا يزيد بن أبي زياد نحوه، أخرجه البيهقي في "الخلافيات" من طريق النضر بن شمير عن إسرائيل، هو ابن يونس بن إسحاق عن يزيد بلفظ: "رفع يديه حذو

أذنيه ثم لم يعد" وأخرجه الطبرانی في "الأوسط" من حديث حفص بن عمر: ثنا حمزة الزيات كذلك، وقال: لم يروه عنه إلا حفص، تفرد به محمد بن حرب.

(البنایة شرح الهدایة، ج ۲ ص ۲۵۳، ۲۵۵. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی رحمته (المتوفی: 855ھ).

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، 1420ھ - 2000م)

ترجمہ میں کہتا ہوں کہ امام ابوداؤد رحمته کا یہ قول امام ابن عدی رحمته کے اس قول کے معارض ہے جو انہوں نے "کامل" میں ذکر کیا ہے کہ ہشیر رحمته، شریک رحمته اور ان کے ساتھ ایک جماعت نے یزید رحمته سے "ثم لم يعد" کی زیادت روایت کی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شریک رحمته اس زیادت کے روایت کرنے میں منفرد نہیں ہے۔ اس سے امام خطابی رحمته کا کلام بھی ساقط ہو گیا کہ شریک رحمته کے علاوہ کسی نے بھی اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ شریک رحمته کی اس میں اسماعیل بن زکریا رحمته نے بھی دارقطنی میں متابعت کی ہے۔ اسی طرح بہقی رحمته نے خلافيات میں نصر بن شمیل رحمته عن اسرائیل رحمته (جو ابن یونس بن اسحاق رحمته ہے) کے طریق سے ان الفاظ سے متابعت کی ہے: "رفع يديه حذو أذنيه ثم لم يعد"۔ امام طبرانی رحمته نے "اوسط" میں اسی طرح حفص بن عمر ثنا حمزة الزيات حدیث بیان کی ہے۔ اور کہا ہے صرف حفص رحمته ہی اس سے روایت کرتا ہے۔ اور اس سے روایت کرنے میں محمد بن حرب رحمته متفرد ہے۔

۵ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رحمته سے یہ کلمہ نقل کرنے میں یزید بن ابی زیا رحمته بھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ یہ کلمہ دو ثقہ راوی حضرت عیسیٰ رحمته اور حضرت حکم رحمته بھی نقل کرتے ہیں جیسا کہ سنن ابوداؤد، مسند ابی یعلیٰ، مصنف ابن ابی شیبہ، مدونۃ اللبریٰ اور طحاوی: شرح معانی الآثار کی روایات اوپر مذکور ہوئی ہیں۔ البتہ یہ روایتیں محمد بن ابی لیلی رحمته کی سند سے ہیں۔ حضرات محدثین رحمته کی صراحت کے مطابق یہ صدوق، سیئ الحفظ ہیں۔ اس درجہ کار راوی محدثین کے نزدیک قابل متابعت مانا

جاتا ہے۔ لہذا اس معتبر متابعت سے "ثم لا يعود" کی زیادت کے سلسلہ میں یزید بن ابی زیا رضی اللہ عنہ تلقین کی جرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا شریک رضی اللہ عنہ کے تفرد اور یزید رضی اللہ عنہ کی تلقین کو لے کر اعتراض کرنا غلط ہے۔

۶ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، ترکِ رفعِ یدین پر عامل تھے (ابن ابی شیبہ رقم ۲۴۶۶ طبع کراچی ۱۳۲۸ھ)۔ اس سے واضح ہے کہ ترکِ رفعِ یدین ہی ان کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ جو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سیکھی تھی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ کی روایت بالکل صحیح ہے۔

۷ دارِ قطنی کی روایت میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس سے ترکِ رفعِ یدین کی سنت اور مؤکد ہو جاتی ہے۔

۸ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی سند میں کوئی محدثین رضی اللہ عنہم آتے ہیں، جو سب ترکِ رفعِ یدین پر عامل تھے۔ کوفے کا پورا شہر ترکِ رفعِ یدین پر عامل تھا جیسا کہ محدثین رضی اللہ عنہم نے لکھا ہے۔

6.8: حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ

حدیث نمبر 70:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ".

تحقیق
إسناده ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرقطاه وعبد القدوس بن بكر ابن خُنَيْسٍ، قال أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، وذكر محمود بن غيلان عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة، أنهم ضربوا على حديثه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (242) (قطعة من الجزء 13) من طريق عبد القدوس بن بكر بن خنيس، عن حجاج بن أرقطاه بهذا الإسناد.

وأورده الهيئتي في "مجمع الزوائد" 101/2، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه حجاج بن أرطاة واختلف في الاحتجاج به.

وقد سلف برقم (15600) من حديث مالك بن الحويرث بلفظ "حتى يحاذي بها فروع أذنيه"، وهو حديث صحيح.

قال السندي: قوله: حتى جاوز بهما أذنيه: لعله فعل ذلك لبيان الجواز. أو هو محمول على ما جاء من أنه حاذي بهما فروع أذنيه، فإن فيه مجاوزة الأسفل!

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 26، ص 23، رقم 16099. المؤلف: أبو عبد الله أحمد

بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ،

اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں

نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی۔ تو رفع

یدین کیا یہاں تک کہ دونوں کانوں سے تجاوز کر گئے۔"

فائدہ اس حدیث میں حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ رفع یدین بیان کیا ہے کیونکہ

رفع یدین صرف ابتداء نماز ہی میں ہے۔ اس لیے جناب عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے

صرف ابتداء میں ہی رفع یدین بیان کیا ہے۔ اگر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اور

تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع یدین ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بیان کرتے۔ یہ کیسے ہو

سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ رفع یدین بیان کریں اور مکمل بیان نہ کریں۔ اس سے معلوم

ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جو صحیح السند روایت ہے، اس میں بس افتتاح

صلوٰۃ کے وقت ہی رفع یدین ہے۔ جس پر سب کا اتفاق و عمل ہے۔ بلکہ حضرت عبد

اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں نماز میں رفع یدین کی ممانعت کی موجود ہے:

حدیث نمبر 71: - حدثنا سليمان بن الحسن العطار، قال: حدثنا أبو كامل

الجحدوثي، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن أبي

یحییٰ، قال: رأيتُ عبدَ الله بنَ الزُّبَيْرِ ورأى رجلاً رافعاً يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاتِهِ، فلما فرغ منها قال: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاتِهِ".

تحقیق

نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (5496/ قلعي) و (4/45 ابن دهب) عن المصنف به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/169) (رقم 17345). وقال: "رواه الطبراني، وترجم له فقال: "محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير"، ورجاله ثقات".

ورواه الضياء في "المختارة" (9/336) من طريق المصنف به.

(المُعْجَمُ الكَبِيرُ للطبراني المُجَلَّدَانِ الثَّالِثُ عَشَرَ والرَّابِعُ عَشَرَ ج ١٣ ص ٢٦٦ رقم

14907. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم

الطبراني رحمته (المتوفى سنة ٣٦٠هـ). تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/

سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے رفع یدین

کرتے دیکھا تو فرمایا: "جناب رسول اللہ ﷺ تو نماز میں رفع یدین نہ کرتے تھے

یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔"

حدیث نمبر 72:- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ

الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ بِدَعْوَاتٍ

قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ".

(المعجم الكبير، ج ١٣ ص ٢٩٩ رقم 324. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة ٣٦٠هـ). المحقق: حمدى بن عبد

المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

قال: رجاله ثقات. (تحفة الاحوزي ج ٢ ص ٢٢١ مطبوعه بيروت، لبنان)

ترجمہ حضرت محمد بن یحییٰ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو

دیکھا کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے رفع یدین کرتے دیکھا تو فرمایا: ”جناب رسول اللہ ﷺ تو نماز میں رفع یدین نہ کرتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔“

فائدہ اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نماز میں بالکل رفع یدین نہ کرتے تھے۔ اس روایت میں بالکل واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ جو آدمی اپنی نماز میں نماز سے فارغ ہونے سے پہلے رفع یدین کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو رفع یدین کرنے سے منع کیا اور ساتھ یہ دلیل بھی دی کہ جناب رسول اللہ ﷺ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو جاتے۔

حدیث نمبر 73: - أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الرُّكُوع وعند رفع رأسه من الرُّكُوع، فقال له: "لا تفعل، فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه."

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج ۵ ص ۲۷۳۔ المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (المتوفى ۸۵۵ھ)۔ الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(عمدة القاری ج ۵ ص ۳۹۸، ۳۹۹، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

(البنایة شرح الهدایة، ج ۲ ص ۲۵۸۔ المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (المتوفى ۸۵۵ھ)۔ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۰ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے دیکھا۔ تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”ایسا نہ کر۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے نماز میں رفع یدین کیا۔ پھر چھوڑ دیا تھا۔“

فائدہ اس حدیث میں واضح طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے رفع یدین سے ممانعت کر دی، اور فرمایا: ”حضور ﷺ نے پہلے رفع یدین کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا۔“ اس حدیث

سے علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین کے منسوخ ہونے کی دلیل بیان کی ہے۔
فرماتے ہیں:

وَالَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ الْخَصْمُ مِنَ الرَّفْعِ فَحُمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ
الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَسَخَ. وَالذَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبِيرِ رَأَى رَجُلًا
يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ
لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
تَرَكَهُ. (عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج ۵ ص ۲۷۳)

جن احادیث سے قائلین رفع یدین نے دلیل پکڑی ہے۔ وہ زمانہ ابتداء اسلام کی
ہیں۔ پھر رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ اس کی دلیل یہی حدیث عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔
(اس کے بعد اس حدیث کو بیان کیا ہے)۔

6.9: حدیث حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبد اللہ

بن عباس رضی اللہ عنہما

حدیث نمبر 74:- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ قَالَ: ثنا الْفَضْلُ
بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
مُقْسِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ، فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الْبَيْتِ،
وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَبِعَرَفَاتٍ وَبِالْمُزْدَلِفَةِ، وَعِنْدَ الْجُمُوعَتَيْنِ."

(شرح معانی الآثار، ج ۲ ص ۷۶ رقم 3821، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن
سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمۃ اللہ علیہ
(المتوفى: 321 هـ). حققه وقدم له: (محمد زهرى النجار - محمد سيد جاد الحق) من
علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد
الرحمن المرعشلى - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم

الكتب. الطبعة: الأولى - 1414 هـ 1994 م

□ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الكندي، ثنا المَحَارِبِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ اسْتِفْتَاكِ الصَّلَاةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ، وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَبْرَتَيْنِ".

(الخلافات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، ج ٢ ص ٣٤٢، ٣٤٣ رقم 1729، 1730. المؤلف: أبو بكر البيهقي (384 هـ - 458 هـ). تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال. الناشر: الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولى 1436 هـ - 2015 م)

□ وَقَالَ الْبَزَّازُ فِي مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ، وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَالْمَوْقِفَيْنِ، وَعِنْدَ الْحَجْرِ"، انْتَهَى. قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ، وَإِنَّمَا قَالَ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي، وَلَمْ يَقُلْ: لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ"، انْتَهَى كَلَامُهُ.

(نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الأمل في تخرج الزيلعي، ج 1 ص ٣٩٠، ٣٩١. المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762 هـ). قدم للكتاب: محمد يوسف التَّنُورِيُّ. صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجالي إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد

یوسف کاملفوری المحقق: محمد عوامۃ الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية. الطبعة: الأولى 1418ھ/ 1997م

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَاسْتِقْبَالُ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرَّةُ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَعِنْدَ الْحَجْرِ". وَفِيهِ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سِتِّيُّ الْحِفْظِ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۲ ص ۱۰۳ رقم 2595. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۳۱۳ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رفع الیدین سات مقامات پر کیا جائے: نماز کے شروع میں، بیت اللہ کی زیارت کے وقت، صفاء و مروہ پر، عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کے وقت، اور رمی جمار کے وقت۔"

حدیث 75: - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أَبُو بَرِيدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الشُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ: اليَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْجَبْهَةَ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي إِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرَّةِ، وَبِعَرَفَةَ وَبِجَمْعٍ وَعِنْدَ رَمِي الْجَمَارِ وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ".

(المعجم الكبير، ج ۱۱ ص ۳۵۲ رقم 12282. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته الله (المتوفى ۳۶۰ھ). المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سجدہ سات

اعضاء پر کیا کرو: دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنوں اور پیشانی پر۔ اور رفع یدین اس وقت کیا کرو: جب تو بیت اللہ کو دیکھے، اور صفا و مروہ پر، وقوف عرفہ کے وقت، رمی جمار کے وقت، اور جب نماز کے لئے اقامت کہہ دی جائے۔

حدیث 76:- حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

حَدَّثْتُ عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي بَدْيِ الصَّلَاةِ وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبَجْعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَعَلَى الْمَيْتِ".

(أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج 1 ص 249. المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرق رحمته (المتوفى: 250 هـ). المحقق: رشدي الصالح ملحق الناشر: دار الأندلس للنشر - بيروت)

□ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبَجْعٍ، وَالْمَقَامَيْنِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ".

(المعجم الكبير، ج 11 ص 385 رقم 12072. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة 320 هـ). المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية) □ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "رَفَعُ الْأَيْدِي إِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ، وَفِيهِ: "عِنْدَ رَمَى الْجَمَارِ وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ".

وَفِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَفِي الثَّانِي عَطَاءُ بْنُ الشَّائِبِ وَقَدْ اخْتَلَطَ.

(مجمع الزوائد ومنتبغ الفوائد ج ۳ ص ۲۳۸ رقم 5461 المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى ۸۰۷ھ). المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۳۱۲ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”رفع یدین نہیں کیا جاتا، مگر سات مقامات پر: (۱) جب نماز کے لیے کھڑا ہو، (۲) جب بیت اللہ کو دیکھے، (۳) صفا پر، (۴) مروہ پر، (۵) عرفات میں، (۶) مزدلفہ میں اور (۷) رمی جمار کے وقت۔“

5 حضرت محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام

ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ مختلف فیہ مگر حسن الحدیث راوی ہے۔ اس کا اصل مقام ڈاکٹر نور الدین عمر کچھ یوں بتاتے ہیں:

”فاذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به“

(شرح علل ترمذی ۱/۱۴۴)

ترجمہ جب یہ روایت کرنے میں اکیلا ہو، اور اس کا کوئی متابع بھی نہ ہو، تو پھر قابل حجت نہیں ہے (یعنی جب ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کا کوئی متابع مل جائے تو روایت صحیح ہوگئی)۔
ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کی مندرجہ ذیل محدثین کرام نے توثیق و تقویت فرمائی ہے۔

2 امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس کی متعدد احادیث کو حسن، حسن صحیح، حسن غریب کہا ہے۔ سنن ترمذی رقم: 552، 919، 1005، 1485، 1629، 1955، 2880۔

3 امام حاکم رضی اللہ عنہ نے کہا:

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَإِنْ كَانَ يُنْسَبُ إِلَى سُوءِ الْحِفْظِ، فَإِنَّهُ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْإِسْلَامِ وَفَضْلِهِمْ، وَمِنْ أَكْبَرِ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ. (متدرک حاکم رقم: 31)

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث کی تصحیح کی ہے۔ (مستدرک حاکم رقم 4338، 8018)

علامہ ذہبی فرماتے ہیں: وكان صاحب قرآن وسنة. قرأ عليه حمزة وكان صدوقاً جازئ الحديث. (العبر في خبر من غير، ج 1 ص 162)

4

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الانصاري القاضي أحد الاعلام.... قال أحمد سئ الحفظ وقال أبو حاتم محله الصدق... الكاشف رقم: 5000“

ابن أبي ليلى الإمام العلم مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ.... قال أحمد بن يونس: كان بن أبي ليلى أفقه أهل الدنيا. وقال العجلي: كان فقيها صدوقاً صاحب سنة جازئ الحديث قارئاً عالماً بالقرآن قرأ عليه حمزة.... قلت: حديثه في وزن الحسن ولا يرتقى إلى الصحة؛ لأنه ليس بالمتقن عندهم ومناقبه كثيرة.

□

(تذكرة الحفاظ، ج 1 ص 128، 129 رقم 165. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748 هـ). الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي.

5

وقال العجلي: ”كوفي، صدوق، ثقة“. ثم قال بعد ذلك بكثير: ”محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يُكنى أبا عبد الرحمن، وكان فقيهاً صاحب سنة. وابن شبرمة أقدم موتاً من ابن أبي ليلى، وكان ابن أبي ليلى صدوقاً جازئ (الحديث)، وكان قارئاً للقرآن عالماً به قرأ حمزة الزيات عليه. ”الثقات“ 1263.

1

وقال أبو زرعة الرازي: ”رَجُلٌ شَرِيفٌ“. (2/727).

2

وقال أبو حاتم الرازي: كان ابن أبي ليلى سئ الحفظ. ”علل الحديث“ 251، 287.

2

وقال يعقوب بن سُفيان: فقيهٌ ثقةٌ، عدلٌ، وفي حديثه بعض المقالة،
لِيُنَ الْحَدِيثِ. "المعرفة والتاريخ" 94/3.

وقال الترمذی: قد تَكَلَّمَ بعض أهل العلم في ابن أبي لَيْلَى من قِبَلِ
حفظه.

قال الترمذی: وابن أبي لَيْلَى صدوقٌ فقيهٌ، وإنما يهتم في الإسناد.
حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا عبد الله بن داود عن سُفيان الثوري.
قال: فقهاؤنا ابن أبي لَيْلَى وعبد الله بن شبرمة. "جامع الترمذی"
1715.

وقال الدارقطني: ثقة، في حفظه شيء. "السنن" 124/1.

(الجامع في الجرح والتعديل الأقوال البخاري، ومسلم، والعجل، وأبي زرعة
الرازي، وأبي داود، ويعقوب الفسوي، وأبي حاتم الرازي، والترمذی، وأبي زرعة
الدمشقي، والنسائي، والبزار، والدارقطني، ج 3 ص 30238 رقم 4015 جمع
وترتيب: السيد أبو المعاطي الثوري، حسن عبد المنعم شلبي، أحمد عبد الرزاق
عيد، محمود محمد خليل الصّعيدي، الدكتور محمد مهدي المسلمي، أيمن إبراهيم
الزامل، إبراهيم محمد النوري، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، الطبعة:
الأولى، 1412 هـ - 1992 م)

6 احمد بن يونس رضي الله عنه نے کہا ہے کہ کان افقه اهل الدنيا (الجرح وتعديل 1/322)

7 امام عطاء رضي الله عنه نے کہا: هو اعلم مني. (مرآة الجنان 1/306)

8 حافظ ابن رجب رضي الله عنه نے کہا: هو صدوق لا يهتم يتعمد الكذب.

(شرح علل ترمذی 1/135)

9 حافظ ابن ملقن رضي الله عنه نے کہا: صدوق سيء الحفظ. (البدر المنير 16/223)

10 ابو حاتم رضي الله عنه نے اس کی توثیق کی ہے۔ (البدر المنير 1/258 مجمع الزوائد رقم: 1093)

91 حافظ بہقی رضي الله عنه نے اس کی ایک حدیث کو صحیح کہا ہے۔ السنن الکبریٰ رقم: 3366

12 حافظ ابن حجر رضي الله عنه نے کہا: صدوق سيء الحفظ جدا من السابعة.

تقریب التہذیب رقم: 6081

- 13 علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا: صدوق جائز الحدیث (طبقات الحفاظ ۱/۱۳)
- 14 حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ثقہ حافظ جلیل۔ (زاد المعاد ۵/۱۵۰)
- 15 حافظ ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کتاب میں روایت لیں ہیں۔
(مستخرج ابی عوانہ رقم: ۵۰۳۳)
- 16 ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اپنی کتاب صحیح میں روایت لی ہے۔
(صحیح ابن خزیمہ: ۲۰۶۴)
- 17 امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اپنی سنن میں روایت لی ہے۔ (سنن نسائی رقم: ۴۷۷۲)
- 18 حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: صدوق امام ثقہ روی الحفظ۔
(ترغیب والترہیب ج ۵ ص ۵۳۵)
- 19 علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ”حدیث حسن انشاء اللہ“۔ (مجمع الزوائد رقم: ۵۴۶۱)
- 20 سلفی محقق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
- ”محمد بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کی حدیث حسن درجہ سے جو قابل احتجاج ہے کم نہیں ہے اور جب کوئی حدیث اس کی روایت کی مؤید مل جائے تو پھر اس کی حدیث صحیح ہو جائے گی۔ (شرح ترمذی، احمد شاہ کر)
- عرب محقق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث حسن سے کم نہیں اور اگر کوئی دوسری روایت متابع اور مؤید مل جائے تو اس کی حدیث صحیح ہو جائے گی۔ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معتدل رائے یہ ہی ہے کہ ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ حسن الحدیث ہے۔ کیونکہ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد: ۵۴۶۱ میں کہا کہ حدیث حسن ان شاء اللہ۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث فی وزن الحسن (طبقات الحفاظ ۱/۱۲۹) یعنی محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی حدیث وزن اور درجہ میں حسن ہے۔
- ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر اگر محدثین نے جرح کی ہے تو دوسری طرف جم غفیر علماء کرام نے

اس کی توثیق بھی کی ہے۔ لہذا محمد بن عبدالرحمن بن ابی یسلیب کی حدیث خصوصاً علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں کی روشنی میں حسن درجہ سے کم نہیں ہے اور اگر اس کے ساتھ دوسری روایت مؤید مل جائے تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ابن ابی یسلیب کی مؤید حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت معجم الکبیر رقم: ۱۲۲۸۲ کی ہے۔

حصہ دوم: ترکِ رفعِ یدین آثارِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روشنی میں

دلائلِ منصوصہ میں قرآنِ پاک کے بعد دوسرا درجہ اور مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ) کی سنت اور طریقے کو لازم پکڑنے کی وصیت فرمائی ہے۔ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعامل بھی دین میں حجت ہے۔ اس باب میں ترکِ رفعِ یدین کے مسئلے کو حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار سے مبرہن کیا گیا ہے۔

6.9: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 1: - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: "رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ."

(شرح مشکل الآثار، ج ۱۵ ص ۵۰ تحت رقم 5832. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي رحمۃ اللہ علیہ (التونى ۳۲۱ھ). تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى ۱۴۱۵ھ)

(شرح معالی الآثار، ج ۱ ص ۲۲۷ تحت رقم 1364. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن

سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصرى المعروف بالطحاوى رضي الله عنه (المتوفى ٤٣٢هـ) حققه وقدم له: محمد زهرى النجار. محمد سيد جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ١٤١٣هـ)

(صححه الزيلعي - نصب الراية ج ١ ص ٣٨٠؛ وهذا رجاله ثقات، دراية ج ١ ص ١٥٢؛ وهذا سند صحيح على مسلم الجوهري ج ٢ ص ٤٥؛ قال النيسوبى: وهو اثر صحيح. آثار السنن ص ١٥٣، ١٥٥ رقم ٣٠٣ طبع مكتبة البشرى، كراچي ١٤٣٢هـ)

ترجمہ حضرت اسوٰۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے بعد میں نہیں۔

6.9.1: حضرت امام طحاوی رضی اللہ عنہ کی تحقیق

امام طحاوی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَيْضًا إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَيَّاشٍ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ إِثْمًا دَارَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ مُجْتَبَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ. أَفْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَلِمَ بِذَلِكَ مَنْ دُونَهُ، وَمَنْ هُوَ مَعَهُ يَرَاهُ يَفْعَلُ غَيْرَ مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثَاءَهُ عَلَى ذَلِكَ، دَلِيلٌ صَحِيحٌ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ خِلَافَهُ. (شرح معاني الآثار، ج ١ ص ٢٢٤)

ترجمہ یہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو اس حدیث میں سوائے پہلی تکبیر کے رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ حدیث

صحیح ہے کیونکہ حسن بن عیاش رضی اللہ عنہ، اگرچہ اس حدیث کا مدار یہی ہے، یہ ثقہ اور حجت ہے۔ یہ بات امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ مخفی رہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں رفع یدین کرتے تھے۔ اس کا آپ رضی اللہ عنہ سے کم درجہ کے حضرات کو اور جوان کے ساتھ تھے، انہوں نے اس کے برعکس دیکھا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کسی نے انکار بھی نہ کیا۔ یہ ہمارے نزدیک محال ہے۔ (اگر صرف اسی حدیث کو ہی بنیاد بنایا جائے کہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے اور حضرات صحابہ نے انہیں ایسا ہی کرتے رہنے دیا تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہی وہ صحیح بات ہے جس کی خلاف ورزی کسی اور کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔

اثر نمبر 2:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَرَّ،

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: "وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ."

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. (مصنف ابن ابن شيبه) ج 1 ص 213 رقم 2454

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبه، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی العبسي رضي الله عنه (المتوفى 235 هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة: الأولى، 1409 هـ)

ترجمہ حضرت اسود بن یزید تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ نماز کے شروع کے علاوہ کسی جگہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ عبد الملک رضی اللہ عنہ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ: میں نے شعبی رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ اور ابوالحسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ ابتدائے نماز کے سوا رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

فائدہ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ مشہور تابعی ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت

میں دو سال رہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کہنے سے نماز میں تطبیق ترک کر دی تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت اسوٰۃ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ جب امام ہوتے تھے اور کسی کا انکار ساتھ منقول نہیں ہے جو علامت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقریباً اجماع کی۔

(الدرس الشذی فی شرح جامع الترمذی ص ۱۷۲۔ المؤلف: حضرت مولانا صوفی محمد سرور رضی اللہ عنہ۔ طبع ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان)

تو اگر رفع یدین متروک نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے یہ امید کب کی جاسکتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رفع یدین نہیں کریں گے۔ لہذا جن روایات میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ منسوخیت سے پہلے کی ہیں۔

اس صحیح اثر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شعبی رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ اور ابوالحسن سبیعی رضی اللہ عنہم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ تینوں مشہور تابعی ہیں بالخصوص امام شعبی رضی اللہ عنہ تو ایسے جلیل القدر تابعی ہیں کہ دو، چار نہیں بلکہ پانچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے اور ان سے اکتساب علم و فضل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ اور ابوالحسن سبیعی رضی اللہ عنہم بھی اپنے علم و فضل اور تفقہ فی الدین کے لحاظ سے اکابر تابعین رضی اللہ عنہم میں شمار ہوتے ہیں۔

6.10: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 3:- اَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَبِيُّ قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَ.

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۲۵ رقم 1353. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي المجري المصري المعروف بالطحاوي)

(المتوفى ۳۲۱ھ) حققه وقدم له: محمد زهري النجار. محمد سيد جاد الحق. من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي. الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ)

(شرح مشكل الآثار. ج ۱۵ ص ۳۳ رقم 5825. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي رحمته) (المتوفى ۳۲۱ھ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى ۱۴۱۵ھ)

ترجمہ حضرت عاصم بن کلیب رحمته اپنے والد (کلیب بن شہاب کوئی رحمته) سے نقل کرتے ہیں: ”خليفة راشد حضرت علي رحمته نماز میں پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

اثر نمبر 4: - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَطَافِ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. (مصنف ابن أبي شيبة) ج ۱ ص ۲۱۳ رقم 2442. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي رحمته) (المتوفى ۲۳۵ھ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة: الأولى ۱۴۰۹ھ)

(المدونة. ج ۱ ص ۱۶۶. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني رحمته) (المتوفى: 179ھ). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى 1415ھ - 1994م)

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۱۱۳ المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخضر وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته) (المتوفى ۳۵۸ھ). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة. ۱۴۲۳ھ)

(معرفة السنن والآثار. ج ۲ ص ۳۲۱ رقم 3276. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن

موسیٰ الخُسرُو جردی الخراسانی، أبو بکر البیهقی رحمۃ اللہ علیہ (اتوفی ۵۸۱ھ)۔ المحقق: عبد المعطی أمين قلجی۔ الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، کراچی، دار قتیبة، دمشق، بیروت، دار الوعی، حلب، دمشق، دار الوفاء، المنصورة، القاهرة۔
الطبعة: الأولى ۱۴۱۲ھ)

(صفحہ الزیلعی۔ نصب الرایۃ ج ۱ ص ۴۸۰؛ قال ابن حجر: رواه ثقات، الدرایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ ج ۱ ص ۱۵۲؛ قال العینی فی العمدة: اسناد عاصم صحیح علی شرط مسلم۔ عمدۃ القاری ج ۵ ص ۴۰۰ طبع مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ؛ قال النیسوی: واسنادہ صحیح آثار السنن ص ۱۵۵، ۱۵۶ رقم ۴۰۴ طبع مکتبہ البشری، کراچی ۱۴۳۲ھ)

ترجمہ حضرت عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد (حضرت کلیب بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ) سے روایت کرتے ہیں: ”بیشک حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

اثر نمبر 5:- قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْشَبِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبِ بْنِ الْجَزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ۔

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ص ۵۹ رقم 109۔ المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني رحمۃ اللہ علیہ۔ التوفی ۱۹۱ھ)۔ تعليق وتحقیق: عبد الوهاب عبد اللطيف۔ الناشر: المكتبة الدلمية۔ الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد، حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے، سے روایت کرتے ہیں: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کی صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔ اس کے بعد نماز کے کسی حصے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

فائدہ اس صحیح اور ترک رفع یدین میں صریح اثر کو غیر معتبر ٹھہرانے کی غرض سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”معرفۃ السنن والآثار“ میں لکھتے ہیں: ”ابو بکر نہشلی رحمۃ اللہ علیہ ان راویوں

میں نہیں ہیں جن کی روایت سے دلیل و حجت پکڑی جائے۔
 حالانکہ ابو بکر نہشلی رضی اللہ عنہ سے امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں احتجاج کیا ہے۔ امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ اور امام علی رضی اللہ عنہ ان کی توثیق کرتے ہیں۔ امام ذہبی رضی اللہ عنہ انہیں حسن الحدیث اور صدوق کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "صدوق رمی بالارجاء۔" (دیکھیے: خلاصہ تذہیب التہذیب، خزرجی، میزان الاعتدال، تقریب)
 ائمہ رجال کی اس واضح توثیق کے باوجود امام بیہقی رضی اللہ عنہ کا ان کے بارے میں ایسا کہنا انصاف سے بعید اور اپنے مذہب کی کھلی پاسداری ہے۔ امام بیہقی رضی اللہ عنہ کے اس رویہ پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: "امام بیہقی رضی اللہ عنہ تعصب سے کام لیتے ہیں الخ" (بغیۃ الامعی ج ۲ ص ۸)۔ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق اپنی تحقیق ان لفظوں میں بیان کی ہے: "امام بیہقی رضی اللہ عنہ اگرچہ مشہور محدث ہیں مگر ان کا کوئی قول بلا دلیل معتبر نہیں ہو سکتا۔" (تحقیق الکلام ج ۲ ص ۱۳۲)
 اس لیے ابو بکر نہشلی رضی اللہ عنہ سے متعلق امام بیہقی رضی اللہ عنہ کے اس قول بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ اثر بلا غبار صحیح ہے۔

اثر نمبر 6:- قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبِ الْجَزْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ۔

(موطأ مالک بروایة محمد بن الحسن الشیبانی، ص ۵۸ رقم 105، المؤلف: مالک بن انس بن مالک بن عامر الأصبغی المدنی رضی اللہ عنہ (التوفی ۹۷ھ)۔ تعلیق و تحقیق: عبد الوہاب عبد اللطیف، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: "میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا۔ اس کے بعد (نماز کے کسی حصے میں) رفع یدین نہیں کیا۔"

فائدہ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ عنہ کے شیخ محمد بن ابان کوئی رضی اللہ عنہ کی محدثین کی ایک جماعت نے تضعیف کی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ قدوة المحدثین حضرت امام بخاری

ﷺ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

1 كنية مُحَمَّد بن أَبَان بن صَاحِب بن عُمَيْر أَبُو عَمْر الكُوفِي لَيْسَ بِأَلْحَافِظِ عِنْدَهُمْ.

(التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير) ج 2 ص 259 رقم 2528.

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله
(المتوفى: 256هـ). المحقق: محمود إبراهيم زايد. الناشر: دار الوعي، مكتبة دار التراث - حلب، القاهرة. الطبعة: الأولى (1397-1977).

2 محمد بن أَبَان بن صَاحِب بن عمير الجعفي: عن أبي إسحاق وحماد بن أبي سليمان وليس بالقوي.

(كتاب الضعفاء، ص 119 رقم 326. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ). المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين. الناشر: مكتبة ابن عباس. الطبعة: الأولى 1426هـ/2005م).

3 وَقَالَ أَحْمَدُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ يَكْذِبِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ هُوَ بِقَوِي يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.

(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. ج 2 ص 126 رقم 922. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ). المحقق: د. إكرام الله إمداد الحق. الناشر: دار البشائر. بيروت. الطبعة: الأولى. 1996م).

4 حافظ عبد الحق الأشملي رحمته الله فرماتے ہیں: مرجی ہونے کی وجہ سے ان پر کلام کیا گیا ہے، ان کی حدیث لکھی جائے گی۔ حافظ ابن القطان رحمته الله ان کی تائید کرتے ہیں:

مُحَمَّد بن أَبَان بن صَاحِب، وَكَانَ مِنْ رُؤُوسِ الْمَرْجُئَةِ، فَتَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ. هَذَا مَا ذَكَرَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ.

(بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. ج 3 ص 223 رقم 953. المؤلف: علي بن

محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (التونسي) (المتوفى ٢٢٨هـ). المحقق: د. الحسين آيت سعيد. الناشر: دار طيبة، الرياض الطبعة:

الأولى (١٣١٨هـ)

5 ائمہ جرح و تعدیل کے ان اقوال سے ظاہر ہے کہ محمد بن ابان رضی اللہ عنہ کم از کم لائق متابع ہیں۔ لہذا اس معتبر متابعت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مزید تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بعض محدثین نے ان کے تفرد کی جو بات کہی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔

اثر نمبر 7:- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، وَكُلَّمَا خَفَضَ.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 217 رقم 2484.

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى ٢٣٥هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد الرياض الطبعة: الأولى، ١٣٠٩هـ)

ترجمہ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”بلاشبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ (نماز کے دوران) تکبیر کہتے، جب سجدہ کرتے۔ اور اسی طرح جب بھی نماز میں اٹھتے اور جھکتے، تو تکبیر کہا کرتے تھے۔

فائدہ ان روایتوں سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نماز میں سوائے پہلی تکبیر کے رفع یدین نہ کرتے تھے۔ اگر یہ رفع یدین ترک نہ کی گئی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی رفع یدین نہ چھوڑتے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ رفع یدین کی ایک حدیث کے راوی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کا رفع یدین نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے خلاف سنت کام کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ تو اگر رفع یدین باقی ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ ضرور رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے۔

اثر نمبر 8:- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ.

ترجمہ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ رفع الیدین کرتے اس کے بعد پھر رفع الیدین نہ کرتے تھے۔

سند کی تحقیق

ابو جعفر محمد بن عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	ثقة	المعین فی طبقات المحدثین رقم: ۱۲۴۶
جعفر بن محمد الصان <small>رضی اللہ عنہ</small>	ثقة صادقاً	تاریخ بغداد ۱۸۵/۷ رقم: ۳۶۳۷
اسماعیل بن أبان الورق <small>رضی اللہ عنہ</small>	ثقة	الکاشف رقم: ۳۳۵
ابو بکر نھشلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	ثقة	معرفة الثقات رقم: ۲۱۰۲
عاصم بن کلیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	ثقة	معرفة الثقات رقم: ۸۱۵
کلیب بن شهاب <small>رضی اللہ عنہ</small>	ثقة	الجرح وتعديل رقم: ۹۳۶
حضرت علی المرزوقی <small>رضی اللہ عنہ</small>	امیر المؤمنین	الکاشف رقم: ۳۹۳۰

6.10.1: حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ اور امام طحاوی رضی اللہ عنہ کی تحقیق

محدث بے مثال، فقیہ، مجتہد حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جاء الثبت عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا لا يرفعان في شيء من ذلك الا في تكبيرة الافتتاح“

(کتاب الحجج ۱ ص ۹۳ طبع دار المعارف النعمانیہ، لاہور)

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑے مضبوط طریقے سے ثابت ہے کہ وہ سوائے تکبیر افتتاح کے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔

حضرت امام طحاوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ لِيَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَتْرُكُ هُوَ الرَّفْعَ بَعْدَهُ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ الرَّفْعِ. فَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا صَحَّ، فَفِيهِ أَكْثَرُ الْحُجَّةِ لِقَوْلِهِ، مَنْ لَا يَرَى الرَّفْعَ.

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا ہو۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رفع یدین کو چھوڑ دیا ہو۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک رفع یدین کا نسخ یقیناً ثابت ہو چکا ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ترک رفع یدین کی حدیث جب صحیح ہے تو یہ ترک رفع یدین والوں کے لیے ایک پختہ دلیل اور حجت ہے۔

(طحاوی شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۹۱، ۲۹۲، طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت)
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رکوع کی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین متروک ہے ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نماز نہ پڑھتے۔ واضح ہو گیا کہ نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ (یعنی رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سجدوں کے وقت اور دو رکعتوں سے اٹھتے وقت) رفع یدین متروک ہے۔

خلاصہ تحقیق

نامور محدث علامہ نیوکی اپنی مکمل تحقیق کے بعد یہ نتیجہ بیان کرتے ہیں:

وأما الخلفاء الاربعة فلم يثبت عنهم رفع الأيدي في غير تكبيرة الاحرام. (آثار السنن ص ۱۵۹ طبع مکتبۃ البشری، کراچی ۱۳۳۲ھ)

ترجمہ حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سے ابتدائی تکبیر کے علاوہ کسی اور جگہ رفع یدین کرنا ثابت نہیں ہے۔

قارئین کرام! حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانیت کی بزرگ ترین ہستیاں حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سچے تابع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کو بھی اپنی سنت کی طرح قابل عمل قرار دیا ہے، اب ابتداء نماز کے علاوہ ان کا رفع یدین نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے اور ان کے نزدیک بھی ابتداء نماز کے علاوہ رفع یدین نہ

کرنا ہی بہتر ہے۔

6.11: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار

اثر نمبر 9:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو

الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى."

(المعجم الكبير، ج 9، ص 261، رقم 9299، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة 320 هـ) . المحقق: حمدى بن عبد

المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت ابراہیم رحمته فرماتے ہیں: "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں ہاتھ نہیں

اٹھاتے تھے، مگر صرف پہلی تکبیر کے وقت (یعنی ابتداء میں)۔"

اثر نمبر 10:- قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ."

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص 59، رقم 110، المؤلف: مالك بن

أنس بن مالك بن عامر الأصبغي المدني رحمته (المتوفى 179 هـ) . تعليق وتحقيق: عبد

الوهاب عبد اللطيف، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت ابراہیم رحمته فرماتے ہیں: "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے شروع

میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔"

اثر نمبر 11:- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو

الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ

فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الْإِفْتِتَاحِ."

(شرح معاني الآثار، ج 1، ص 224، رقم 1363، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن

سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصرى المعروف بالطحاوى رحمته

(المتوفى 321 هـ) . حققه وقدم له: محمد زهرى النجار، محمد سيد جاد الحق، من

علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي. الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ١٤١٣هـ)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں شروع کے علاوہ کسی حصے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔“

اثر نمبر 12:- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَسْتَفْتِحُ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 213 رقم 2443.

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي رضي الله عنه (المتوفى ٢٣٥هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة: الأولى ١٤٠٩هـ)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔“

اثر نمبر 13:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: “كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ.”

(المصنف، ج 2 ص 171 رقم 2533. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع

الحميري اليماني الصنعاني رضي الله عنه (المتوفى: 211هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رضي الله عنه. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔“

6.11.1:- حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی رضی اللہ عنہ کی تحقیق

حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: جَاءَ الثَّبْتُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا لَا يَرْفَعَانِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِيحِ فَعَلِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَأَنَّا أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍ لِأَنَّهُ قَدْ بَلَّغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَلْيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا نَرَى أَنْ أَحَدًا كَانَ يَتَقَدَّمُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَتَرَى أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَهْلَ بَدْرٍ وَمَنْ أَشْبَهُهُمْ فِي مَسْجِدِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَدُونَهُ مِنْ فَتْيَانِهِمْ خَلْفَ ذَلِكَ. فَتَرَى عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَنْ أَشْبَهُهُمَا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَعْلَمُ بِصَّلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَنَّهَا أَعْرَفَ بِمَا يَأْتِي مِنْ ذَلِكَ.

(الحجة على أهل المدينة، ج 1 ص 93، 95 المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ). المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري. الناشر: عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الثالثة. 1403 هـ)

ترجمہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ... سے نہایت یقین سے ثابت ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب نماز (باجماعت) کو قائم کیا جائے تو عقل اور کمال عقل رکھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم میرے قریب رہا کریں اور پھر ان کے بعد اس وصف میں دوسرے درجے والے، پھر ان کے بعد تیسرے درجے والے رہا کریں۔ اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ جب رسول اللہ

ﷺ نماز پڑھائیں تو اہل بدر رضی اللہ عنہم کے علاوہ کوئی صحابی اگلی صف میں رہ سکیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلی اور دوسری صف میں اہل بدر رضی اللہ عنہم اور ان جیسے ارباب فضیلت ہی رہیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما جو انوں کی صف میں ان کے پیچھے رہیں گے۔ اس لیے ہمارا یقین ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان جیسے اہل بدر رسول اللہ ﷺ کی نماز کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ کیونکہ یہ حضرات جناب رسول اللہ ﷺ کے زیادہ قریب تھے۔ اور خوب جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نماز میں کون سا عمل کرتے ہیں اور کون سا عمل ترک کرتے ہیں۔ اس کو زیادہ یہی لوگ جانتے تھے۔“

6.11.2: حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر اعتراض کا

جواب

اعتراض حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں۔
جواب حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا گیا کہ جب آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کریں تو سند سے بیان کریں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب میں سند سے بیان کرتا ہوں، مجھے ایک راوی معلوم ہوتا ہے۔ جب میں بغیر سند کے ان سے روایت کروں تو ایک جماعت نے مجھے وہ حدیث بتائی ہوتی ہے۔
 امام ترمذی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: 1

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: "أَسْنَدُ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ". فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "إِذَا حَدَّثَكَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَهُوَ الَّذِي سَمِيتُ، وَإِذَا قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، فَهُوَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ".

(العلل الصغير، ص ۷۵۴. المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك.

الترمذی، أبو عیسیٰ رضی اللہ عنہ (المتوفی: 279ھ)۔ المحقق: أحمد محمد شاکر وآخرون۔

الناشر: دار إحياء التراث العربی - بیروت (مطبوع بأخر المجلد الخامس)

(سنن ترمذی: کتاب العلل ج ۲ ص ۶۱۵ طبع الطاف اینڈ سنز، کراچی)

ترجمہ سلیمان الاعمش رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

تک سند کا پوچھا۔ تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جب میں کسی شخص کا درمیان

میں ذکر کروں تو وہ میں نے صرف اسی سے سنی ہوتی ہے اور اگر میں (ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لوں تو وہ میں نے کئی اشخاص سے سنی ہوتی ہے۔“

حافظ ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ تحقیق کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کی مرسل کو ان کی

مسند سے زیادہ صحیح مانتے ہوئے لکھتے ہیں:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغٍ، قَالَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ:

”إِذَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا فَأُسْنِدُهُ“، فَقَالَ: ”إِذَا قُلْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ

مَسْعُودٍ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. وَإِذَا سَمَّيْتُكَ لَكَ أَحَدًا فَهُوَ الَّذِي

سَمَّيْتُكَ“، قَالَ أَبُو عَمْرٍ: ”إِلَى هَذَا نَزَعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُرْسَلَ

الْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ مُسْنَدِهِ لِأَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَرَّاسِيْلَ

إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَقْوَى مِنْ مَسَانِيدِهِ وَهُوَ لَعَمْرِي كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ

إِبْرَاهِيمَ لَيْسَ بِعَيَّارٍ عَلَى غَيْرِهِ“۔

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج ۱ ص ۳۷۸، المؤلف: أبو عمر يوسف بن

عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي رضی اللہ عنہ (المتوفی ۶۳۱ھ)۔ تحقیق:

مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف

والشؤون الإسلامية، المغرب، ۱۳۸۱ھ)

ترجمہ حضرت سلیمان الاعمش رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: ”جب حدیث

بیان کریں تو اس کی سند بھی بتا دیا کریں۔“ تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کروں، تو یہ میں نے کئی اشخاص سے سنی ہوتی ہے اور جب میں نے کسی ایک سے سنی ہوتی ہے تو پھر اسی سے سنی ہوتی ہے۔“

امام طحاوی رضی اللہ عنہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

3

فَإِنْ قَالُوا مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ. قِيلَ لَهُمْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ، إِذَا أُرْسِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، لَمْ يُرْسَلْهُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ عِنْدَهُ، وَتَوَاتُرِ الرَّوَايَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَدْ قَالَ لَهُ الْأَعْمَشُ: «إِذَا حَدَّثْتَنِي فَأُسْنِدْ». فَقَالَ: إِذَا قُلْتُ لَكَ قَالَ: «عَبْدُ اللَّهِ». فَلَمْ أَقُلْ ذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِيهِ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَإِذَا قُلْتُ: «حَدَّثْتَنِي فَلَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ» فَهُوَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ أَوْ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، شَكَ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِذَلِكَ.

(شرح معانی الآثار، ج ۱ ص ۲۲۶ رقم 1362. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمه الله (المتوفى ۳۲۱هـ). حققه وقدم له: محمد زهری النجار، محمد سید جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳هـ)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، أَوْ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ - يَشْكُ فِيمَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ مِنْهُمَا - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِذَا حَدَّثْتَ فَأُسْنِدْ، قَالَ: إِذَا قُلْتُ لَكَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، فَلَمْ أَقُلْ ذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَإِذَا قُلْتُ: حَدَّثْتَنِي فَلَانٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَهُوَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي.

(شرح مشكل الآثار، ج ۱ ص ۵۲۰. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمه الله (المتوفى

(۳۲۱ھ) تحقیق: شعیب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى (۱۳۱۵ھ)

ترجمہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اگر وہ کہیں کہ جو کچھ تم نے بواسطہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ غیر متصل ہے۔“ تو ان سے کہا جائے گا: ”حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس وقت ارسال کرتے ہیں جب وہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے تو اتر کے ساتھ مروی ہوتی ہے۔“ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا: ”مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت سند ذکر کیا کریں۔“ انہوں نے فرمایا: ”جب میں تم سے کہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا تو میں یہ بات اس وقت کہتا ہوں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک جماعت بیان کرتی ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں فلاں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے بیان کیا، تو یہ اسی سے ہوگی جس نے مجھ سے بیان کیا۔“

حافظ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 4

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنِ، قَالَ: دَأَّ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: «إِذَا حَدَّثْتَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَأُسْنِدْ». قَالَ: «إِذَا قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَإِذَا قُلْتُ حَدَّثَنِي فَلَانَ فَحَدَّثَنِي فَلَانٌ».

(الطبقات الكبرى، ج ۶ ص ۲۸۰. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: ۲۳۰ھ).
تحقیق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى، ۱۳۱۰ھ)

لہذا معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے پر لغوی طور پر تو مرسل کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر ان کی روایت اصطلاحی طور پر مرسل یا منقطع ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح

طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اگر میں روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کروں تو یہ روایت میں نے ایک جماعت سے سنی ہے۔

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کی مراسیل عندالمحدثین صحیح ہیں:

5

امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کی مراسلات میں کوئی حرج نہیں۔ وہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مراسلات سے بہت بہتر ہیں۔“

☆

وَمُرْسَلَاتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لَا بَأْسَ بِهَا

(تدریب الراوی فی شرح تقریب النوای، ج ۱ ص ۲۳۰. المؤلف: عبد الرحمن بن ابی بکر. جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ (المتوفی ۹۱۱ھ). حققه: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابی. الناشر: دار طيبة)

وقال أحمد في رواية أبي الحارث وقد سأله عن مراسلات النخعي؛ قال: ما أصلحها، ليس بها بأس، أصلح من مراسلات الحسن.

(الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث. الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ج ۱۵ ص ۴۱۹ المؤلف: إبراهيم النحاس. الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. الفيوم - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م)

امام حاکم رضی اللہ عنہ نے ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کی مراسلات کو مراسلات صحیحہ شمار کیا ہے۔

☆

(تدریب الراوی ج ۱ ص ۲۲۹)

امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

☆

فَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: مَرَّاسِيلُ إِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَرَّاسِيلِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنْهُ أَيْضًا: أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَرَّاسِلَاتِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. (تدریب الراوی ج ۱ ص ۲۳۱)

مراسیل ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ، مراسیل شعبی رضی اللہ عنہ سے مجھے زیادہ پسند ہیں۔ اسی طرح ان کی مراسلات سالم رضی اللہ عنہ، قاسم رضی اللہ عنہ اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی مراسلات سے بہتر ہیں۔

امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

☆

وَمُرْسَلَاتُ إِبْرَاهِيمَ صَیِّحَةً إِلَّا حَدِيثَ تَاجِرِ الْبَحْرَيْنِ وَحَدِيثَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ

(السنن الكبرى ج ۱ ص ۲۲۸ تحت رقم 682. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته الله (المتوفى ۳۵۸هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳هـ) امام طحاوی رحمته الله فرماتے ہیں: ☆

كَانَ إِبْرَاهِيمُ، إِذَا أُرْسِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، لَمْ يُرْسَلْهُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ عِنْدَهُ وَتَوَاتُرِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

(شرح معاني الآثار، ج ۱ ص ۲۲۶. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوی رحمته الله (المتوفى ۳۲۱هـ). حققه وقدم له: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۴هـ)

☆ امام دارقطنی رحمته الله نے حضرت ابراہیم نخعی رحمته الله کے اثر کے بعد جو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کتاب الحدود والديات میں ہے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمته الله حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال اور فتویٰ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابراہیم نخعی رحمته الله کے اوپر بیان کردہ کو اثر کو بیان کیا ہے۔

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا إِرسَالٌ، فَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَبِرَأْيِهِ وَبِفُتْيَاهُ. قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ أَحْوَالِهِ عُلُقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ يَزِيدَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ كِبَرَاءِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ الْقَائِلُ: إِذَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ سَمَّيْتَهُ لَكُمْ.

(سنن الدارقطني، ج ۳ ص ۲۲۶ رقم 3365. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن

مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۳۸۵ھ)۔
 حققہ وضبط نصہ وعلق علیہ: شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبی، عبد
 اللطیف حرز اللہ، أحمد برہوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان الطبعة:
 الأولى ۱۴۲۳ھ)

6.12: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آثار

اثر نمبر 14:- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ

عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ".

(شرح معانی الآثار، ص ۲۲۵، رقم 1357، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن
 سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجری المصری المعروف بالطحاوی رحمۃ اللہ علیہ
 (المتوفی: 321ھ) حققہ وقدام له: (محمد زہری النجار - محمد سید جاد الحق) من
 علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم کتبہ وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد
 الرحمن المرعشلی - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم
 الكتب، الطبعة: الأولى - 1414ھ و 1994م)

ترجمہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز
 پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت پہلی تکبیر کے موقع پر رفع
 یدین کرتے تھے۔

۱ علامہ ماردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "وهذا سند صحيح"۔ (الجوہر النقی ج ۲ ص ۷۴)

۲ علامہ عینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "باسناد صحيح"۔

(عمدة القاری ج ۵ ص ۳۹۹ طبع مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

۳ علامہ انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "وسنده صحيح"۔ (نیل الفرقین ص ۱۳۲)

۴ امام طحاوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ، ثُمَّ قَدْ تَرَكَ هُوَ
 الرَّفْعَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ

عِنْدَهُ نَسُخُ مَا قَدْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. (طحاوی تحت حدیث رقم 1357)

ترجمہ یہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو ہاتھ اٹھانے دیکھا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کو ترک کر دیا۔ انہوں نے رفع یدین کو اسی لیے ترک کیا ہے کہ ان کے پاس اپنی روایت کے منسوخ ہونے کا ثبوت پہنچ گیا تھا۔ آپ ﷺ کے اس عمل سے رفع یدین کرنے والوں پر حجت قائم ہوگئی۔

اثر نمبر 15:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ".

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (مصنف ابن أبي شيبة) ج 1 ص 213 رقم 2452.
المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى 235هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد الرياض. الطبعة: الأولى، 1409هـ)

(معرفة السنن والآثار، ج 2 ص 228 رقم 3309. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى 358هـ). المحقق: عبد المعطي أمين قلعي. الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، دار قتيبة، دمشق، بيروت، دار الوعي، حلب، دمشق، دار الوفاء، المنصورة، القاهرة. الطبعة: الأولى، 1412هـ)

ترجمہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ صرف نماز شروع کرتے وقت پہلی تکبیر کے موقع پر رفع یدین کرتے تھے۔"

فائدہ اس حدیث کی سند کے تمام راوی بخاری کے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ترک رفع یدین پر عامل تھے۔ اگر رفع یدین ترک نہ کر دیا گیا ہوتا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ضرور رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ جو کہ امام التفسیر ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع

یدین کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ خود رفع یدین والی حدیث کے راوی ہیں۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہما کا رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنا دلیل ہے کہ رفع یدین متروک ہے۔ جن روایات میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ منسوخ ہیں۔

اثر نمبر 16:- قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

حَكِيمٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ".

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص 59 رقم 108. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبغي المدني رضى الله عنه (المتوفى 179هـ). تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الثانية)

(الحجة على أهل المدينة، ج 1 ص 94. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني رضى الله عنه (المتوفى: 189هـ). المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري. الناشر: عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الثالثة، 1403هـ)

ترجمہ حضرت عبدالعزیز بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز کی ابتداء میں تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اٹھاتے تھے اور اس کے سوا میں نہیں اٹھاتے تھے۔“

فائدہ جس طرح امام مجاہد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ترک رفع یدین روایت کی ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہما کے ایک اور شاگرد عبدالعزیز بن حکیم رضی اللہ عنہما بھی ترک رفع یدین روایت کرتے ہیں۔ تو اس سند میں عبدالعزیز بن حکیم رضی اللہ عنہما، مجاہد رضی اللہ عنہما کا متابع ہے۔ حالانکہ اس حدیث کو متابعت کی حاجت نہیں، کیونکہ اس کی سند بخاری شریف والی ہے اور صحیح ہے۔ تاہم متابعت سے اور بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن ابان بن صالح رضی اللہ عنہما پر اگرچہ کلام ہے مگر یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ عنہما بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے ان کی حدیث سے احتجاج کیا ہے۔

ان آثار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صرف تکبیر تحریمہ کے

وقت ہی رفع یدین کر کے تھے۔ اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کام جو انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھا، منسوخ ہو چکا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو رفع یدین کی روایات مروی ہیں وہ ابتدائے اسلام کے زمانے کی ہیں جس کو آپ ﷺ نے بعد میں ترک کر دیا تھا۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ رضی اللہ عنہما سے صرف تکبیرات ذکر کرتے ہیں:

اثر نمبر 17:- مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.

(الموطأ، ج ۲ ص ۲۰۴ رقم 249. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي السدني رحمه الله (المتوفى 91هـ). المحقق: محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. أبوظبي. الإمارات. الطبعة: الأولى، 132هـ)

(المصنف، ج ۲ ص ۲۳ رقم 2503 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمه الله (المتوفى: 211هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403)

ترجمہ حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں تکبیر کہتے، جب کبھی نماز میں جھکتے اور اٹھتے۔

6.12.1:- حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اہمیت

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگرچہ مجاہد رضی اللہ عنہما حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ترک رفع یدین بیان کرتے ہیں لیکن طاؤس رضی اللہ عنہما نے مجاہد رضی اللہ عنہما کے خلاف حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل رفع الیدین عند الركوع وعند الرفع منہ بھی روایت کیا ہے جو ان کی روایت مرفوعہ کے مطابق ہے۔ لیکن اس کے جواب میں امام طحاوی رضی اللہ عنہما

نے دونوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ شروع میں اپنی روایت مرفوعہ کے مطابق عمل کرتے ہوں گے لیکن بعد میں جب انہیں رفع یدین کے نسخ کا علم ہوا ہوگا تو انہوں نے رفع یدین چھوڑ دیا ہوگا۔ (طحاوی ج ۱ ص ۲۲۵)

علامہ عینیؒ بھی حدیث عبداللہ بن عمروؓ سے رفع یدین کے منسوخ ہونے سے استدلال کرتے ہیں: "ويؤيد النسخ مارواه الطحاوي باسناد صحيح".

(عمدة القاری ج ۵ ص ۳۹۹)

امام بخاریؒ کے استاذ ابو بکر بن ابی شیبہؒ اور امام طحاویؒ سے مروی حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے اس اثر کے تمام راوی ثقہ اور بخاری کے رجال ہیں۔ اس لیے اس کے صحیح ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟! اس صحیح اثر سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ رفع یدین کے راوی حضرت عبداللہ بن عمروؓ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

6.13: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا اثر

اثر نمبر 18: - عن ابن عباس قال: تَرْفَعُ الْأَيْدِيَّ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَكَهُ وَعَنِ الصَّفَا. وَالْمَرْوَةَ وَفِي عِرْفَاتٍ. وَفِي جَمْعٍ وَعِنْدَ الْجِمَارِ.

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار رقم 2465 المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى العيسى. (المتون ۲۳۵ھ)

المحقق: محمد عوامة الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراچی

الطبعة: الثانية (۲۰۱۵ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ (مرفوعاً، موقوفاً) فرماتے ہیں: "رفع یدین سات مقامات پر کیا جائے: (۱) جب نماز کے لیے کھڑا ہو، (۲) جب بیت اللہ کو دیکھے، (۳) صفا پر، (۴) مروہ پر، (۵) عرفات اور (۶) مزدلفہ میں وقوف کے وقت اور (۷) رمی جمار کے وقت۔"

اثر نمبر 19: - حَدَّثَنَا أَبُو فَضَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ: لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَفِي عَرَفَاتِهِ وَفِي جَمْعٍ، وَعِنْدَ الْجَبَارِ.
(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. (مصنف ابن ابن شيبه) ج ۱ ص ۲۱۳ رقم 2450؛ ج ۳ ص ۲۳۶ رقم 15752)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”رفع یدین نہیں کیا جاتا، مگر سات مقامات پر: (۱) جب نماز کے لیے کھڑا ہو، (۲) جب بیت اللہ کو دیکھے، (۳) صفا پر، (۴) مروہ پر، (۵) عرفات میں، (۶) مزدلفہ میں اور (۷) رمی جمار کے وقت۔“

فائدہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بہ صیغہ حصر ”لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ“ بھی ہے اور بغیر صیغہ حصر ”تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ“ بھی ہے۔ مقصود دونوں کا ایک ہی ہے۔ گورفع ایدی (ہاتھ اٹھانا) کے جملہ مواقع کا حصر اس نص میں مقصود نہ ہو لیکن نماز پنجگانہ میں جو رفع یدین ہے، اس کے لحاظ سے ضرور بالضرور ہے۔ اس لیے جب رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت جملہ نصوص میں صلوات پنجگانہ سے تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ رفع یدین بھی پنجگانہ نماز میں تھا۔ اس سے سکوت فرمایا گیا اور سکوت معرض بیان میں بیان شمار ہوتا ہے۔ اس لیے بلحاظ صلوات پنجگانہ ضرور حصر ہے۔ غرض حصر حقیقی نہیں، اضافی ہے۔

یہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے جس کی سند صحیح ہے۔ اس روایت میں آپ رضی اللہ عنہما نے رفع یدین کے مقامات بیان کیے ہیں کہ رفع یدین کہاں کہاں کیا جائے گا، جس میں نماز کا بھی ذکر ہے۔ باقی چھ مقام حج میں ہیں۔ تو نماز کے متعلق رفع یدین کا ذکر آپ رضی اللہ عنہما نے صرف پہلی بار کیا ہے یعنی نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کی جائے گی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہما نے رکوع وسجود والی رفع یدین کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ اگر رکوع کے وقت رفع یدین ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہما ضرور اس کا ذکر کرتے مگر آپ رضی اللہ عنہما نے صرف ابتداء کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جن روایات میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ متروک ہیں یعنی نسخ سے پہلے کی ہیں جیسا کہ امام طحاوی رضی اللہ عنہ نے شرح معانی الآثار میں وضاحت کی ہے۔

فائدہ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: رَاحَةُ الْعَيْنَيْنِ فِي تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ (ترک رفع یدین)

باب 7

سجدہ اور طاق رکعت کے بعد قیام کا

طریقہ

7.1: - سجدہ میں جانے کا مسنون طریقہ

مسئلہ 1 قومہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں، سجدہ میں جاتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔

(الف) سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف لے جائیں۔

(ب) جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں تو اس کے بعد سینے کو جھکائیں۔

(ج) گھٹنوں کو زمین پر رکھنے کے بعد ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھیں۔

حدیث نمبر 1: - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَالْحَسَنُ

بْنُ عَلِيٍّ الخَلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ

مُجْرٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ

قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ".

وَزَادَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَلَمْ يَزِدْ شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

كُلَيْبٍ، إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شَرِيكٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَرَوْنَ أَنَّ يَضَعُ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

وَرَوَى هَمَّامٌ، عَنْ عَاصِمٍ هَذَا بِإِسْنَادٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حَجْرٍ.

(سنن ترمذی رقم: 268؛ سنن ابوداؤد رقم: 838؛ سنن ابن ماجہ: رقم: ۸۸۲؛ نسائی رقم: ۱۰۸۸، ۱۱۵۳؛ سنن

الکبریٰ نسائی رقم: 680، 744؛ سنن دارمی رقم: 1359؛ سنن صغیر: بہقی رقم: 411؛ معرفۃ السنن والآثار: بہقی

رقم: 3487؛ شرح السنۃ بغوی رقم: 642؛ مستدرک حاکم: ج ۱ ص ۳۳۹ تحت رقم: 822؛ ابن خزیمہ رقم

626؛ ابن حبان رقم: 1912؛ وقال العلامة النیسوی فی آثار السنن: فالحدیث لا ینعط

عن درجة الحسن لكثرة طرقه: حاشیة آثار السنن ص ۱۶۹)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے زمین پر ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے رکھتے تھے۔“

حدیث نمبر 2: - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثنا أَبِي

قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَقَمَةَ

وَالْأَسْوَدِ، فَقَالَا: «حَفِظْنَا عَنْ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ عَلَى

رُكْبَتَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ» وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

(شرح معانی الآثار: ج ۱ ص ۲۵۶ رقم: 1528 المؤلف: أبو يعقوب أحمد بن محمد بن

سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي عم

(المتوفى ۳۲۱ھ) حققه وقدم له: محمد زهري النجار. محمد سيد جاد الحق من

علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتيبه وأبوابه وأحاديثه: يوسف عبد

الرحمن المرعشلي. الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عالم

الكتب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسود رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں: ”ہمیں حضرت عمر

رضی اللہ عنہ کی نماز یاد ہے کہ وہ رکوع کے بعد سجدہ کے لئے جھکے جس طرح اونٹ بیٹھنے کے

وقت جھکتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھا۔“

حدیث نمبر 3: - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّيْمِيِّ، عَنْ كَثْمِيسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ إِذَا

سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ
ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ
وَأَعْجَبَ بِهِ».

(مصنف عبدالرزاق: ج ۲ ص ۷۷۷ رقم 2958 طبع کراچی؛ مصنف عبدالرزاق
ج ۲ ص ۱۱۶ رقم ۲۹۶۳ دارالکتب العلمیہ، بیروت ۲۰۱۰ء؛ وقد سقط من الاسناد
عن ابیه۔ كما فی مصنف ابن ابی شیبہ: «عبد الله بن یسار عن ابیه۔ فلیعلم!»)

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ،
«أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقَعُ رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ يَدَاهُ، ثُمَّ رَأْسَهُ».

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج ۲ ص ۳۹۰ رقم 2721 المؤلف: أبو بكر
بن أبي شيبه. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى العيسى ع (المتوفى
۲۳۵هـ). المحقق: محمد عوامة الناشر: ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه،
کراچی. الطبعة: الثانية ۱۴۲۸ھ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں:
”وہ جب سجدہ کرتے، تو پہلے گھٹنوں کو رکھتے، پھر ہاتھوں کو، پھر چہرے کو، اور جب
سجدہ سے اٹھنے کا اردو کرتے تو پہلے چہرے کو اٹھاتے، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو۔“

حدیث نمبر 4: - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: نَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ
قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بِرُوكِ الْفَعْلِ.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۴۸۸، ۴۸۹، رقم ۲۷۱۷ طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه،
کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

(مسند ابی یعلیٰ رقم 654: شرح معانی الآثار رقم 1616، 1617، سنن کبریٰ بیہقی
رقم 2674، شرمکوز ہجر للبحوث والدراسات العربیہ والاسلامیہ، ممرتہ
السنن والآثار بیہقی رقم 3503)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں

سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے گھٹنے زمین پر ہاتھوں سے پہلے رکھے تھے۔ اور ایسے نہ بیٹھے جیسا اونٹ بیٹھتا ہے۔

حدیث نمبر 5: - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۴۸۹، رقم ۲۷۱۸ طبع ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (سجدہ کو جاتے ہوئے) ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے۔

حدیث نمبر 6: - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۴۹۰ رقم ۲۷۱۹ طبع ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ، حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سجدہ کو جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے۔“

حدیث نمبر 7: - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۴۹۰ رقم ۲۷۲۰ طبع ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب سجدہ کو جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے۔ اور جب سجدہ سے اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔“

حدیث نمبر 8: - حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ

الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، فَكِرَةٌ ذَلِكُ وَقَالَ: هَلْ يَفْعَلُهُ إِلَّا
مَجْنُونٌ؟!..

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۴۹۰ رقم ۲۷۲۲ طبع ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ،
کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص سجدہ کو جاتے ہوئے گھٹنوں سے
پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ اور فرمایا:
”ایسا تو کوئی مجنون شخص ہی کر سکتا ہے؟!!“۔

حدیث نمبر 9:- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حِجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ
عَبْدِ اللَّهِ، إِذَا انْحَطُّوا لِلسُّجُودِ وَقَعَتْ رُكْبَتُهُمْ قَبْلَ أَيْدِيهِمْ..

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۴۹۰ رقم ۲۷۲۶ طبع ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ،
کراچی ۱۴۲۸ھ، طبع ثانی)

ترجمہ حضرت ابواسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب جب
سجدہ کے لیے جھکتے تھے، تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے۔“

حدیث نمبر 10:- أَخْبَرَنَا أَبُو ظَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى
بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ
سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأَمَرْنَا
بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ..

(صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۶۶ رقم ۶۲۸ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت ۲۰۰۹ء)

ترجمہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پہلے ہم ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے
مگر ہمیں بعد میں حکم ملا کہ گھٹنے پہلے رکھا کرو۔“

حدیث نمبر 11:- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَعِيدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَبْرُكُ كَمَا
يَبْرُكُ الْجَمَلُ.."

(سنن ابی داؤد ص ۸۲۸ رقم 841، تحقیق علامہ البانی۔ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض ح ۱۴۲ھ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی عداً ایسا کرتا ہے کہ اپنی نماز میں یوں نیچے کو جاتا ہے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے (یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے)۔

تنبیہ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس بات کے اثبات کے لیے بیان کی ہے کہ اگلی روایت جو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بیان کی ہے، اس روایت کا آخری جملہ اس میں نہیں آیا ہے۔ اس روایت کا راوی عبد اللہ بن نافع رحمہ اللہ ثقہ تر ہے اور دوسری روایت کا راوی عبد العزیز بن محمد رحمہ اللہ اس کے مرتبے کا نہیں ہے۔ لہذا اس کی بیان کردہ زیادت غیر محفوظ ہے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ان الفاظ سے مروی ہے:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلِيَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

(سنن ابی داؤد ص ۸۲۸ رقم ۸۴۰، تحقیق علامہ البانی۔ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض ح ۱۴۲ھ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی مانند نہ بیٹھے بلکہ چاہیے کہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ نیچے رکھے۔“

جواب جمہور نے اس کے کئی جوابات دیئے ہیں:

۱ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے منسوخ ہے۔ جس میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پہلے ہم ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے مگر ہمیں بعد میں حکم ملا کہ گھٹنے پہلے رکھا کرو۔“

۲ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا متن یقیناً کسی راوی نے تبدیل کیا ہے۔ اصل میں یوں تھا: ”اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر

رکھے۔ ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں کوئی سجدہ کرنا چاہے تو گھٹنوں کو پہلے رکھے اور سانڈ کی طرح زمین پر نہ گرے۔“ اور اثر مہدی نے اس کو اپنی سنن میں ابن ابی شیبہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

۳ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی حدیث کے خلاف اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے مطابق روایت آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور بعد میں ہاتھوں کو۔ لیکن اس حدیث کے ایک راوی عبد اللہ بن سعید رضی اللہ عنہ کو یحییٰ القطان رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔

۴ حافظ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پہلا جز دوسرے کے خلاف ہے کیونکہ آدمی جب ہاتھوں کو پہلے رکھے گا تو بالکل یہی کیفیت اونٹ کے بیٹھنے کی ہوتی ہے۔

۵ اس حدیث کے بعض راوی اس جملے کو سرے سے ہی حذف کر دیتے ہیں۔

۶ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقولہ آثار کے عین مطابق ہے۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار۔

۷ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے کئی شواہد حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئے ہیں۔

۸ جمہور علماء اور فقہاء کا یہی مذہب ہے۔

۹ اس حدیث کا آخر اس کے اول کے معارض ہے۔ اس لیے کہ شروع میں بروک اہل سے منع کر رہے ہیں، اور اونٹ بیٹھتے وقت زمین پر پہلے ہاتھ ہی ٹیکتا ہے۔ تو اس سے باوجود منع کرنے کے آگے اسی کا امر فرما رہے ہیں کہ اس کو چاہیے رکبتین سے پہلے یدین زمین پر رکھے۔ یہ بین تعارض ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کے رکبتین تو رجلین یعنی ٹانگوں کی طرف ہوتے ہیں، اور آبیہ (جانور) کے

رکبتین یدین میں ہوتے ہیں۔ لہذا اونٹ جب بیٹھتا ہے، تو وہ اگرچہ پہلے یدین زمین پر رکھتا ہے جیسا کہ مشہور و معروف مشاہد ہے، لیکن چونکہ اس کے رکبتین بھی یدین میں ہیں۔ لہذا وہ رکبتین بھی زمین پر پہلے رکھتا ہے اور حدیث میں حضور اکرم ﷺ کی مراد رکبتین ہی کو پہلے رکھنے سے منع کرنا ہے۔ لہذا تعارض ختم ہو گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اہل لغت بھی اس کو نہیں پہچانتے۔ لہذا حدیث میں تعارض ہی ماننا پڑے گا اور حدیث کے صحیح الفاظ وہ ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں وارد ہیں۔

☆ حافظ ابن قیمؒ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ترجیح کے کم و بیش دس دلائل بیان کیے ہیں۔

7.2: اعضاء سجده اور کیفیت سجده

مسئلہ 2 سجده میں دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں پیر کی انگلیاں اور پیشانی مع ناک زمین پر ٹیک دیں۔

حدیث نمبر 12:- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَةِ يَدَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَلَا نَكُفُّ الشِّيَابَ وَالشَّعْرَ." (صحیح بخاری رقم: 812؛ صحیح مسلم رقم: 230-490)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجده کروں: پیشانی مع ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کی انگلیوں پر۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔“

مسئلہ 3 سجده میں پیشانی دونوں ہاتھ کے درمیان رکھیں۔

حدیث نمبر 13:- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَاثِلٍ، عَنْ مَنَعَةَ بْنِ وَاثِلٍ، وَمَمُونٍ لَهُمَا أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَاثِلِ بْنِ مُجَرِّ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. (مسلم رقم: 54-401)

ترجمہ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سجدہ کیا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان (یعنی پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھا)۔

حدیث نمبر 14:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ مُجَرِّ قَالَ: "رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذْوِ أُذُنَيْهِ".

(المصنف، ج ۲ ص ۷۵ رقم 2948، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمه الله (المتوفى: 211 هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله، الناشر: المجلس العلمي - الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1403)

(سنن النسائي رقم: 1265؛ مصنف عبد الرزاق: ج ۲ ص ۱۱۳ رقم ۲۹۵۳ طبع دار الكتب العلمية، و اسنادہ صحیح)

ترجمہ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے سجدہ کیا، ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا۔"۔
سجدے میں جب ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا جائے گا تو لامحالہ پیشانی ہاتھوں کے درمیان میں ہوگی۔

مسئلہ 4. بحالت سجدہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھیں اور پیر کی انگلیوں کو بھی قبلہ کی جانب موڑے رکھیں۔

حدیث نمبر 15:- فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَيْتُهُ... فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. (بخاری: 828)

ترجمہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے جب سجدہ کیا تو ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلائے اور بند کئے بغیر زمین پر رکھا (یعنی مٹھی کھلی ہوئی رکھا اور انگلیوں کے درمیان کشادگی کے بجائے انہیں آپس میں ملا کر زمین پر رکھا) اور پیر کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھا۔

حدیث نمبر 16:- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضْدِيهِ عَنْ إِبْطِيهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ. مُخْتَصِرٌ (سنن نسائی: ص ۷۹ رقم 1101 - طبع ریاض)

ترجمہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نبی پاک ﷺ جب زمین پر سجدہ کے لیے جاتے، تو اپنے بازو کو بغل سے دور رکھتے اور پیر کی انگلیوں کو موڑ دیتے (تاکہ قبلہ رخ ہو جائیں)۔“

مسئلہ 5 کہنیوں کو زمین پر نہ بچھائیں بلکہ زمین سے اٹھی رکھیں۔

حدیث نمبر 17:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». (صحیح بخاری رقم: 822؛ صحیح مسلم رقم: 233-493)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سجدہ میں درست رہو اور تمہارا کوئی اپنے بازو کو زمین پر نہ بچھائے جس طرح سے کہ کتا زمین پر بازوؤں کو بچھاتا ہے۔“

حدیث نمبر 18:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ إِيَادٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». (صحیح مسلم رقم: 234-494)

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم جب

سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور کہنیوں کو زمین سے اٹھی رکھو۔

مسئلہ 6 سجدہ میں دونوں بازو کو پہلوؤں سے دور رکھیں (البتہ اس قدر نہ پھیلائیں جس سے برابر کے نمازیوں کو تکلیف ہو)۔ نیز پیٹ اور رانوں کے درمیان فاصلہ رکھیں۔

حدیث نمبر 19:- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَجَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى تَرَى إِبْطِيئَهُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ "بَيَاضُ إِبْطِيئِهِ".

(بخاری رقم 3564؛ مسلم رقم 235-495)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مالک ابن بھیننہ الأسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنے بازو کو بغل سے اس قدر ہٹا کر رکھتے کہ ہم آپ ﷺ کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے۔“

حدیث نمبر 20:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيه، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، ثنا عَمِّي، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَكْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ وَادْعَمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَتَجَافَ عَنْ ضَبْعَيْكَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ مَعَكَ".

قَدْ اِحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِآدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَكْرِيِّ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهَذَا صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

:التعليق - من تلخيص الذهبي 827 - صحيح

(المستدرک علی الصحیحین ج ۱ ص ۳۵۰ رقم 827 المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى ۳۰۵ھ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة: الأولى ۱۳۱ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(سجدہ میں) اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھاؤ اور ہتھیلیوں کو زمین پر جما دو اور بازوؤں کو دونوں پہلو سے دور رکھو، جب تم اس طرح سجدہ کرو گے تو تمہارے ساتھ تمہارے سب اعضاء سجدہ کریں گے۔“

مسئلہ 7 سجدہ کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ تین مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں، پیشانی ٹکیتے ہی فوراً اٹھالینا مناسب نہیں ہے۔

حدیث نمبر 21:- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ

أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهَدَنِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ».

(سنن ترمذی رقم 261؛ سنن ابوداؤد رقم: 886؛ سنن ابن ماجہ رقم 890 واللفظ لہ)

ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی رکوع کرے، تو اسے چاہیے کہ رکوع میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ کہہ لیا کرے۔ جب اس نے ایسا کر لیا، تو اس نے رکوع کو پورا ادا کر لیا۔ اور جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، تو اسے چاہیے کہ سجدہ میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہہ لیا کرے۔ جب اس نے ایسا کر لیا تو اس نے سجدہ پورا کر لیا۔ اور یہ تعداد (کمال کی) ادنیٰ ہے۔“

حدیث نمبر 22:- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ

مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ: «أَمَرَنِي بِرُكُوعِي الضُّحَى كُلِّ يَوْمٍ، وَالْوِثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي عَنْ نَقْرَةِ كَنْقَرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءِ كَأَقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالتِّفَافِ كَالْتِّفَافِ الثَّعْلَبِ».

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ۱۳ ص ۶۸ رقم 8106 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى ۲۴۱ھ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ)

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالتَّطَبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ حَسَنٌ. □

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۲ ص ۷۹، ۸۰ رقم 2425 المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيتمي رحمه الله (المتوفى ۸۰۷ھ) المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا حکم فرمایا اور مجھے تین باتوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا: ”(۱) میں ہر روز چاشت کی نماز کی دو رکعت ادا کیا کروں۔ (۲) میں سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کر لیا کروں۔ (۳) میں ہر مہینے تین روزے رکھا کروں۔“ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تین باتوں سے) منع فرمایا: ”(۱) سجدہ میں مرغ کی طرح چونچ مارنے سے (یعنی جس طرح مرغ زمین پر چونچ مارتا ہے اور فوراً اٹھا لیتا ہے اس طرح سجدہ نہ کرو)۔ (۲) اور کتے کی بیٹھک بیٹھنے سے (کہ سرین کوزمین پر ٹیک کر دونوں پیروں کو کھڑا کر دیں اور ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائیں)۔ (۳) لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے۔“

مسئلہ 8 سجدہ سے فارغ ہو جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور بائیں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رکھیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں۔

حدیث نمبر 23: - عن عائشہ (مرفوعاً): «وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.» (مسلم رقم 240-498)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے

تو سجدہ میں نہ جاتے، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے۔ اور فرماتے تھے: ”ہر دو رکعت میں التحیات ہے اور بائیں پاؤں بچھاتے اور دائیں پیر کھڑا رکھتے۔“

حدیث نمبر 24: - عن أبي حميد الساعدي (مرفوعاً): ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ

فِيُجَافِي يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْبِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ. وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. (سنن ابی داؤد رقم 730، واللفظ له؛ سنن ترمذی: رقم 304)

ترجمہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”پھر آپ ﷺ سجدہ کے لئے زمین کی طرف جھکے اور سجدہ میں ہاتھوں کو پہلو سے دُور رکھا۔ پھر سجدہ سے سر کو اٹھایا اور اپنے بائیں پیر کو بچھایا اور اس پر بیٹھے اور سجدہ کی حالت میں پیر کی انگلیوں کو (بجانب قبلہ) موڑے رکھا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیا۔“

مسئلہ 9 جلسہ میں کم از کم اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي کہہ سکیں۔

حدیث نمبر 25: - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي.

تحقیق إسنادہ من جهة الأعمش صحيح. أما إسناد العلاء بن المسيب ففيه طلحة بن يزيد وهو أبو حمزة الأنصاري- لم يرو عنه غير عمرو بن مرقة ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ولم يخرج له البخاري سوى حديث واحد متابعه. كما هو مبسوط في التعليق على "المسند" (19268)، لكنه متابع على كل حال.

وأخرجه ضمن حديث مطول أبو داود (874)، والنسائي 2/199، 200، 231 من

طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن رجل من بنى عبس، عن حذيفة، وقال النسائي في سننه الكبرى: يآثر الحديث (1382): هذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر.

وهو في مسند أحمد (23375) و(23399).

(سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٢٣ رقم 898 المؤلف: ابن ماجه - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني عه (المتوفى: ٢٤٣هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله. الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى: ١٤٢٣هـ)

ترجمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ دونوں سجدے کے درمیان یعنی جلسہ میں رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي۔ (اے میرے رب! میری مغفرت فرما۔ اے میرے رب! میری مغفرت فرما) کہتے تھے۔“

حدیث نمبر 26: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، حَدَّثَنَا كَامِلُ

أَبُو الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَغَافِرِيْ وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ.

إسناده حسن. كامل أبو العلاء. وهو كامل بن العلاء التميمي - صدوق حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه ابن ماجه (898) والترمذی (283) و(284) من طريق كامل أبي العلاء. بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد (2895).

وفي الباب عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وسيأتي عند المصنف برقم (874).

(سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٨ رقم 850 المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عبد الرحمن بن عمرو الأزدي السجستاني عه (المتوفى: ٢٤١هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى: ١٤٢٣هـ)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: رَبِّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي.

تحقیق

إسناده حسن، كامل أبو العلاء - وهو كامل بن العلاء التميمي - صدوق حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (850)، والترمذى (283) و (284) من طريق كامل أبي العلاء، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم فى "المستدرک" 1/ 262. وهو فى "مسند أحمد" (2895).

(سنن ابن ماجه، ج 2 ص 23 رقم 898. المؤلف: ابن ماجه - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله (المتوفى: 233هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بلى - عبد اللطيف حرز الله. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى، 1430هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں "اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي" پڑھتے تھے۔

ترجمہ اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف فرما، مجھے ہدایت کی نعمت سے نواز، اور میری روزی کی کفالت فرما۔

تنبیہ چونکہ فرائض میں تخفیف کا حکم ہے۔ اس لئے اس دعا کو سنن و نوافل میں پڑھا جائے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں اس دعا کو نماز تہجد میں پڑھنے کی صراحت موجود ہے۔

مسئلہ 10 جلسہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں جائیں اور اس سجدہ کو بھی پہلے سجدہ کی طرح ادا کریں۔

حدیث نمبر 27: - حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ

رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ. وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ قُمْ حَتَّى تَعْتِدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. وَمَا أَنْقَصَتْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تُنْقِصُ مِنْ صَلَاتِكَ.

(طحاوی رقم 1393، واللفظ له؛ مسند احمد رقم 18995، 18997)

ترجمہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس (اعرابی) کو (نماز کی تعلیم دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا:۔۔۔۔۔ پھر تو رکوع کر یہاں تک کہ رکوع میں مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ پھر رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ پھر اٹھو یہاں تک کہ مطمئن اور ساکن ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں مطمئن اور ساکن ہو جاؤ۔ پھر اٹھو یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ۔

7.3: طاق رکعت کے بعد قیام کا طریقہ

مسئلہ 11 سجدہ سے اٹھتے وقت زمین سے پہلے سراٹھائیں، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اور بغیر کسی عذر کے ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹیکیں۔

حدیث نمبر 28: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مَجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

حدیث حسن۔ وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سعي الحفظ، لكنه لم ينفرد به، فللحديث طريق آخر- وهو وإن كان منقطعاً- يتقوى به

تحقق

فيحسُن، وهو الطريق التالي عند المصنف.

وأخرجه ابن ماجه (882)، والترمذی (267)، والنسائی فی الكبرى (680) و (744) من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد. وحسنه الترمذی. وصححه ابن خزيمة (626) و (629)، وابن حبان (1912)، والحاكم 226/1.

قال الترمذی: والعمل عليه (أى: على هذا الحديث) عند كثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وقال صاحب "عون المعبود": والحديث يدلُّ على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعها عند النهض قبل رفع الركبتين، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول.

وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في تعليقنا على الحديث من صحيح ابن حبان، و"زاد المعاد" لابن القيم 222/1-231. طبع مؤسسة الرسالة. (سنن أبي داود ج 2 ص 129 رقم 838. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني عمه (المتوفى: 255هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلي الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى 1430هـ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ جب سجدے میں جاتے، تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو رکھتے تھے اور جب سجدے سے اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین سے اٹھاتے تھے۔"

حدیث نمبر 29:- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شَبُوتَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ شَبُوتَيْهِ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ

عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَيْهِ. وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ. إسناده صحيح.

تحقيق

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (3054) باللفظ الذي ساقه أحمد بن حنبل. وأخرجه أحمد في "مسنده" (6347). ومن طريقه أخرجه البيهقي 135/2. وأخرجه البيهقي 135/2 من طريق أحمد بن محمد بن شبويه. و 135/2 من طريق أحمد بن يوسف السلمى. كلاهما عن عبد الرزاق. بهذا الإسناد. ولفظ السلمى كلفظ ابن شبويه.

وأخرجه البيهقي أيضاً 135/2 من طريق محمد بن رافع. به. وأخرجه البيهقي كذلك 135/2 من طريق محمد بن عبد الملك الغزال. به. قلنا: ورواية ابن شبويه ومحمد بن رافع لا تخالف رواية الإمام أحمد وإن كانت رواية الإمام أحمد أبين كما قال البيهقي. وقد أخطأ ابن رافع في فقه الحديث فظن أنه في الاعتماد في الرفع من السجود. فوضعه في ذلك الباب كما حكاه المصنف. وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" 199/3. وابن أبي شيبة 1 395. والبيهقي 135/2 من طريق الأزرق بن قيس. قال: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. زاد البيهقي: فقلت لولده وجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر قالوا: لا ولكن هذا يكون. وإسناده صحيح. وانظر لزماماً الحديث الآتى برقم (994).

وقال ابن المنذر في "الأوسط" 198/3 - 199: واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام. فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام... وهكذا فعل مكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو مخزومة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخاً كبيراً. روى ذلك عن علي.

قلنا: هذا الرأي الأخير حكاه ابن هانئ في "مسائله" (259) عن الإمام أحمد أيضاً. وما حكاه عن الإمام أحمد أنه يقول بالاعتماد على اليدين مطلقاً إذا أراد القيام إلا

یثبت عنه، بل نقل ابن قدامة فی المغنی 2/213 عن القاضی أنه لا یختلف قول أحمد أنه لا یعتمد علی الأرض، إلا أن یشق ذلك علیه فیعتمد علی الأرض. ونقل ابن قدامة أن حجة مالک والشافعی حدیث مالک بن الحویرث قال فی صفة صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوی قاعداً، ثم اعتمد علی الأرض، وعزاه للنسائی. قلنا: هو عند البخاری (824)، والنسائی فی الکبریٰ (743).

وبقول أحمد قال أبو حنیفة فیما حکاه عنه صاحب الهدایة مع شرحه البنایة 2/252_250

(سنن أبی داود، ج 2 ص 232، 235 رقم 992. المؤلف: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی السجستانی رحمته (المتوفی: 255هـ). المحقق: شعیب الأرنؤوط - محمد کامل قره بلی الناشر: دار الرسالة العالمیة. الطبعة: الأولى، 1430هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نماز میں اٹھتے وقت آدمی ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دے۔“

حدیث نمبر 30: - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدِ الشَّوَالِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ.

(الكتاب المصنف فی الأحادیث والآثار (مصنف ابن ابی شیبہ) ج 1 ص 337 رقم 3998. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبه، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي رحمته (المتوفى 235هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة: الأولى، 1409هـ)

(مصنف ابن ابی شیبہ: ج 3 ص 333 رقم 3020، طبع ثانی، کراچی)

(السنن الکبریٰ ج 2 ص 195 رقم 2812. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخشروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته (المتوفى 358هـ). المحقق: محمد عبد

القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالث، ١٤٢٢ھ)
 (الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة. مما لم يخرج
 البخاري ومسلم في صحيحيهما، ج ٢ ص ٣٨٤ رقم 773. المؤلف: ضياء الدين أبو
 عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمته (المتوفى ٦٢٣ھ). دراسة وتحقيق: معالي
 الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الناشر: دار خضر للطباعة
 والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. الطبعة: الثالثة، ١٤٢٠ھ)

ترجمہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”فرض نماز کی سنت میں سے ہے کہ آدمی جب پہلی رکعتوں سے اٹھے تو زمین پر ٹیک نہ لگائے مگر جب کہ نہایت بوڑھا ہو کہ غیر ٹیک لگائے اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔“

حدیث نمبر 31:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَكَعَ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ رُكْبَتَهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيُكَبِّرُ وَيَهْوِي.

(المصنف، ج ٢ ص ١٥٥ رقم 2960. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمته (المتوفى ٢١١ھ). المحقق: أيمن نصر الدين الأزهرى. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة: الثانية، ١٤٠٠ھ)
 (المصنف، ج ٢ ص ١٤٦ رقم 2955. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رحمته (المتوفى: 211ھ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمته. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403ھ)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رکوع کرنے کے بعد سجدے کے لیے جاتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے ٹیکتے تھے اور ساتھ ہی تکبیر کہتے ہوئے جھک جاتے تھے، جیسے اونٹ بیٹھنے کے لیے جھکتا ہے۔“

7.4:- جلسہ استراحت مسنون نہیں ہے

مسئلہ 12 دوسرا سجدہ کر چکیں، تو تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے سیدھے پنجنوں کے بل

کھڑے ہو جائیں، جلسہ استراحت (یعنی دوسرے سجدہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے) کی ضرورت نہیں۔

حدیث نمبر 32: - عن ابی ہریرۃ (فی حدیث مُسئِ صَلَاتِهِ مَرْفُوعاً): "ثُمَّ اسْجُدْ

حَتَّى تَطْبِئَنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْبِئَنَّ جَالِسًا. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْبِئَنَّ سَاجِدًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا." (صحیح بخاری: رقم ۶۶۶)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ پھر سجدہ سے سر اٹھاؤ، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔“

تنبیہ اس قولی حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسرے سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانے کا حکم ہے۔

حدیث نمبر 33: - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

خَالِدٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوَّامَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ."

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وَخَالِدُ بْنُ إِيَّاسٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ

الْحَدِيثِ. وَيُقَالُ: خَالِدُ بْنُ إِيَّاسٍ، وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوَّامَةِ هُوَ صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ. وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ نَبْهَانٌ وَهُوَ مَدَنِيٌّ

(سنن ترمذی: رقم 288؛ المعجم الاوسط طبرانی رقم: 3281)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نبی پاک ﷺ اپنے نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے (یعنی سجدہ سے اٹھ کر بغیر بیٹھے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے)۔“

مذکورہ حدیث سے اہل علم کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر یقین ہے۔ وہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی (نماز میں دوسری اور تیسری رکعت کے لئے بغیر بیٹھے) پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔

پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس حدیث کی سند میں ایک راوی خالد بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے ہاں ضعیف ہے۔

حضرت امام ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **تحقیق**

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَخَالِدُ بْنُ إِيَّاسٍ وَيُقَالُ ابْنُ إِيَّاسٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَكَذَا أَعْلَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِهِ. قَالَ: وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَالَّذِي أُعْلِيَ بِهِ خَالِدٌ مَوْجُودٌ فِي صَالِحٍ وَهُوَ الْإِخْتِلَاطُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّخْصِصِ. انْتَهَى بِالْمَعْنَى. وَقَوْلُ التِّرْمِذِيِّ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقْتَضِي قُوَّةَ أَصْلِهِ وَإِنْ ضَعْفَ خُصُوصُ هَذَا الطَّرِيقِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

(فتح القدير، ج ۱ ص ۳۰۸، المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام رحمۃ اللہ علیہ (البتوني ۸۶۱ھ). الناشر: دار الفكر)

حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ اہل علم کے نزدیک عمل اسی حدیث پر ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس حدیث کا مضمون قوی اور صحیح ہے، اگرچہ یہ خاص سند کمزور ہے۔ **ترجمہ**

لہذا صحت مضمون کی وجہ سے یہ حدیث قابل حجت اور قابل عمل ہے، خصوصاً جب کہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور آثار تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ان آثار کی وجہ سے وہ ضعیف دور ہو جاتا ہے۔

علا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ مُعْتَمِدًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَإِنْ قُلْتِ: فِي سَنَدِهِ خَالِدُ بْنُ إِيَّاسٍ، وَقِيلَ: خَالِدُ بْنُ إِيَّاسٍ ضَعْفُهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ؛ قُلْتُ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: مَعَ ضَعْفِهِ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَيَقْوِيهِ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

(عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج ۵ ص ۲۰۲ المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني رحمته (المتوفى ۸۵۵ھ) الناشر: دار إحياء التراث العربى، بيروت)

ترجمہ اس حدیث کو قوی بنا دیتے ہیں وہ آثار جو اس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں۔

حدیث نمبر 34: - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، عَنْ عَيْسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.

(مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۰ رقم ۴۰۰۴، طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت امام شعبی رحمته کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔

حدیث نمبر 35: - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

(مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۰ رقم ۴۰۰۰-باب: مَنْ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ- طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت عبید بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔“

حدیث نمبر 36: - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. (مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۰ رقم ۴۰۰۱- طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں کے بل اٹھتے تھے۔

حدیث نمبر 37:- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ أَبِي الْمَعْلَى. عَنْ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ لَا يَقْعُدُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ حَتَّى يَقُومَ. (مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۱ رقم ۴۰۰۸، طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں پہلی اور تیسری رکعت میں جب (دوسرے سجدہ کے بعد) کھڑے ہوتے تو بیٹھتے نہیں تھے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔“

حدیث نمبر 38:- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ: رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي

الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ. قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ.

رَوَاهُ الظَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۲ ص ۱۳۶ رقم 2812، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيتمي رحمته اللہ تعالیٰ (الوفى ۸۰۷ھ) المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ۱۴۱۳ھ)

عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى قال: سمعتُ عبدَ الرحمنِ

بن يزيد يقول: رمقتُ عبدَ الله بن مسعودٍ في الصلاة فرأيتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ. قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ.

(مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۱۷ رقم ۲۹۷۱ طبع دارالكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن يزيد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

کو نماز میں دیکھا کہ وہ اٹھتے ہیں اور بیٹھتے نہیں۔ (شاگرد نے اس کی وضاحت یوں

کی)، یعنی وہ پہلی اور دوسری (یعنی تیسری) رکعت میں دوسرے سجدہ سے قیام کی

طرف اپنے قدموں کے پنجوں کے بل اٹھتے تھے۔“

حدیث نمبر 39:- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي. ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ

بْنُ يَعْقُوبَ. ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ. ثنا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَقْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ إِذَا صَلَّى فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ حِينَ يَقْضِي السُّجُودَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللهِ: هُوَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحِيحٌ.

(السنن الكبرى ج ۲ ص ۱۸۰ رقم 2764. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخضر وجردي الخراساني. أبو بكر البيهقي رحمته الله (الترغيب والترهيب ۵۸۱ هـ). المحقق: محمد عبد

القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳ هـ)

ترجمہ حضرت عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نماز میں دیکھا کہ جب وہ پہلی رکعت کے سجود پورے کر لیتے ہیں تو اپنے قدموں کے پنجوں کے بل اٹھتے ہیں اور بیٹھتے نہیں۔ حضرت امام بیہقی رحمته الله فرماتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔

حدیث نمبر 40:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السُّجُودِ الْآخِرَةِ وَفِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ.

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۱۱۷ رقم ۲۹۷۲ طبع دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں دوسرے سجدہ کے بعد پہلی اور دوسری (یعنی تیسری) رکعت کے بعد قدموں کے پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔

حدیث نمبر 41:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۱۱۷ رقم ۲۹۷۳ طبع دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے (یعنی سجدہ سے قیام کی طرف اپنے قدموں کے پنجوں کے بل اٹھتے تھے)۔“

حدیث نمبر 42:- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ.
(مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۰ رقم ۴۰۰۲، طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت خیرمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں سیدھے اپنے قدموں کے پنجوں کے بل اٹھتے تھے۔“

حدیث نمبر 43: - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، وَالْعُبَيْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ.
(مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۱ رقم ۴۰۰۷، طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں سیدھے اپنے قدموں کے پنجوں کے بل اٹھتے تھے۔“

حدیث نمبر 44: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرَوَةَ، عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: ”رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ.“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۱ رقم ۴۰۰۵، ۴۰۰۶، طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت وہب بن کیسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، جب انہوں نے دوسرا سجدہ کر لیا تو اسی سجدہ والی حالت پر اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔“

حدیث نمبر 45: - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ السُّيُوطِيِّ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُصَلِّي مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ كِنْدَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمَّا قَامَ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَامَ كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ ”رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُومُ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.“ قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ. فَحَدَّثْتُ بِهِ خَيْشَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُومُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُومُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ فَقَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُومُونَ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ فِي الصَّلَاةِ.

(السنن الكبرى ج ٢ ص ١٨٠ رقم 2763 المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

الخُسْرُو جردى الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمته الله (التموني ٥٨٠هـ). المحقق: محمد عبد

القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٤٢٣هـ)

ترجمہ حضرت سلیمان امش رحمته الله فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمارہ بن عمیر رحمته الله کو دیکھا کہ وہ کندہ کی جانب نماز پڑھ رہے ہیں۔ پس میں نے ان کو دیکھا: انہوں نے رکوع کیا۔ پھر سجدہ کیا اور سجدہ کر کے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے سامنے سجدہ سے سیدھا کھڑے ہونے کا ذکر کیا۔ تو حضرت عمارہ بن عمیر رحمته الله نے کہا کہ مجھ سے حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمته الله نے بیان کیا کہ اس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رحمته الله کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے قدموں کے سینوں کے بل سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت امش رحمته الله فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمته الله کی یہ حدیث حضرت ابراہیم نخعی رحمته الله کے سامنے بیان کی تو حضرت ابراہیم نخعی رحمته الله نے کہا: میرے سامنے حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمته الله نے بیان کیا کہ اس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رحمته الله کو ایسا کرتے دیکھا۔

حدیث نمبر 46: - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

(مصنف ابن ابی شیبہ: ج ٣ ص ٣٣٢ رقم ٣٠١١، طبع ثانی، کراچی، واسنادہ حسن)

ترجمہ حضرت نعمان بن ابی عیاش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”میں نے ایک سے زائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا کہ وہ جب پہلی اور تیسری رکعت کے سجدے سے سر اٹھاتے تو اسی حالت میں کھڑے ہو جاتے اور بیٹھتے نہیں تھے۔“

حدیث نمبر 47:- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ أَشْيَاخُنَا لَا يُمَاطِلُونَ، يَعْنِي، إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّلَاثَةِ يَنْهَضُ كَمَا هُوَ، وَلَمْ يَجْلِسْ. (مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۱، ۳۳۲ رقم ۴۰۰۹، طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہمارے اساتذہ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) بیٹھنے کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، یعنی جب ان میں سے جو بھی اپنا سر پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے اٹھاتا تو اسی سجدہ والی حالت پر سیدھا کھڑا ہو جاتا اور بیٹھا نہیں تھا۔“

حدیث نمبر 48:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ فِي الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ. (مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۲ رقم ۴۰۱۰، طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ سے اٹھ کر جلدی کھڑے ہو جاتے تھے۔“

حدیث نمبر 49:- حَدَّثَنَا حَفْصُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. (مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۳۳۰ رقم ۴۰۰۳، طبع ثانی، کراچی)

ترجمہ حضرت محمد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ نماز میں (سجدہ سے) سیدھے اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے۔“

7.5:- معذور کے لیے جلسہ استراحت بھی جائز ہے

مسئلہ 13 کسی عذر کی بنا پر دوسرے سجدہ سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر انھیں تو خلاف سنت

نہیں ہوگا۔

حدیث نمبر 50:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.. (صحیح بخاری رقم: 823؛ سنن ترمذی: رقم 287)

ترجمہ حضرت مالک بن الحویرث لیشی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انھوں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ ﷺ جب پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک سیدھے بیٹھ جائیں۔

7.6:- حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے فہم حدیث سے اختلاف

حدیث نمبر 51:- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ

بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: "رَمَقْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ عَلَى

صُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ إِذَا صَلَّى فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ حِينَ يَقْضِي السُّجُودَ.."

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: "هُوَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحِيحٌ، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ أَوْلَى،

وَابْنُ عُمَرَ قَدْ بَيَّنَّ فِي رِوَايَةِ الْمُغِيرَةَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ

الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَشْتَكِي، وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيِّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.."

(السنن الكبرى ج 2 ص 180، 181 رقم 2764. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن

موسى الخنزر وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى 358هـ). المحقق: محمد

عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الثالثة، 1423هـ)

تحقیق موطا امام مالک میں حدیث ہے:

حدیث نمبر 52:- مَالِكُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَلَمَّا

انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا

مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِيَّ.

(الموطأ، ج ۲ ص ۱۲۲، ۱۲۳ رقم 86/296 المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبغى المدنى رحمه الله (المتوفى ۹۷هـ) المحقق: محمد مصطفى الأعظمى الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبوظبي، الإمارات. الطبعة: الأولى، ۲۰۲۵هـ)

ترجمہ

حضرت مغیرہ بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر دو سجدوں میں اپنے قدموں کے پنجوں کے بل لوٹتے ہیں۔ جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مغیرہ بن حکیم رضی اللہ عنہ نے اس کا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”یہ سنت نہیں اور میں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ مجھے تکلیف ہے۔“

☆ اس حدیث میں اجمال ہے۔ قاعدہ ہے: ”الحدیث یفسر بعضہ بعضاً“

ترجمہ

بعض حدیثوں کی دوسری بعض حدیثوں کے ساتھ تفسیر ہو جاتی ہے۔

اسی قاعدہ کے مطابق اس کی وضاحت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرد کے لیے دو سجدوں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے لیکن حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تکلیف کی وجہ سے دو سجدوں کے درمیان اس سنت طریقہ کے مطابق نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس لیے ان کے بیٹھنے کے دو طریقے تھے۔

دونوں پاؤں کو پنجوں کے بل سجدہ والی حالت پر کھڑا رکھ کر اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے۔ (محدثین کی اصطلاح میں اس نشست کو اقعاء کہا جاتا ہے)۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے۔ چنانچہ موطا امام محمد رضی اللہ عنہ میں اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ یہ وضاحت موجود ہے۔

حدیث نمبر 53:- أَخْبَرَنَا مَالِكُ، أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: ”رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى عَقْبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: ”إِنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْذُ اشْتَكَيْتُ“.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْلِسَ عَلَى عَقْبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَكِنَّهُ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَجُلُوسِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ. (موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص ۱۰۴ رقم ۲۹۱. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني رحمه الله (المتوفى ۱۷۹هـ) تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الثانية)

ترجمہ حضرت مغیرہ بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اس اثناء کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ذکر کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”میں نے دو سجدوں کے درمیان اثناء اس وقت سے شروع کیا جب سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔“

۲ بعض دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دو سجدوں کے درمیان دونوں پاؤں دائیں طرف موڑ کر بائیں سرین پر بیٹھتے۔ حدیث میں اسی کو تربع کہا گیا ہے۔ چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں ہے:

حدیث نمبر 54:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي».

(المصنف، ج ۲ ص ۱۹۴ رقم 3044. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري البجلي الصنعاني رحمه الله (المتوفى: 211هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية، 1403)

(مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۲۷ رقم ۳۰۴۹ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ حضرت مغیرہ بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان اپنے قدموں کے پنجوں پر بیٹھنے کے بعد

ترتیب کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مغیرہ بن حکیم رضی اللہ عنہ نے اس کا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”یہ نماز میں سنت نہیں لیکن میں تکلیف کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔“

☆ غالب گمان یہ ہے کہ جب دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے ہوں گے تو اقعاء پر اکتفاء کرتے ہوں گے اور جب زیادہ دیر بیٹھتے ہوں گے تو اقعاء کے بعد ترتیب کی شکل میں بیٹھتے ہوں گے۔

ان تینوں حدیثوں کی سند ایک ہے اور ان تینوں کا مضمون بھی ایک ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ مؤطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اجمال ہے۔ دوسری دونوں حدیثوں میں تفصیل ہے۔ ان تفصیلی دو حدیثوں سے مؤطا امام مالک کی مجمل حدیث کے مندرجہ ذیل امور واضح ہو جاتے ہیں:

۱ ”فِي سَجْدَتَيْنِ“ سے مراد ”بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ“ ہے، یعنی دو سجدوں کے درمیان۔ اس کا معنی ”مِنْ سَجْدَتَيْنِ“، یعنی دو سجدوں سے نہیں ہے۔

۲ نماز کی جس رکعت کے بھی دو سجدے ہوں ان کی درمیان والی کیفیت کا بیان ہے۔ اس سے پہلی اور تیسری رکعت کے دو سجدے مراد نہیں ہیں، اور نہ ہی ان دو سجدوں کے بعد کی کیفیت بیان کرنا مقصود ہے۔

۳ مؤطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں رجوع سے مراد پہلے سجدہ سے اٹھنے کے بعد اقعاء یا ترتیب کی طرف لوٹنا مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ دونوں قدموں کے سینہ کے بل سجدہ کرتے۔ پھر پہلا سجدہ قدموں کے سینہ پر کرنے کے بعد اقعاء یا ترتیب کی طرف لوٹتے۔ یا یہ مراد ہے کہ دوسرے سجدہ کی طرف لوٹتے۔ رجوع سے پہلی اور تیسری رکعت کے دو سجدوں کے بعد قدموں کے سینوں کے بل سیدھا قیام کی طرف لوٹنا مراد نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف عبدالرزاق میں اس حدیث کو ”باب الاقعاء في الصلوة“ میں درج کیا گیا ہے۔

حافظ ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

حدیث نمبر 55:- مَالِكٌ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَبِي أَشْتَكِي».....

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّجُوعَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ الْقَدَمَيْنِ خَطَأٌ لَيْسَ بِسُنَّةٍ.

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج ١٦ ص ٢٤١، ٢٤٢. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النعمري القرطبي رحمته (التمهيد ٢٦٣ هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب. ١٣٨٥ هـ)

ترجمہ حضرت مغیرہ بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر دو سجدوں میں اپنے قدموں کے پنجوں کے بل لوٹتے ہیں۔ جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، تو حضرت مغیرہ بن حکیم رضی اللہ عنہ نے اس کا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”یہ سنت نہیں اور میں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ مجھے تکلیف ہے۔“

اس حدیث سے یہ فقہی مسئلہ معلوم ہوا کہ دو سجدوں کے درمیان قدموں کے پنجوں کے بل لوٹنا غلطی ہے اور خلاف سنت ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دو سجدوں کے درمیان اقعاء اور تربع کے سنت ہونے کی نفی کی ہے۔

دو سجدوں کے بعد قدموں کے سینوں پر زور دے کر سیدھا قیام کی طرف اٹھنا نہ خلاف سنت ہے اور نہ ہی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سنت ہونے کی نفی کی ہے۔

☆ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھنے میں پانچ غلطیاں لگی ہیں۔

انہوں نے سجدتین سے پہلی اور تیسری رکعت کے دو سجدے مراد لیے ہیں۔

۲ انہوں نے ”فی“ کو ”من“ کے معنی میں لیا ہے۔ یعنی دو سجدوں سے۔
 ۳ انہوں نے رجوع سے قیام کی طرف لوٹنا مراد لیا ہے۔
 ۴ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں دو سجدوں سے قیام کی طرف اٹھنے کی کیفیت بیان کرنا مقصود ہے۔

۵ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دو سجدوں سے قیام کی طرف اٹھنے قدموں کے سینوں پر زور دے کر بغیر بیٹھنے کے سیدھے قیام کی طرف اٹھتے۔ اسی کو انہوں نے خلاف سنت کہا ہے۔

اپنی ان پانچ غلطیوں پر بنیاد رکھ کر انہوں نے سنن کبریٰ (بیہقی) میں لکھا:
 ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ وہ دو سجدوں سے قیام کی طرف قدموں کے پنجوں پر زور دے کر اٹھتے اور بیٹھتے نہیں تھے۔ صحیح ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے سنت ہونے کی نفی کی ہے۔“

حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے سنت ہونے کی نفی نہیں کی بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دو سجدوں کے درمیان اقعاء اور تربع کے سنت ہونے کی نفی کی ہے۔ پھر تعجب بالائے تعجب اور حیرانی در حیرانی یہ ہے کہ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی اس رائے سے اس حدیث کا جو غلط مطلب اور مفہوم سمجھا تھا اس کو روایت بالمعنی کے طور پر ایسے لفظوں کے ساتھ نقل کیا جو اس مفہوم کو ادا کریں۔ پھر ان لفظوں کو بطور حدیث نقل کر دیا۔

چنانچہ مؤطا امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ میں تھا: ”يَزْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ“ (ابن عمر رضی اللہ عنہما دو سجدوں کے درمیان لوٹتے)۔ لیکن سنن بیہقی میں اس کو یوں بنا دیا: ”يَزْجِعُ مِنْ سَجْدَتَيْنِ“ (ابن عمر رضی اللہ عنہما دو سجدوں سے لوٹتے)۔

یہ ٹھیک ہے کہ جمہور محدثین کرام رحمہم کے نزدیک روایت بالمعنی جائز ہے لیکن اس طرح نہیں کہ حدیث کا مفہوم ہی بدل جائے۔ اس لیے فقہاء کرام رحمہم جو حدیث کے مفہوم و مطلب کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ان کی بیان کردہ حدیثوں کو جلیل التدرج محدثین بڑی اہمیت اور وقعت دیتے ہیں۔

7.7: تشریح حدیث اور عمل بالحدیث میں فقہاء کا اعتبار ہے

1 بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے: بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

حدیث نمبر 56: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا. فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أُمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَّاءً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ". (بخاری رقم 79)

ترجمہ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے، وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اُگاتی ہے۔ بعض زمین جو سخت ہوتی ہے، وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑا، وہ بالکل چٹیل میدان ہی تھے، نہ پانی کو روکتے ہیں، نہ سبزہ اُگاتے ہیں۔ تو یہ مثال اس شخص کی ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے، اور نفع دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور جو اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا۔ اور اس شخص کی جس نے سر نہیں اٹھایا (یعنی توجہ نہیں کی)۔ اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔"

فائدہ اس حدیث کے مطابق ابتدائی طور پر لوگوں کی دو قسمیں ہیں:

۱ جہلاء جنھوں نے علم نبوت کو تکبر یا غفلت کی وجہ سے حاصل ہی نہ کیا۔ ان کی مثال اس قطعہ ارض کی طرح ہے جس نے نہ پانی جذب کیا، نہ جمع کیا۔

۲ وہ لوگ جنھوں نے علم نبوت کو حاصل کیا۔ پھر ان علماء کی دو قسمیں ہیں:

☆ ایک اس قطعہ ارض کی طرح ہے جس نے اگرچہ پانی کو جذب کر کے اگایا کچھ نہیں، لیکن پانی کو پانی کی شکل میں محفوظ کیا جس سے لوگوں نے نفع اٹھایا۔ یہ علماء حضرات محدثین ہیں جنھوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ کو ان کی اصلی شکل میں محفوظ کیا یعنی احادیث مبارکہ کے الفاظ کو اسناد کے ساتھ محفوظ کیا۔ محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا۔

☆ دوسری قسم فقہاء مجتہدین ہیں۔ ان کی مثال اس قطعہ ارض کی طرح ہے، جس نے پانی کو جذب کیا اور جذب کر کے پھل پھول اُگا کر لوگوں کی مختلف دینی ضروریات پوری کیں۔ اسی طرح فقہاء کرام نے احادیث مبارکہ کو جذب کیا یعنی ان کے معانی کو سمجھا۔ سمجھ کر ان احادیث سے مسائل کے پھل پھول تلاش کر کے کتاب الطہارت، کتاب الصلوٰۃ وغیرہ کی شکل میں دینی مسائل کے خوب صورت گل دستے تیار کر کے اُمت کی دینی ضرورتیں پوری کی ہیں۔

حدیث شریف سے پتہ چلا کہ محدثین اور فقہاء دونوں حدیث کے خدمت گزار ہیں۔ لیکن دونوں کے شعبے جدا جدا ہیں۔ محدثین کرام کا شعبہ الفاظ حدیث کے حافظ اور محافظ ہیں اور فقہاء معانی حدیث اور مسائل حدیث کے ماہر ہیں۔ دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اسناد اور الفاظ کی ضرورت نہیں، مسائل کی ضرورت ہے اور وہ فقہاء کے پاس ہیں۔ اسی لیے محدثین عظام نے بھی عمل بالحدیث کے لیے فقہاء کرام پر اعتماد کیا ہے۔

2 فقیہ چونکہ اصول اربعہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس اور ان سے اخذ و استنباط کا ماہر ہوتا ہے۔ اس لیے محدث سے اس کا درجہ زیادہ ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ (المتوفی ۲۴۱ھ) فرماتے ہیں:

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: "مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهُ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حِفْظِهِ."

(منہاج السنۃ النبویۃ فی نقض کلام الشیعۃ القدیریۃ، ج ۷ ص ۲۲۸، المؤلف: تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ بن أبی القاسم بن محمد ابن تیمیۃ الحرانی الحنبلی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۷۲۸ھ) المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعۃ الإمام محمد بن سعود الإسلامیۃ، الطبعة: الأولى ۱۴۰۶ھ)

ترجمہ حدیث کی معرفت اور اس میں تفقہ (سمجھ) پیدا کرنا مجھے حدیث کے محض یاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

3 حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی: باب غسل البیت میں فرماتے ہیں:
وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ. (ترمذی تحت رقم ۹۹۰)

ترجمہ اسی طرح فقہاء نے کہا ہے اور فقہاء حدیث کے معانی کو زیادہ جانتے ہیں۔
4 علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

۱ وَرَوَى نَحْوُ هَذَا أَنَّهُ جَرَى بَيْنَ الْأَعْمَشِ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَبِي حَنِيفَةَ فَكَانَ
مِنْ قَوْلِ الْأَعْمَشِ: "أَنْتُمْ الْأَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ."
۲ وَمِنْ هُنَا قَالَ الزَّبِيدِيُّ: "إِنَّ مَنْ يَجْهَلُ الْحَدِيثَ وَلَا يَعْرِفُ فِيهِ التَّأْوِيلَ
كَالصَّيْدَالَانِ".

۳ أَخْبَرَنِي خَلْفُ بَنِ قَاسِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ، ثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ
عُمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبُدِ بْنِ شَدَّادٍ، ثنا
عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ الْأَعْمَشِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ
مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فِيهَا، وَنَظَرَ فَإِذَا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: يَا نَعْمَانُ! قُلْ فِيهَا
قَالَ: الْقَوْلُ فِيهَا كَذَا. قَالَ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: مِنْ حَدِيثِ كَذَا، أَنْتَ
حَدَّثْتَنَاهُ. قَالَ: فَقَالَ الْأَعْمَشُ: "نَحْنُ الصَّيَادِلَةُ وَأَنْتُمْ الْأَطِبَّاءُ".

(جامع بیان العلم وفضلہ، ج ۲ ص ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، رقم ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳، المؤلف: أبو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمیری القرطبی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۴۶۳ھ)، تحقیق: أبی الأشبال الزہیری، الناشر: دار ابن الجوزی، المملكة

العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۲ھ)

ترجمہ (۱) اسی طرح کا واقعہ حضرت اعمش رضی اللہ عنہ، حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی ہوا ہے، تو پھر حضرت امام اعمش رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں۔“

۲ یہی سے حضرت امام زبیدی رضی اللہ عنہ نے مستنبط کیا ہے: ”جس نے حدیث کو تو حاصل کیا لیکن اس کے معانی کو نہیں جانتا ہے، تو وہ پنساری کی طرح ہے۔“

۳ حضرت عبید اللہ بن عمرو الرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم لوگ حضرت اعمش رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت امام اعمش رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھے۔ حضرت امام اعمش رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ تو حضرت امام اعمش رضی اللہ عنہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا: ”اے نعمان! اس فتوے کا جواب دو۔“ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دے دیا۔ تو حضرت امام اعمش رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے؟“۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اس کا جواب میں نے اسی حدیث سے استنباط کیا ہے جو آپ نے ہی ہمارے سامنے بیان کی ہے۔“ پھر اس حدیث کو بیان کیا۔ تو حضرت امام اعمش رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں۔“

5 علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرِّقِيِّ: كُنَّا عِنْدَ الْأَعْمَشِ وَعِنْدَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، فَسِئِلَ الْأَعْمَشُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: أَفْتِيهِ يَا نَعْمَانُ! فَأَفْتَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِحَدِيثٍ حَدَّثَنَا أَنْتَ! ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ. فَقَالَ لَهُ الْأَعْمَشُ: أَنْتُمْ الْأَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ..

(مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ص ۳۴، ۳۵- المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمته الله (المتوفى ۴۸۸ھ) - عنى بتحقيقه والتعليق عليه: محمدزابد الكوثري، أبو الوفاء الأفعاني، الناشر: لجنة تحيا المعارف النعمانية، حيدرآباد الدكن بالهند. الطبعة: الثالثة، ۱۴۰۸ھ)

ترجمہ حضرت عبید اللہ بن عمرو الرقیؓ فرماتے ہیں: ہم لوگ حضرت اعمشؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام ابوحنیفہؓ بھی حضرت امام اعمشؓ کے پاس ہی تھے۔ حضرت امام اعمشؓ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ تو حضرت امام اعمشؓ نے حضرت امام ابوحنیفہؓ سے کہا: ”اے نعمان! اس فتوے کا جواب دو“۔ تو حضرت امام ابوحنیفہؓ نے اس کا جواب دے دیا۔ تو حضرت امام اعمشؓ نے پوچھا: ”آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے؟“۔ تو حضرت امام ابوحنیفہؓ نے فرمایا: ”اس کا جواب میں نے اسی حدیث سے استنباط کیا ہے جو آپ نے ہی ہمارے سامنے بیان کی ہے“۔ پھر اس حدیث کو بیان کیا۔ تو حضرت امام اعمشؓ نے فرمایا: ”تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں“۔

6 مناقب امام اعظم ابوحنیفہؓ (ج ۱ ص ۱۰۱) میں شیخ الامام کروریؓ لکھتے ہیں:

عن محمد بن سعدان قال كنت عند يزيد بن هارون وعنده يحيى بن معين وعلی بن المدینی وأحمد بن حنبلٍ وزهير بن حربٍ وآخرون. اذا استفتی. فقال يزيد: اذهب الى أهل العلم. فقال علی بن المدینی: أليسوا عندك. فقال: أهل العلم أصحاب الامام، وأنتم صيادلة.

ترجمہ حضرت محمد بن سعدانؓ کہتے ہیں کہ میں یزید بن ہارونؓ کے پاس تھا، اس وقت ان کے پاس بڑے بڑے محدثین کرام موجود تھے: یحییٰ بن معینؓ، علی بن المدینیؓ، احمد بن حنبلؓ اور زہیر بن حربؓ وغیرہ کہ اچانک کسی نے مسئلہ دریافت کیا۔ استاذ المحدثین حضرت یزید بن ہارونؓ نے کہا: ”مسئلہ کے لیے اہل علم کے پاس جاؤ“۔ حضرت علی بن مدینیؓ نے پوچھا: ”حضرت! کیا آپ کے پاس اہل علم موجود نہیں؟“۔ تو استاذ مکرم حضرت یزید بن ہارونؓ نے جواب دیا: ”اہل علم تو حضرت امام ابوحنیفہؓ کے شاگرد ہیں اور تم محدثین پنساری ہو“۔

فائدہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پنساری کے پاس مفردات کا انبار لگا ہوتا ہے لیکن ان مفردات کے نفع و نقصان، افعال و خواص کا علم جتنا طبیب کو ہے پنساری کو اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یزید بن ہارونؓ کا مقصد یہ تھا کہ اے

محدثین! الفاظ حدیث کا انبار تو تمہارے پاس ہے لیکن ان الفاظ کے پردوں میں جو مسائل و معانی کے چھپے موتی ہیں، ان کے غواص اور ماہر فقہاء ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا لیکن ہر فقیہ محدث بھی ہوتا ہے اور فقیہ بھی۔ اگر اسے حدیث ہی معلوم نہ ہو تو مسائل حدیث کہاں سے نکالے گا؟

علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

7

أَنْ يَكُونَ رِوَاةً أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْحِفْظِ وَالِإِتْقَانِ فَقَهَاءَ عَارِفِينَ بِاجْتِنَاءِ الْأَحْكَامِ مِنْ مُشَبَّرَاتِ الْأَلْفَاظِ، فَلَا سِتْرَ وَاحٍ إِلَى حَدِيثِ الْفُقَهَاءِ أُولَى.

(الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار، ص 15 المؤلف: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهداني، زين الدين رحمۃ اللہ علیہ المتوفى: 584 هـ). الناشر: دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الدكن. الطبعة: الثانية، 1359 هـ)

ترجمہ

دو حدیثوں میں سے ایک حدیث کے راوی دوسری حدیث کے راویوں کے ساتھ حفظ و اتقان میں مساوی ہونے کے علاوہ فقہاء ہوں اور الفاظ کے موتیوں سے احکام چننے اور حاصل کرنے کے عارف ہوں تو ان کی حدیث کی طرف رجوع کرنا اولیٰ ہے۔

نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد علم فقہ کی حفظ حدیث پر فضیلت بیان کرتے ہیں:

8

الْحِفْظُ غَيْرُ الْمَلِكَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَمَنْ كَانَ عِنَايَتَهُ بِالْحِفْظِ أَكْثَرَ مِنْ عِنَايَتِهِ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَلِكَةِ لَا يَحْصِلُ إِلَى طَائِلٍ مِنْ مَلِكَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْعِنْمِ وَلِذَلِكَ تَرَى مِنْ حَصْلِ الْحِفْظِ لَا يَحْسُنُ شَيْئًا مِنَ الْفَنِّ وَتَجِدُ مَلِكَتَهُ قَاصِرَةً فِي عِلْمِهِ إِنْ فَاوِضَ أَوْ نَظَرَ. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمَلِكَةِ الْعِلْمِيَّةِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ مَلِكَةُ الْإِسْتِخْرَاجِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَشُرْعَةُ الْإِنْتِقَالِ مِنَ الدُّوَالِ إِلَى الْمَدَلُولَاتِ وَمَنْ اللَّازِمُ إِلَى الْمَلْزُومِ وَبِالْعَكْسِ فَإِنْ ضَمَّ إِلَيْهَا مَلِكَةَ الْإِسْتِعْضَارِ فَنَعَمُ الْمَطْلُوبُ وَهَذَا لَا يَتِمُّ بِمَجْرَدِ الْحِفْظِ

(الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص 23، 24 المؤلف: أبو الطيب محمد صدیق خان بن حسن بن علی ابن لطف الله الحسيني البغاري القنوجي، رحمۃ اللہ علیہ المتوفى: 1307 هـ)

الناشر: دار الكتب التعليمية - بيروت الطبعة: الأولى، 1405 هـ / 1985 م

ترجمہ حفظ کا درجہ اور ہے اور ملکہ علمیہ کا مقام اور ہے۔ جس شخص کا اہتمام ملکہ حاصل کرنے کی بجائے حفظ میں زیادہ ہو اس کو تصرف فی العلم کے ملکہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے تم دیکھو گے کہ جو شخص حفظ کو پالیتا ہے وہ فن کی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا اور اس کا علمی ملکہ قاصر رہتا ہے جب کہ وہ گفتگو اور مناظرہ کرے۔ اور جس شخص نے یہ گمان کر لیا کہ ملکہ علمیہ سے صرف حفظ ہی مقصود ہے۔ سو اس نے بیشک خطا کی کیونکہ مقصود و مطلوب تو دراصل اخراج و استنباط اور الفاظ سے معانی کی طرف اور لازم سے ملزوم کی جانب اور بالعکس انتقال کرنے کا ملکہ حاصل کرنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ملکہ حفظ و استحضار بھی حاصل ہو جائے تو پھر نوؤ علی نوؤ ہے، مگر یہ ملکہ محض حفظ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

7.8: دوسری رکعت

مسئلہ 14 دوسری رکعت میں ثناء اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ نہ پڑھیں بلکہ آہستہ سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر قرات شروع کر دیں اور باقی احکام میں دوسری رکعت پہلی رکعت ہی کی طرح ہے۔

حدیث نمبر 57: قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، وَيُونُسَ الْمُوَدَّبِ، وَغَيْرِهِمَا. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ." (صحیح مسلم رقم: 148-599)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" سے قراءت شروع فرمادیتے۔ (ثناء وغیرہ کے لئے) خاموش نہ ہوتے تھے۔

قعدہ، کیفیتِ قعدہ، تشہد اور سلام

نماز کا خاتمہ قعدہ اور سلام پر ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں اس کے آخری اجزاء ہیں۔ ہاں! اگر نماز تین اور چار رکعت والی ہو تو پہلی دو رکعت پڑھنے کے بعد ایک دفعہ درمیان میں بھی بیٹھا جاتا ہے۔ اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں لیکن اس میں صرف تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیسری یا چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں اور اس میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھنے کے بعد سلام پر نماز ختم کر دی جاتی ہے۔

8.1: قعدہ اولیٰ

مسئلہ 1 دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھیں۔

حدیث نمبر 1:- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.....

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ. الْحَدِيثُ (مسلم رقم: 240-498)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”رسول اللہ ﷺ ہر دو رکعت پر التحیات

پڑھتے تھے۔“

حدیث نمبر 2:- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي

عَنْ تَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا،

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: ”عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشْهَدَ فِي وَسْطِ

الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا“. الْحَدِيثُ

صحیح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق- وهو محمد- وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وبأقرب رجاله ثقات رجال الشيخين- يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه ابن خزيمة (702) و(708)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 262/1 من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (3622) من طريق الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود (مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4 ص 392 رقم 4382، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته الله (المتوفى 241هـ)). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون-إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي- الناشر: مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأولى، 1421هـ).

(قال الهيتمي: رواه أحمد، ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ج 2 ص 249 رقم 2860 طبع دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز کے درمیان میں اور آخر میں التحیات پڑھنا سکھایا ہے۔"

حدیث نمبر 3:- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرِّجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَبِي أَنَيْسَةَ الْجَزْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا إِسْحَقَ حَدَّثَهُ، عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." (سنن نسائي رقم: 1166؛ سنن كبرى نسائي رقم 756؛ حديث السراج رقم 729؛ بمجموعه اوسط طبرانی رقم 6521) احکم الالبانی، صحیح

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے (کہ ہم قعدہ میں کیا پڑھیں؟)۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہمیں فرمایا: ”ہر قعدہ میں التحیات الخ پڑھو“۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

ترجمہ ادب و تعظیم اور اظہارِ نیاز کے سارے کلمے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں (اور میں ان سب کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہوں)۔ تم پر سلام ہوا ہے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے سب نیک بندوں پر۔ پس میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں (صرف وہی معبودِ برحق ہے)۔ اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

حدیث نمبر 4:- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: "السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ". فَسَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَقُلْ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" فَإِذَا قَالَهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ مِنْ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ“.

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (402) (58)، وابن خزيمة (703)، والبيهقي في السنن 153/2 من

طريق أبي معاوية شيخ أحمد، بهذا الإسناد

تحقیق

وأخرجه ابن أبي شيبة 291/1، والبخارى (831)، و(6230)، والنسائي في "الكبرى" (1202)، وابن ماجه (899)، والدارمي 308/1، وابن الجارود (205)، وأبو يعلى (5082)، وأبو عوانة 229/2 و230، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 76/3، والشاشي (502) و(503) و(507)، والدارقطني 350/1، وابن خزيمة (703)، وابن حبان (1955)، وأبو نعيم في "الحلية" 114/8-115، والطبراني في "الكبير" (9885) و(9886) و(9887)، والبيهقي في "السنن" 138/2، والبغوي (678)، من طرق عن الأعمش، به.

وسياتي من طريق الأعمش برقم (3920) و(3967) و(4017) و(4101) و(4189)، وسيكرر برقم (4064).

وسياتي من طرق أخرى برقم (3738) و(3877) و(3919) و(3921) و(3935) و(3967) و(4006) و(4160) و(4177) و(4305) و(4382) و(4422).

وسلف من طريق آخر برقم (3562).

قوله: "إن الله هو السلام": قال الخطابي -ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 212/2-: المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقولوا: السلام على الله فإن السلام منه بدأ، وإليه يعود ومرجع الأمر في إضافته إليه: أنه ذو السلام من كل آفة وعيب، ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك.

وقال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى يعني: السالم من النقائص وسمات الحدوث، ومن الشريك والند.

وقال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة، وغناه سبحانه وتعالى عنها.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٦، ص ١٢١ رقم 3622، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (التمتلي ٢٣١هـ)). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز

میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو کہتے تھے: ”اللہ کے بندوں سے پہلے اللہ پر سلام ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو، حضرت میکائیل علیہ السلام پر سلام ہو۔ فلاں شخص پر سلام ہو، فلاں شخص پر سلام ہو۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہمیں سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی عطا فرمانے والے ہیں۔ پھر جب تم میں سے کوئی نماز میں تشہد کے لیے بیٹھے، تو اس کو یوں پڑھنا چاہیے:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

ترجمہ ادب و تعظیم اور اظہارِ نیاز کے سارے کلمے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں (اور میں ان سب کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہوں)۔ تم پر سلام ہوا ہے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے سب نیک بندوں پر۔ پس میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں (صرف وہی معبودِ برحق ہے)۔ اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک وہ دعائے مانگے جو اس کو پسند ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کرو۔

8.2: کیفیتِ قعدہ

مسئلہ 2 قعدہ کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پیر اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں اور بحالتِ عذر جس طرح قدرت ہو اس طرح بیٹھیں۔ دونوں قعدہ میں بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے۔

افتراش لغت میں افتراش کا معنی: بچھانا ہے۔ قعدہ نماز میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ التحیات میں اور دو سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا کہ دایاں پاؤں کھڑا ہو اور پاؤں کی

انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور بایاں پاؤں دونوں سرینوں کے نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا۔ نماز کے اندر بیٹھنے کی اس کیفیت کو افتراش کہا جاتا ہے۔

حدیث نمبر 5: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْغِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِيَهُ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَحْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، "وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ".

(مسلم رقم: 240-498)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے تھے اور قراءت کا آغاز "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" سے کرتے تھے۔ اور جب آپ ﷺ رکوع میں جاتے تو سر مبارک کو نہ تو اوپر کی جانب اٹھاتے اور نہ نیچے کی جانب جھکاتے، بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے تھے (یعنی بالکل کمر کے متوازی)۔ اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے تو دوسرا سجدہ نہیں فرماتے تھے۔ اور ہر دور رکعت پر "التحیات" پڑھتے تھے۔ اور اُس وقت اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے اور داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ اور "عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ" (یعنی شیطان کی

طرح) بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی (سجدہ میں) اپنے بازو (یعنی کلائیاں کہنیوں تک) زمین پر رکھے جس طرح درندے اپنی کلائیاں زمین پر بچھا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ ﷺ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم فرماتے تھے۔

تشریح

نماز عبادت بلکہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اس لیے اس کے قیام، قعود، رکوع و سجود کی وہ شکلیں اور ہیئتیں مقرر کی گئی ہیں جو عبادت اور بندگی کی بہترین اور مکمل ترین تصویر ہیں اور ان نا مناسب ہیئتوں سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے جن میں استکبار، یا بے پروائی یا بد منظری کی شان ہو یا کسی بد فطرت مخلوق کی ہیئت سے مشابہت ہو۔ اس اصول کے تحت جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سجدے میں آدمی کلائیاں زمین پر اس طرح بچھا دے جس طرح کتے اور بھیڑیے وغیرہ درندے بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت آپ ﷺ نے اس طرح بیٹھنے سے بھی منع فرمایا جس کو اس حدیث میں ”عَقْبَةُ الشَّيْطَانِ“، اور ایک دوسری حدیث میں ”اقعاء الكلب“ فرمایا گیا ہے۔ اس سے مراد دونوں پاؤں پنجوں کے بل کھڑے کر کے اُن کی ایڑیوں پر بیٹھنا ہے۔ چونکہ اس طریقے میں کچھ استکبار اور جلد بازی کی شان ہے اور اس شکل میں صرف گھٹنے اور پنچے ہی زمین سے لگتے ہیں۔ نیز کتے، بھیڑیے وغیرہ درندے بھی اس طرح ایڑیوں پر بیٹھا کرتے ہیں۔ اس لیے نماز میں اس طرح بیٹھنے سے بھی جناب رسول اللہ ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

وضاحت: سرین کوزمین پر رکھ کر دونوں گھٹنے کھڑے کر دیں اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیں اس طرح بیٹھنے کو ”عقبۃ الشیطان“ اور ”اقعاء“ کہا جاتا ہے جس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔

حدیث نمبر 6: - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي

لِلتَّشَهُدِ - افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى - يَعْنِي - عَلَى
فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ. (سنن ترمذی: رقم ۲۹۲؛ نسائی رقم ۱۲۶۳)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ تو میں نے اپنے جی
میں کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کو دیکھوں گا۔ تو جب آپ ﷺ التحيات پڑھنے
کے لئے بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیا اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا اور
دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیا۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اکثر اہل علم کے نزدیک
اسی حدیث پر عمل ہے۔ یہی قول حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، اہل کوفہ اور حضرت
عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ہے۔

حدیث نمبر 7:- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ
مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ
أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى، وَاسْتَقْبَالَهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسَ عَلَى
الْيُسْرَى» (نسائی رقم ۱۱۵۸) (قال الألبانی: صحيح)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز میں (بیٹھنے کی) سنت یہ ہے کہ دایاں
پاؤں کھڑا رکھا جائے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور بائیں پاؤں (کو بچھا کر
اس) پر بیٹھا جائے۔

حدیث نمبر 8:- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا: حَدَّثَنَا
يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَأَحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: فَلْتَا قَعَدَ لِلتَّشَهُدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا.

وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ وَجَعَلَ حَلَقَةَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالْأُخْرَى. (شرح معانی الآثار طحاوی رقم ۱۵۴۲ طبع دارالکتب العلمیہ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جب آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشہد کے لیے بیٹھے، تو آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا دیا اور اس پر بیٹھ گئے۔ اور اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی کہنی کو دائیں ران پر رکھا۔ پھر اپنی انگلیوں سے گرہ بنائی اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنایا۔ پھر آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دوسری انگلی یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔

مسئلہ 3 قعدہ میں ہتھیلیوں کو گھٹنے کے متصل ران پر رکھے رہیں اور تشہد پڑھیں۔

حدیث نمبر 9: عبد الرزاق عن مالک، وابن عیینة، عن مسلم بن أبی مریم، عن علی بن عبد الرحمن الأنصاری قال: صليت إلى جنب ابن عمر، وإني أقلب الحصى في الصلاة. فلما فرغ قال: إن تقلب الحصى في الصلاة من الشيطان، ولكن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام.

(مصنف عبد الرزاق: ج ۲/ ۱۲۷ رقم ۳۰۵۳ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت ۲۰۱۰ء؛ صحیح مسلم: ج ۱ ص ۲۱۶؛ مؤطا مالک ص ۷۱)

ترجمہ حضرت علی بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی۔ میں نماز کے دوران کنکریوں کو الٹ پلٹ کرتا رہا۔ پھر جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”کنکریوں کو نماز میں الٹنا پلٹنا شیطانی فعل ہے۔ لیکن ایسا کرنا چاہیے جیسا کہ جناب رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کرتے تھے۔ رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر اور دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے۔ اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑ لیتے اور دائیں

ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر والی انگلی (انگشت شہادت) کو اٹھا کر اس سے اشارہ فرماتے تھے۔

حدیث نمبر 10:- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ. فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. فَفَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْبِيئِ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِي لَا تَحْمِلَانِي.

(صحیح بخاری: رقم 827؛ مؤطا امام مالک 297/87 طبع ابو ظبی)

ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نماز میں چارزا نو بیٹھے دیکھا۔ تو وہ بھی اسی طرح چارزا نو بیٹھے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ اس وقت کم سن تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے منع فرمایا اور کہا: ”نماز کی سنت یہی ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو اور بائیں پیر کو بچھا دو۔“ میں نے عرض کیا: ”آپ تو چارزا نو بیٹھے ہیں؟“ تو فرمایا: ”میرے پاؤں (کمزور ہو گئے ہیں) مجھے اٹھا نہیں پاتے۔“

وضاحت: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب زادے کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی تھا۔ یہ انہی کا واقعہ ہے، جو مذکور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ ۸۳ سال یا ۸۶ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اخیر عمر میں ضعف پیری یا بیماری کی وجہ سے وہ نماز میں سنت کے مطابق نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس وجہ سے مجبوراً چارزا نو بیٹھنا پڑتا تھا۔ بہر حال ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی صرف ان کی تقلید اور پیروی میں ان ہی کی طرح چارزا نو بیٹھنا شروع کر دیا (اگرچہ وہ اس وقت بقول خود بوڑھے نہیں بلکہ نو عمر اور نوجوان تھے)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تو منع فرمایا اور بتایا کہ نماز میں

بیٹھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ داہنا پاؤں کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھا جائے اور اپنے متعلق فرمایا کہ میں معذوری کی وجہ سے چہار زانو بیٹھتا ہوں۔ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آخری الفاظ: ”إِنَّ رِجْلَيْ لَأَتَمَّحِلَانِي“ (میرے دونوں پاؤں میرا بوجھ نہیں سہار سکتے) سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے نزدیک قعدہ کا مسنون طریقہ وہ تھا جس میں آدمی کے جسم کا بوجھ اس کے دونوں پاؤں پر رہتا ہے اور اسی کو ”افتراش“ کہتے ہیں اور جو ہم لوگوں کا معمول ہے۔

1 قابل غور امور

اس حدیث میں امور غور طلب ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں جو چار زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ اس سے تربیع کی وہ صورت مراد ہے جو تورک کی طرح ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک رضی اللہ عنہما کے عظیم شارح ابوالولید الباجی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: تربیع کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ دایاں پاؤں بائیں گھٹنے کے نیچے اور بائیں پاؤں دائیں گھٹنے کے نیچے رکھا جائے۔

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَتَرَبَّعَ وَيَثْنِي رِجْلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَتَكُونُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فُجْدِهِ وَسَاقِهِ الْيُمْنَى وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَتَكُونُ عِنْدَ أَيْتِهِ الْيُمْنَى وَيُشْبَهُ أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ قَعْدَةَ الرَّجُلِ.

فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ صَلَاتِهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَرَكَ هَيْئَةَ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّكَ تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَبَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَمَّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ. فَلِذَلِكَ امْتَثَلَ الرَّجُلُ فِعْلَهُ. فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ. وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ لِشَكْوَى رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ فِدْعًا بِخَيْرٍ فَلَمْ تَعُدْ رِجْلَاهُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَكَانَ يَشْتَكِيهَا فَكَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَاجِبُ أَنْ يَتَكَلَّفَ سُنَّةَ الصَّلَاةِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا. وَمَنْ

لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَتَى بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

(المنتقى شرح الموطأ، ج ۱ ص ۱۶۵. المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي رحمته (المتوفى: 474هـ). الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر. الطبعة: الأولى، 1332هـ)

ترجمہ

ترنج کی دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں ایک جانب (یعنی دائیں جانب) اس طرح موڑ دے کہ بائیں پاؤں دائیں ران اور پنڈلی کے نیچے ہو اور دایاں پاؤں دائیں سرین کے دائیں جانب ہو۔ نماز پڑھنے والے آدمی نے اسی طرح قعدہ کیا تھا (یعنی توڑک کیا)۔ جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز سے فارغ ہوئے، تو اسی طرح قعدہ کرنے پر اعتراض کیا کیونکہ نماز پڑھنے کی جو مسنون کیفیت ہے (یعنی افتراش)، اس آدمی نے اس کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس آدمی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ خود بھی تو اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ چونکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مقتدی لوگوں میں سے ہیں، اس لیے اس آدمی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جس طرح نماز میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے بھی ویسے ہی بیٹھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو تورک کی کیفیت میں بیٹھے دیکھا تو اس کو بتایا کہ اگر میں نماز میں اس طرح بیٹھتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ یہ نماز میں سنت ہے بلکہ میں اس وجہ سے توڑک کی کیفیت میں بیٹھتا ہوں کہ میرے دونوں پاؤں میں تکلیف ہے۔ اس تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں ان کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ پہلے والی حالت پر نہ آسکے اور ان میں تکلیف بھی رہتی تھی۔

اس سے معلوم ہوا:

۱ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ترنج بصورتِ توڑک تھا۔

۲ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے صاف بتایا کہ میرا اس طرح بیٹھنا تورک کے سنت ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بوجہ تکلیف ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سنتِ طریقہ یہ بتایا ہے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں کو بچھائے۔ یہ بچھانا ایسے طور پر نہ ہو کہ توڑک کی کیفیت بن جائے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے

سنت ہونے کی نفی کر رہے ہیں۔ پھر اسی کو سنت کیسے بتا سکتے ہیں؟! اس لیے بائیں پاؤں کو اس طرح بچھانا مراد ہے کہ بائیں پاؤں کو سرین کے نیچے بچھا کر اس پر بیٹھا جائے اور یہی افتراش ہے۔ لہذا اس حدیث کے مطابق توڑک سنت نہیں بلکہ افتراش سنت ہے۔

اگر توڑک کی یہ صورت ہو کہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکلے ہوئے ہوں تو سارا بوجھ بائیں سرین پر اور بائیں ران پر پڑتا ہے، دونوں پاؤں پر بوجھ نہیں پڑتا۔ اور اگر توڑک کی وہ صورت ہو جس میں دایاں پاؤں کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں دائیں پاؤں پر بوجھ آتا ہے، بائیں پاؤں پر بوجھ نہیں آتا جب کہ افتراش میں دونوں پاؤں پر بوجھ آتا ہے کیونکہ دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر بائیں پاؤں کو سرین کے نیچے بچھا کر اس پر بیٹھنا افتراش ہے۔ اور اس صورت میں دونوں پاؤں پر بوجھ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے سنت طریقہ کے مطابق نہ بیٹھنے کی وجہ یہ بتائی: ”میرے دونوں پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے“۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ وہ ہے جس میں دونوں پاؤں پر بوجھ پڑتا ہے اور وہ افتراش ہے۔

حدیث نمبر 11:- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصْحَمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصْحَمِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَى بِيَدَيْهِ - يَعْنِي جَنَحَ - حَتَّى يُرَى وَضَعُ إِبْطِيهِ مِنْ وَرَائِهِ. وَإِذَا قَعَدَ اظْمَأَنَّ عَلَى فُجْدِهِ الْيُسْرَى."

(مسلم رقم 238-497؛ نسائی رقم 1147)

ترجمہ حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”جناب رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تھے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے تھے، (یعنی پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے)، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے بغل کی سفیدی نظر آسکتی تھی۔ اور جب قعدہ میں بیٹھتے تھے تو نہایت اطمینان سے بائیں ران پر بیٹھتے تھے۔“

حدیث نمبر 12:- حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ

الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى".

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج ۲ ص ۵۳۳ رقم 2944. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى العيسى رحمته الله (التونى ۲۳۵هـ). المحقق: محمد عوامة الناشر: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية،

كراچی. الطبعة: الثانية ۱۳۲۸ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نماز کی سنتوں میں سے ہے: بائیں پاؤں کو بچھانا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا۔

حدیث مرسل 13:- حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمَيْهِ.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج ۲ ص ۵۳۳ رقم 2942. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى العيسى رحمته الله (التونى ۲۳۵هـ). المحقق: محمد عوامة الناشر: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية،

كراچی. الطبعة: الثانية ۱۳۲۸ھ)

ترجمہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی پشت سیاہ ہو گئی تھی۔

حدیث مرسل 14:- حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى.

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج ۲ ص ۵۳۳ رقم 2943. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى العيسى رحمته الله (التونى ۲۳۵هـ). المحقق: محمد عوامة الناشر: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية،

کراچی۔ الطبعة: الثانية (۱۳۲۸ھ)

ترجمہ حضرت یزید بن عبد اللہ بن قسیر رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے۔

اثر نمبر 1:- قَالَ: قَالَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى يَضَعُهَا بَيْنَ إِيْتَيْهِ، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُنْدٍ.

(الأثار، ص ۶۷ رقم 328 المؤلف: أبو يونس يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبة الأنصاري (المتوفى ۱۸۲ھ). المحقق: أبو الوفاء الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے، یعنی بائیں پاؤں کو سرینوں کے نیچے کرتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھ کر بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے اور دائیں پاؤں پر بیٹھنے کو ناپسند کرتے مگر عذر کی وجہ۔

8.3: تشہد

مسئلہ 4 احادیث میں ”التحیات“ مختلف الفاظ میں منقول ہے جن میں سب سے زیادہ مشہور اور بہتر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی تشہد ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

حدیث نمبر 15:- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْبَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ - كَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ - كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: «السَّلَامُ عَلَى

النَّبِيِّ

تحقیق

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين. وسيف: هو ابن سليمان. ويقال: ابن أبي سليمان المغزومي المكي. ومجاهد: هو ابن جبر. وأخرجه ابن أبي شيبة 2921/1. والبغاري في "صحيحه" (6265). وفي "تاريخه" 98/5. ومسلم (402) (59). والنسائي في "المجتبى" (1161). وأبو يعلى (5347). وأبو عوانة 229-228/2. والبيهقي في "السنن" 138/2 من طريق أبي نعيم. بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (3622).

قوله: قلنا: السلام على النبي: قال السندی: ظاهره أن الخطاب كان مخصوصاً بحياته. وأن الناس تركوه بعد وفاته. لكن العمل اليوم على خلافه. فكأنه تركه بعض الناس. واشتهر العمل بخلاف قولهم. والله تعالى أعلم.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٩ رقم 3935 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (الوفى ٢٤١هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد. وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ١٤٢١هـ)

ترجمہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس اہتمام سے التحیات سکھایا جس اہتمام سے قرآن سکھاتے تھے اور مزید اہتمام کی غرض سے مصافحہ کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان پکڑے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نماز میں بیٹھے تو پڑھے:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ترجمہ

ادب و تعظیم اور اظہارِ نیاز کے سارے کلمے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں (اور میں ان سب کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہوں)۔ تم پر سلام ہو اے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی

برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے سب نیک بندوں پر۔ پس میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں (صرف وہی معبود برحق ہے)۔ اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

حدیث نمبر 16: - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

الْأَشَجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشْهُدِ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

(ترمذی رقم 289؛ سنن نسائی رقم 1161؛ سنن ابن ماجہ رقم 899)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم دو رکعتوں کے بعد قعدہ میں بیٹھیں، تو ہم یوں پڑھیں:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ترجمہ ادب و تعظیم اور اظہارِ نیاز کے سارے کلمے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں (اور میں ان سب کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہوں)۔ تم پر سلام ہوا ہے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی

برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے سب نیک بندوں پر۔ پس میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں (صرف وہی معبودِ برحق ہے)۔ اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی احادیث مروی ہیں۔

امام ترمذی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے اور تشہد کے سلسلے میں حضور اکرم ﷺ سے منقول یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اور اسی تشہد کو علماء میں سے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم پڑھتے ہیں۔

تشریح

جناب رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو کچھ سکھاتے اور بتاتے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ اہتمام آپ ﷺ قرآن مجید کی تعلیم کا فرماتے تھے۔ لیکن تشہد (التحیات) کی تعلیم و تلقین آپ ﷺ نے اسی خاص الخاص اہتمام سے فرمائی، جس اہتمام سے آپ ﷺ قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان پکڑنا بھی اسی سلسلہ کی چیز تھی۔ طحاوی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ تشہد ایک ایک کلمہ کر کے تلقین فرمایا جس طرح بچوں یا ان پڑھوں کو کوئی اہم چیز یاد کرائی جاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ تشہد تعلیم فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ تشہد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ ان روایات میں ایک دو لفظوں کا بہت معمولی سا فرق بھی ہے، لیکن محدثین کرام رضی اللہ عنہم کا اس پر اتفاق ہے کہ سند اور روایت کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس تشہد ہی کو ترجیح ہے۔ اگرچہ دوسری روایات بھی صحیح ہیں

اور ان میں وارد شدہ تشہد بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

بعض شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کو جب بارگاہِ قدوسیت میں شرفِ حضوری نصیب ہوا تو آپ ﷺ نے نذرانہِ عبودیت اس طرح پیش کیا اور گویا اس طرح سلامی دی:

الَّتَجِيَّاتُ إِلَيْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

آپ ﷺ نے جواباً عرض کیا:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔

اس کے بعد (عہدِ ایمان کی تجدید کے طور پر) مزید عرض کیا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

ان شارحین نے لکھا ہے کہ نماز میں اس مکالمہ کو شبِ معراج کی یادگار کے طور پر جوں کاتوں لے لیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ میں خطاب کی ضمیر کو برقرار رکھا گیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ صحیح بخاری کی اوپر مذکور حدیث میں خود حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تشہد میں ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ“ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اس وقت کہا کرتے

تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہوتے تھے۔ پھر جب

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم بجائے اس کے ”السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ“ کہنے

لگے۔

لیکن جمہور امت کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ تلقین

فرمائے تھے (یا معراج کے مکالمہ والی مشہور عام روایت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف

سے جو الفاظ ارشاد ہوئے تھے) یعنی ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ

وَ بَرَكَاتُهُ“، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی بطور یادگار اسی کو جوں کاتوں

برقرار رکھا گیا۔ بلاشبہ اربابِ ذوق کے لیے اس میں ایک خاص لطف ہے۔ اب جو لوگ اس صیغہٴ خطاب سے حضور اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے متعلق بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ شرک پسندی کے مریض، نہایت ہی کور ذوق اور عربی زبان و ادب کی لطافتوں سے بالکل ہی نا آشنا ہیں۔

8.4: رفع سبابہ

مسئلہ 5 اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ پڑھتے وقت جب اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں جس کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں اور چھنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں۔ اور شہادت (یعنی کلمہ) کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ قبلہ کی جانب جھکی ہوئی ہو۔ بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائیں۔

حدیث نمبر 17:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. فَدَعَا بِهَا. وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ. بِاسِطِّهَا عَنِّيهَا.

تحقیق
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني ومعه:
هو ابن راشد الأزدي، وعبيد الله بن عمر: هو العمري ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو عوانة 225/2 من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (580) (114)، والترمذي (294) والنسائي في المجتبى 37/3.

وابن ماجه (913)، وابن خزيمة (717)، وأبو عوانة 225/2، والبيهقي 130/2.

والبغوي (673) من طريق عبد الرزاق. بهذا الإسناد.

قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من لهذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين يختارون الإشارة في التشهد. وهو قول أصحابنا.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (2046) من طريق هشام بن يوسف عن معمر. به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (2046) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن

عبید اللہ بن عمر. عن عبد اللہ بن دینار. بہ. وقال: لم يروه عن عبید اللہ بن عمر.
عن عبد اللہ بن دینار. إلا هشام بن يوسف. عن معمر.
وانظر (6000) و(6153).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ۱۰ ص ۴۱۸ رقم 6348 المؤلف: أبو عبد اللہ أحمد
بن محمد بن حنبل بن ہلال بن أسد الشیبانی (المتوفى ۲۴۱ھ) المحقق: شعيب
الأرنؤوط. عادل مرشد وآخرون إشراف: عبد اللہ بن عبد المحسن التركي.
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر والی انگلی (انگشت شہادت) کو اٹھا کر اس سے اشارہ فرماتے تھے اور اس وقت بایاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیں گھٹنے پر ہی دراز ہوتا تھا (یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اشارہ نہیں فرماتے تھے)۔

تشریح

قعدہ میں کلمہ شہادت کے وقت انگشت شہادت کا اٹھانا اور اشارہ کرنا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام نے بھی روایت کیا ہے، اور بلاشبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ جس وقت نمازی "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہہ کر اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی شہادت دے رہا ہو اس وقت اس کا دل بھی توحید کے تصور اور یقین سے لبریز ہو اور ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا کر جسم سے بھی اس کی شہادت دی جا رہی ہو، بلکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اسی حدیث کی بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ انگشت شہادت کے اس اشارے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اشارہ فرماتے تھے:

وَاتَّبَعَهَا بَصْرَهُ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ہی اس اشارہ کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشادہ بھی نقل فرمایا ہے:

حدیث نمبر 18:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَسْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ

زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِأَصْبِعِهِ، وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ" يَعْنِي السَّبَابَةَ.

تحقيق

إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ - وَهُوَ الْأَسْلَمِيُّ - قَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ: لَيْسَ بِذَلِكَ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: لَيْسَ بِذَلِكَ السَّاقِطُ وَإِلَى الضَّعْفِ مَا هُوَ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَدُوقٌ فِيهِ لِينٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَاحِحُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِي، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ. وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخِينَ.

نافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البزار (563) (زوائد) من طريق أبي أحمد الزبيرى. بهذا الإسناد.

وقال: تفرد به كثير بن زيد. عن نافع. وليس له إلا لهذا.

وأورده الهيثمى فى "مجمع الزوائد"، 140/2، وقال: رواد البزار وأحمد وفيه كثير بن زيد، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره.

وقوله: "كان عبد الله بن عمر إذا جلس فى الصلاة، وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه، وأتبعها بصره": سيأتى نحوه بإسناد صحيح من فعل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم (6348)، وانظر (5043).

وفى الباب عن وائل بن حجر، سيرد 316/4-317.

وعن عبد الله بن الزبير عند مسلم (579)، سيرد 3/4.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 10، ص 203 رقم 6000، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى، (الوفى 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421هـ).

وهذا سند حسن أو قريب من الحسن؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الستة؛ غير كثير بن زيد، وهو صدوق يخطئ - كما فى التقريب -.

(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ج 3 ص 839 المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني رحمه (المتوفى: 1420 هـ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. الطبعة: الأولى 1427 هـ - 2006 م)

(مشکوٰۃ رقم ۹۱۷۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے)

ترجمہ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے اور جب اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، تو اس وقت اپنی آنکھ سے بھی اشارہ کرتے تھے۔ پھر فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”انگشت شہادت کا یہ اشارہ شیطان کے لیے لوہے کی دھار دار چھری اور تلوار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔“

حدیث نمبر 19:- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فُجْدِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فُجْدِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

(صحیح مسلم: 113-579)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ میں تشہد پڑھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگوٹھے کو بیچ کی انگلی پر رکھتے اور لقمہ بناتے گھٹنے کو بائیں ہتھیلی کا (یعنی بائیں ہتھیلی کو گھٹنے سے اس قدر قریب رکھتے کہ گھٹنا ہتھیلیوں کے اندر آجاتا)۔“

حدیث نمبر 20:- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْبُصَيْصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا

دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو كَذَلِكَ. وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى. حديث صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلساً - قد صرح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى" (1194)، ومحمد بن عجلان - وإن كان فيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح - قد توبع. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وزيادة: هو ابن سعد.

وأخرجه النسائي (1194) وأبو عوانة 2/226، والبيهقي 2/131 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وعنوان هذا الحديث عند أبي عوانة: بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورعى البصر إليها. وترك تحريكها في الإشارة. وأخرجه دون قوله: "ولا يحركها" مسلم (579) (113) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. ولم يذكر زيادة عمرو. وهو في "صحيح ابن حبان" (1943). وانظر ما قبله.

ولا يعارض هذا الحديث حديث وائل بن حجر عند النسائي (1192) من طريق زائدة بن قدامة، حدثنا عاصم بن كليب، حدثني أبي أن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف. قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه، وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.

وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحاً، فإن قوله: "فرأيته يحركها يدعو بها" لفظة شاذة انفرد بها زائدة بن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب: سفيان بن عيينة، وخالد الواسطي، وقيس بن الربيع، وسلام بن سليم، وسفيان الثوري، وشعبة وغيرهم، وهؤلاء الأثبات الثقات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي انفرد به زائدة... وانظر تمام الكلام عليه في ما علقته على سنن النسائي

فالإشارة هي السنة لا التحريك. وقد أخطأ الألباني رحمه الله خطأ مبيناً في صفة الصلاة ص 158 فجعل التحريك هو الأصل وهو السنة الثابتة بناء على اللفظة الشاذة التي انفرد بها زائدة. ثم إنه أتبع قوله: كأن رفع إصبعه يحركها يدعو ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. وهذا يوهم أنه من تمام حديث وائل بن حجر، وليس كذلك. فإن هذه القطعة من حديث ابن عمر عند أحمد (6000) ولفظه: كان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه وأتبعها بصره. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهي أشد على الشيطان من الحديد" وهذا واضح في أنه ورد في الإشارة لا في التحريك، وإسناده مع هذا ضعيف لضعف كثير بن زيد الأسلمي أحد رواة عند غير واحد من الأئمة.

وقد قول الإمام أحمد ما لم يقل فنقل عن "مسائل أحمد": وسئل هل يشير الرجل بأصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديداً، ففهم منه التحريك، وأظنه لا يفرق بين الإشارة والتحريك، وإلا فما معنى استشهاده بقول أحمد وقد أجاب عن الإشارة لا التحريك، ونص مذهبه كما في "المغني" 2/ 217 أنه يشير بها ولا يحركها.

(سنن أبي داود، ج 2 ص 232 رقم 989. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني عمه (المتوفى: 217هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى، 1430هـ)

ترجمہ

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو توحید کے ساتھ پکارتے تو اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے اور انگلی کو اٹھاتے وقت ہلاتے نہیں تھے۔

اس حدیث میں عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے: "حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دعا کرنے یعنی انگشت شہادت کا اشارہ کرتے دیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کا بوجھ بائیں ران پر ڈالتے

تھے۔

تشریح اس حدیث میں انگشت شہادت کو حرکت نہ دینے کا ذکر صراحتاً موجود ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہی ہے۔ بیہقی رضی اللہ عنہ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے۔ اس میں انگلی کو حرکت دینے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ بیہقی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ تحریک سے مراد ممکن ہے مطلقاً رفع سبابہ ہو کیونکہ جب انگلی اٹھائیں تو اسے ایک بار حرکت دینا ہی پڑتی ہے، اور بار بار ادھر ادھر یا نیچے اوپر ہلانا شاید مراد نہ ہو۔ سو اس طور پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی احادیث میں موافقت ہو جاتی ہے۔

حدیث نمبر 21:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ. إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم الباهلي.

تحقیق

وأخرجه مسلم (579) (112) من طريق عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (749) من طريق مخزوم بن بكير، عن عامر، به.

وانظر ما سياتي برقم (989) و(990).

(سنن أبي داود، ج 2 ص 231، 232 رقم 988. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رحمته الله (المتوفى: 255هـ) المعقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلى. الناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى، 1433هـ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قعدہ

کرتے تو اپنا بائیں پاؤں دائیں ران اور پنڈلی کے نیچے رکھتے اور دایاں پاؤں بچھاتے، اور اپنا بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے۔ عبد الواحد راوی نے اپنے شاگردوں کو انگلی سے اشارہ کر کے دکھایا۔

حدیث نمبر 22:- حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ." (صحیح مسلم: 115-580)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "رسول اللہ ﷺ جب تشهد پڑھنے کے لئے بیٹھتے تو بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے اور تریں کا عقد کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔"

نوٹ چھنگلی اور اس کے متصل انگلی نیز بیچ کی انگلی بند کر کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنانے کو عقد ثلاث و خمسين (۵۳) کہا جاتا ہے

حدیث نمبر 23:- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَقَ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهِمَا، يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُدِ."

إسناده قوي. كليب والد عاصم صدوق. وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (726) و (727) و (957)، والنسائي 2/126 و 3/34 و 35، و 37 من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد. زاد زائدة بن قدامة عن عاصم عند النسائي 2/126 و 3/37: "رأيت يجر كها يدعو بها، وهي زيادة شاذة انفرد بها زائدة بن قدامة كما هو مبين في المسند."

وهو في مسند أحمد (18850) و (18870)، و صحيح ابن حبان (1860) و

(1945)

(سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۷۷ رقم 912 المؤلف: ابن ماجہ - وماجہ اسم أبيه يزيد -
أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ۳۷۳ھ) المحقق: شعيب
الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حوز الله الناشر:
دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى ۱۴۳۰ھ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنائے ہیں اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، تشہد پڑھنے کی حالت میں۔“

حدیث نمبر 24:- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَاوِي، عَنْ عِصَامِ بْنِ قَدَامَةَ، عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ ثُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ.

احکم الألبانی صحیح (سنن نسائی رقم 1271)

ترجمہ حضرت مالک بن نمیر رضی اللہ عنہ اپنے والد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بحالت قعود دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھے ہوئے ہیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اشارہ کر رہے تھے۔“

تنبیہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشارہ کرتے وقت انگلی کو سیدھے آسمان کی جانب نہ اٹھایا جائے۔

حدیث نمبر 25:- أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَعَفَ قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ، وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْبِئْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْبِئْرَى عَلَى فِخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ.

الْيُسْرَى. وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْنَى. ثُمَّ قَبَضَ
اِثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً. ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتَهُ يُحَرِّكُهَا
يَدْعُو بِهَا. مُخْتَصِرٌ (نسائي رقم 1268)

تحقيق

حديث صحيح دون قوله: "فرايته يحركها يدعو بها" فهو شاذ انفراد به زائدة وهو
ابن قدامة- من بين أصحاب عاصم بن كليب كما سيأتي مفصلاً. ورجال الإسناد
ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري.

وأخرجه الدارمي (1357)، والبخاري في رفع اليدين (31)، وأبو داود (727)،
وابن الجارود (208)، والنسائي في المجتبى 127-126/2 و37/3، وفي الكبرى
(1191)، وابن خزيمة (480) و(714)، وابن حبان (1860)، والطبراني 22/82،
والبيهقي 28-27/2 و28 و132 من طرق عن زائدة، بهذا الإسناد. قال ابن
خزيمة: ليس في شيء من الأخبار "يحركها" إلا في هذا الخبر. زائدة ذكره. وقال
البيهقي 132/2: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها. لا تكرير
تحريكها ...

وقوله: "فرايته يحركها يدعو بها" انفراد بها زائدة من بين أصحاب عاصم ابن كليب.
وهم: عبد الواحد بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وسفيان
بن عيينة، وسلام بن سليم أبو الأحوص، وبشر بن المفضل، وعبد الله بن
إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وخالد بن عبد الله الواسطي.
فحديث عبد الواحد بن زياد العبدى سلف (18850)، ولفظه: وأشار بأصبعه
السبابة.

وحديث شعبة، سلف (18855)، وسيرد (18877)، ولفظه: وأشار بأصبعه
السبابة.

وحديث سفيان الثوري، سلف (18858)، وسيرد (18871)، ولفظه: ثم أشار
بسبابته.

وحديث زهير بن معاوية، سيرد (18876)، ولفظه: ودغض بِلَايْنِ وَحَتَّى حَلْقَةٍ.
ثم رأيت يقول هكذا، وأشار زهير بسبابته الأيمن، وقبض أصبعين وحلق

الإبهام على السبابة الثانية.

وحدِيث سفيان بن عيينة عند المحيدى (885)، والنسائي 3/34-35، والطبراني 22/78، و(85) ولفظه: وأشار بالسبابة.

وحدِيث أبي الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي (1020) بلفظ: جعل يدعو هكذا. يعنى بالسبابة يشير بها.

وحدِيث بشر بن المفضل عند النسائي 3/35-36، ولفظه: وقبض ثنتين وحلق. ورأيته يقول هكذا. وأشار بالسبابة من اليمنى. وحقَّق الإبهام والوسطى.

وحدِيث عبد الله بن إدريس الأودي عند ابن ماجه (912)، ولفظه: "رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد حلق الإبهام والوسطى. ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد".

وحدِيث قيس بن الربيع عند الطبراني 22/79، ولفظه: وأشار بالسبابة.

وحدِيث أبي عوانة عند الطبراني 22/90، ولفظه: ودعا بالسبابة.

وحدِيث خالد بن عبد الله الواسطي عند البيهقي 2/131، ولفظه: وأشار بالسبابة.

قلنا: فهؤلاء الثقات الأثبات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي خالف به زائدة. وهذا من أبين الأدلة على وهم زائدة فيه. وليس هو من باب زيادة الثقة كما توهم بعضهم. لا سيما أن روايتهم تتأيد بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير وائل بن حجر. ولم يرد فيها التحريك. وجاء في بعضها إثبات الإشارة ونفى التحريك. كما ستقف عليه.

فقد سلف من حدِيث عبد الله بن عمر (5331) من طريق مالك عن مسم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المَعَاوِي. أنه قال: رأى عبد الله ابن عمر وأنا أعبت بالحصى في الصلاة. فلما انصرف نهاني. وقال: اصنع كما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع؟ قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. وقبض أصابعه كلها. وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

وسلف أيضاً (6153) من طريق حماد بن سلمة. عن أيوب. عن نافع. عن ابن عمر:

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى. وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وَدَعَا. وَعِنْدَ مُسْلِمٍ (580) (115) : وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

وسلف من حديث عبد الله بن الزبير (16100) قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، وَلَمْ يَجَاوِزْ بَصْرَةَ إِشَارَتِهِ.

وأخرجه أبو داود (989)، والنسائي 37/3، وأبو عوانة 226/2، والبيهقي 131/2 من طرق عن حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يَحْرُكُهَا، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِالتَّحْدِيثِ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ وَالنَّسَائِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَقَدْ أُحْرَجَ أَبُو عَوَانَةَ فِي مَسْنَدِهِ هَذَا الْحَدِيثَ تَحْتَ قَوْلِهِ: بَيَانُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَابَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَرَمَى الْبَصْرَ إِلَيْهَا وَتَرَكَ تَحْرِيكَهَا فِي الْإِشَارَةِ.

وجاء من حديث أبي حميد الساعدي عند الترمذي (293)، قال: حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حَمِيدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ - فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ، يَعْنِي السَّبَابَةَ، وَهَذَا صَحِيحٌ لَغَيْرِهِ.

وسلف من حديث نمير الخزاعي (15866) من طريق مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ قَدْ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا، وَهُوَ يَدْعُو. وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَغَيْرِهِ دُونَ قَوْلِهِ: قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا.

وسلف من حديث ابن أبيزى (15368) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يشير بأصبعه السَّبَّاحَةِ فِي الصَّلَاةِ. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَسَلَفٌ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضاً (15370) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَعَا، وَضَعَ يَدَهُ اليمَنِ عَلَى فِخْذِهِ ثُمَّ كَانَ يَشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 120، رقم 18870 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ)

ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں کر پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو بایاں پاؤں بچھالیا اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں کہنی کی حد دائیں ران پر رکھا اور دو چھوٹی انگلیوں کو تہ کیا اور حلقہ بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔“

مسئلہ 6 صرف ایک انگلی سے اشارہ کریں۔

حدیث نمبر 26:- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي. فَقَالَ: أَحَدٌ، أَحَدٌ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. (سنن نسائی رقم: 1273)

ترجمہ حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں تشہد میں دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک انگلی سے، ایک انگلی سے۔“ اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

حدیث نمبر 27:- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشْهِيدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْرَى،

وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصْرَهُ إِشَارَتَهُ (نسائی ۱۲۷۵)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ ﷺ جب تشهد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا، تو اس وقت آپ ﷺ کی نگاہ اپنے اشارے سے متجاوز نہ تھی۔“

مسئلہ 7 ثناء، اعوذ باللہ، بسم اللہ کی طرح التحیات بھی آہستہ پڑھیں۔

حدیث نمبر 28: - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُدُ".

تحقیق

حدیث صحیح، محمد بن اسحاق - وان كان مدلساً ورواه بالعنعنة - قد توبع. الأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه الترمذي (291). والبزار (1543) عن سعيد الله بن سعيد الكندي. بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرجه البيهقي 2، 146 من طريق أحمد بن خالد الوهبي. عن محمد بن اسحاق به.

وأخرجه الحاكم 1، 230. وعنه البيهقي 2، 146 - من طريق الحسن بن سعيد الله النخعي. عن عبد الرحمن بن الأسود. به. وإسناده صحيح.

(سنن أبي داود ج 2 ص 230 رقم 986 المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن

إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني. (المعجم: 230هـ)

المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره نلى الناشر: دار الرسالة العالمية

الطبعة: الأولى 1430هـ)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”التحیات کا آہستہ پڑھنا سنت میں سے ہے۔“

مسئلہ 8 فرض، واجب اور سنت مؤکدہ نمازوں کے پہلے قعدہ میں التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے اٹھ جائیں التحیات پر کچھ اضافہ نہ کریں۔

حدیث نمبر 29: - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ تَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشْهَدَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا. فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ إِثَابَهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: "إِذَا جَلَسَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ، وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكَهِ الْيُسْرَى: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". قَالَ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشْهُدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشْهُدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمَ".

تحقیق

صحیح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق- وهو محمد- وقد صرح بالتحديث. فانتفت شبهة تلبسه، وبأبي رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه ابن خزيمة (702) و(708)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/262 من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد

وقد سلف برقم (3622) من طريق الأعمش. عن شقيق. عن ابن مسعود.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4 ص 392 رقم 4382 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. 1421هـ)

ترجمہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد پڑھنا سکھایا، درمیان نماز میں اور آخر نماز میں"۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں: ”رسول اللہ ﷺ جب درمیان نماز اور آخر نماز میں اپنے کو لمبے پر بیٹھتے تو

التحيات لله والصلوات والطيبات الخ پڑھتے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اگر آپ ﷺ درمیان نماز میں ہوتے

تو التحیات سے فارغ ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے اور اگر آخر نماز میں ہوتے تو

التحيات کے بعد دعا پڑھتے جو دعا بھی اللہ چاہتا کہ آپ ﷺ پڑھیں اس کے بعد

سلام پھیرتے۔“

حدیث نمبر 31: - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ

بُنْ حَرْبٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَزِيدُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ عَلَى التَّشْهِيدِ.

احکم حسین سلیم أسد: إسناده صحيح

(مسند أبي يعلى ج 4 ص 434 رقم 4373. المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المشني

بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي رحمه الله (المتوفى سنة 253هـ). المحقق:

حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق. الطبعة:

الأولى 1403هـ)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ خاتون فرماتی ہیں: ”رسول اللہ ﷺ دوسری رکعت میں التحیات

پر زیادتی نہیں فرماتے تھے۔“

8.5: قعدہ اولیٰ میں اختصار اور عجلت

حدیث نمبر 32: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الظَّيَالِسِيُّ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

عَبِيدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى

الرَّضْفِ. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفْتَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَقُولُ: حَتَّى

يَقُومَ. فَيَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُخْتَارُونَ أَنْ لَا يُطِيلَ الرَّجُلُ الْقُعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَا يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُدِ شَيْئًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَقَالُوا: إِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا الشَّهْرِ. هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ.

(سنن ترمذی رقم ۳۶۶ واللفظ له؛ مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۲۶ رقم ۳۰۳۳ طبع ثانی؛ ابوداؤد رقم ۹۸؛ ابوداؤد طیالسی رقم ۳۳۱؛ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۶، ۲۱۰، ۲۳۶)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دو رکعتوں پر بیٹھتے تھے (یعنی قعدہ اولیٰ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی فرماتے تھے) جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تپتے پتھروں پر بیٹھے ہیں یہاں تک کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔“

امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے البتہ (مرسل ہے کیوں کہ) ابو عبیدہ نے اپنے والد سے نہیں سنا ہے (لیکن مؤید بالعمل ہے) اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ یہ حضرات اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی دوسری رکعت میں قعود کو دراز نہ کرے اور اس میں التحیات کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پہلے قعدہ میں تشہد کے ساتھ کچھ اور پڑھ لے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہی مسلک امام شعبی وغیرہ سے مروی ہے۔

تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوامی طرز عمل سے یہ سمجھا گیا ہے کہ قعدہ اولیٰ میں صرف تشہد پڑھ کے جلدی سے کھڑا ہو جانا چاہیے۔

حدیث نمبر 33: - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ. قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: حَتَّى يَقُومَ.

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبیدة - هو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان وشعبة: هو ابن الحجاج وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

تحقیق

وأخرجه أبو يعلى (5232) من طريق يحيى. بهذا الإسناد. ولفظه: على الجمر. بدل على الرضف. وهما معنى.

وأخرجه الطيالسي (331). وأبو داود (995). والترمذي (366). وأبو يعلى (5232). والشاشي (924) و(926) و(927) و(928). والحاكم 269/1. من طرق عن شعبة. به. قال الترمذي: هذا حديث حسن. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

قلنا: قد ورد عنده التصريح بأن السائل: حتى يقوم؛ إنما هو شعبة. والمراد بذلك مقدار القعود في الركعتين الأوليين. وبذلك ترجم له الترمذي. وسيرد التصريح بذلك في الرواية الآتية برقم (4155). قال الترمذي عقب الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم. يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين. ولا يزيد على التشهد شيئاً وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روى عن الشعبي وغيره.

وأخرجه الشافعي 96/1 (بترتيب السندي). والنسائي في "المجتبى" 243/2. وفي الكبرى (764). والشاشي (923). والبيهقي في "السنن" 134/2. والبغوي (670). من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم. عن أبيه. به.

وذكره الحافظ في تلخيص الحبير 263/1. وأنه رواه الشافعي وأحمد والأربعة والحاكم من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه. وأنه منقطع. لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

قلنا: قوله: والأربعة. فيه تجوز. لأن المزي لم يذكر ابن ماجه في "التحفة". ولم نجد في مطوع سننه.

ثم قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة (295/1) من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف يعني: حتى يقوم. إسناده صحيح. وابن بن عمر نحوه.

وسياتي برقم (3895) و(4074) و(4155) و(4388) و(4389) و(4390).

قال السدي: قوله: كان في الركعتين: أي: في الجلوس عنهما في غير الشائبة.

على الرضف بفتح فسكون: هي الحجارة المعبأة على النار. واحدها رَضْفَةٌ. وهو

کناية عن التخفيف في الجلوس.

حتى يقوم، أي: كأنه على الرضف حتى يقوم منه.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۶ ص ۱۶۸ رقم 3656. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن

محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ھ) المحقق: شعيب

الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے

ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت (یعنی قعدہ اولیٰ) میں اس قدر جلدی کرتے

گویا جلتے توے پر بیٹھے تھے۔“ راوی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا:

”تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے لئے یہ جلدی فرماتے تھے۔“ تو حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہاں! یہی ارادہ فرماتے تھے۔“

حدیث نمبر 34:- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ. قَالَ: كَانَ أَبُو

بَكْرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، يَعْنِي، حَتَّى يَقُومَ.

(مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۴۶، ۷۷ رقم ۳۰۳۲ طبع ثانی)

ترجمہ حضرت تمیم بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری رکعت میں

بیٹھے تو ایسا لگتا گویا جلتے توے پر بیٹھے تھے،“ یعنی قعدہ اولیٰ سے تیسری رکعت کے

لئے جلدی سے کھڑے ہو جاتے تھے۔

مسئلہ 10 تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، ان دونوں رکعتوں میں قراءت

کے احکام اور ان کے دلائل مسائل قراءت میں گذر چکے ہیں انھیں دیکھ لیا جائے۔

8.6:- قعدہ اخیرہ

مسئلہ 11 نماز کے آخر میں قعدہ اولیٰ کی طرح پھر بیٹھیں اور التحیات کے ساتھ درود شریف بھی

پڑھیں۔

حدیث نمبر 35:- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفِصٍ. وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَا: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيتُنِي كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِيهَا لِي. فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: «قُولُوا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَوَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَوَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ. اَللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ».

(بخاری رقم ۳۳۷۰؛ مسلم فی الصلاة باب الصلاة علی النبی ﷺ بعد التشهد رقم ۴۰۶ ترقیم فؤاد عبد الباقی؛ صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۷۷ طبع کراچی؛ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۵ طبع کراچی)

ترجمہ

مشہور تابعی حضرت امام عبدالرحمن بن ابی لیلیؒ کا بیان ہے کہ حضرت کعب بن عجرہؓ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے فرمایا: ”کیا تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جسے میں نے اللہ کے نبی ﷺ سے سنا ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”ضرور! وہ تحفہ مجھے عطا فرمائیے۔“ تو انھوں نے کہا: ”ہم نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کے اہل بیت پر درود کس طرح بھیجا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم آپ ﷺ پر سلام کیسے بھیجا کریں (یعنی التحیات میں سلام بھیجنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہا کریں)۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم لوگ ان الفاظ میں درود بھیجو:

اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ. اَللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

ترجمہ اے اللہ! اپنی خاص عنایت و رحمت فرما حضرت محمد ﷺ پر اور حضرت محمد ﷺ کے گھر والوں پر، جیسے کہ تو نے عنایت و رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر۔ تو حمد و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! اپنی خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد ﷺ پر اور حضرت محمد ﷺ کے گھر والوں پر، جیسے کہ تو نے عنایت و رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر۔ تو حمد و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔

8.6.1: درود شریف کی حکمت

انسانوں پر خاص کر ان بندوں پر جن کو کسی نبی علیہ السلام کی ہدایت و تعلیم سے ایمان نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان اس نبی و رسول کا ہوتا ہے، جس کے ذریعہ ان کو ایمان ملا ہو۔ ظاہر ہے کہ امت محمدیہ کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے واسطے سے ملی ہے۔ اس لیے یہ امت اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ممنون حضور اکرم ﷺ کی ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک اور پروردگار ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کی جائے۔ اسی طرح اس کے پیغمبروں کا حق ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مزید رحمت و رافت اور نفع درجات کی دعا کی جائے۔ درود و سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ یہ دراصل ان محسنوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ہدیہ، وفاداری و نیاز کیشی کا نذرانہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو ہماری دعاؤں کی کیا احتیاج بادشاہوں کو فتیروں اور مسکینوں کے ہدیوں اور تحفوں کی کیا ضرورت!

تاہم اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تحفہ بھی ان کی خدمت میں پہنچاتا ہے۔ ہماری اس دعا و التجا کے حساب میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایات میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس دعا گوئی اور اظہار و وفاداری کا خود ہم کو پہنچتا ہے۔ ہمارا

ایمانی رابطہ مستحکم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کے مخلصانہ درود کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی کم از کم دس رحمتوں کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے درود و سلام کا راز اور اس کے فوائد و منافع۔

8.6.2: درود و سلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے

اس کے علاوہ ایک خاص حکمت درود و سلام کی یہ بھی ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی ہیں۔ جب ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے (یعنی ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے رحمت و سلامتی کی دعا کی جائے)۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی سلامتی اور رحمت کے لیے خدا کے محتاج ہیں۔ ان کا حق اور مقام مالی بس یہی ہے کہ ان کے واسطے رحمت و سلامتی کی دعائیں کی جائیں۔ رحمت و سلامتی خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیونکہ ساری مخلوق میں انہیں کا مقام سب سے بالا و برتر ہے۔ شرک کی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ خیر و رحمت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے قبضہ میں بھی سمجھی جائے۔

بہر حال درود و سلام کے اس حکم نے ہم کو نبیوں اور رسولوں کا دعا گو بنا دیا۔ اور جو بندہ پیغمبروں کا دعا گو ہو، وہ مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے!!!

8.6.3: درود شریف میں ”آل“ کا مطلب

اس درود میں ”آل“ کا لفظ جو چار دفعہ آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ”گھر والوں“ کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان خاص کر قرآن و حدیث کے محاورہ میں کسی شخص کے ”آل“ ان کو کہا جاتا ہے جو اس کے ساتھ خاص الخاص تعلق رکھتے ہوں، خواہ یہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہو (جیسے اس شخص کے بیوی)، یا رفاقت و معیت اور عقیدت و محبت اور اتباع و اطاعت کا (جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور مجاہدین و تبعین)۔

علامہ راعب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ويستعمل فيمن يختص بالإنسان اختصاصاً ذاتياً إما بقربة قريبة، أو بموالة. قال الله عز وجل: **وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَلِ عِمْرَانَ (آل عمران: ۴۳)**. وقال: **أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (غافر: ۴۶)**.

(المفردات في غريب القرآن، ص ۹۸، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراعب الأصفهاني رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى: ۵۰۲ھ). المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت. الطبعة: الأولى ۱۴۱۲ھ)

اس لیے اصل لغت کے لحاظ سے یہاں آل کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن آگے حضرت ابو حمید ساعدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت جو یہاں بخاری اور مسلم میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل و اولاد ہی ہے۔ اس حدیث میں بجائے آل کے **أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ** کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ بات بظاہر متعین ہو جاتی ہے کہ پہلی والی حدیث میں جو آل کا لفظ آیا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور ذریت طیبہ رضی اللہ عنہم ہی مراد ہیں۔

حدیث نمبر 36: - **قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ».**

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدى.

وهو عند مالك في «الموطأ» 1/165، ومن طريقه أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (101)، والبخاري (3369) و(6360)، ومسلم (407)، وأبو داود (979)

تحقیق

. وابن ماجه (905) . وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" (70) .
والنسائي في "المجتبى" 49/3. وفي "عمل اليوم والليلة" (59) . والدولابي في "الكنى
والأسماء" 40/1. وأبو عوانة (2039) . والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2238) .
وابن حبان - كما في "إتحاف المهرة" 86/14 . والطبراني في "الأوسط" (1673) .
وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (384) . والبيهقي في "الشعب" (1549) . وفي
"معرفه السنن والآثار" (3707) . وفي "الدعوات الكبير" (82) و(83) . والبغوي في
"شرح السنة" (682) .

وقرن الطبراني بعبد الله بن أبي بكر أخاه محمداً. وانظر ما سلف برقم (23173) .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. سلف برقم (11433) . وذكرنا هناك بقية
أحاديث الباب.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل. ج 39 ص 13، رقم 23600. المؤلف: أبو عبد الله
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ) . المحقق:
شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد. وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن
التركي الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. 1421هـ)

ترجمہ

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
کیا گیا کہ حضرت! ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة (درود) کس طرح پڑھا کریں؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو:

"اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ
حَمِيدٌ مُجِيدٌ."

ترجمہ

اے اللہ! اپنی خاص عنایت ورحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
(پاک) بیبیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر، جیسے کہ آپ نے عنایت ورحمت فرمائی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اور اپنی خاص برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی (پاک) بیبیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر، جیسے کہ آپ نے
برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اے اللہ! تو حمد و ستائش کا سزاوار

اور عظمت و بزرگی والا ہے۔

مسئلہ 12 درود شریف کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی دعا پڑھیں۔

حدیث نمبر 37:- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي

يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: "قُلْ: اَللّٰهُمَّ! اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ".

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

تحقیق

هاشم بن القاسم: هو ابن مسلم الليثي، والليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني.

وأخرجه المروزي (61)، وأبو يعلى (30)، والبغوي في شرح السنة (694) من طريق هاشم بن القاسم. بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (5)، وابن أبي شيبة 269/10، والبخاري (834)، و(6326)، ومسلم (2705)، وابن ماجه (3835)، والترمذي (3531)، والنسائي 3/53، وأبو داود (29)، والمروزي (60)، وأبو يعلى (29) و(31)، وابن خزيمة (845)، وابن أبي عمير (297)، والبيهقي 154/2 من طرق عن الليث بن سعد.

وأخرجه البخاري (7387)، ومسلم (2705)، والنسائي في اليوم والدليلة (173)، وأبو يعلى (32)، وابن خزيمة (746) و(846)، من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب بنه. وقرن مسلم والنسائي عمرو بن الحارث بن رجل آخر له يُسَمُّ. وسيناقى برقم (28).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل 15/8 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن دلال بن أسد الشيباني عمه (الوفى 241هـ)) المعقود: شعب الأرنبوط، عادل مرشد وأخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 1422هـ.)

ترجمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: ”حضور! مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے کہ میں اسے اپنی نماز میں کیا کروں۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ دعا کیا کرو:

اللَّهُمَّ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ. وَارْحَمْنِي. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

ترجمہ اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کئے ہیں اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ بس مجھے اپنی جانب سے مغفرت عطا فرمائیے اور مجھ پر رحم کیجئے۔ یقیناً آپ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔

حدیث نمبر 38:- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَائِثِ وَالْمَغْرَمِ. الحديث.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحکم بن نافع. وشعيب: هو ابن أبي حمزة.

تحقیق

وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (832) و(2397). ومسلم (589). وأبو عوانة 2/

236-237. وتمام الرازي في "فوائد" (347) (الروض البسام). والبيهقي في

"السنن" 154/2. وفي "الدعوات الكبير" (86). وفي "إثبات عذاب القبر" (179).

والبغوي في شرح السنة (691) من طريق أبي اليمان. بهذا الإسناد

قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.

وأخرجه أبو داود (880). وابن أبي عاصم في السنة (871). والنسائي في "المجتبى"

3/56-57. وفي "الكبرى" (1232). وابن حبان (1968) من طريقين عن شعيب.

به.

وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (19630)، وابن راهويه (741)، وعبد بن حميد (1472)، والبخاري (2397)، والنسائي في "المجتبى" 254، 258، 259، و264. وفي "الكبرى" (7889) و(7907)، والطبراني في "الأوسط" (4610) من طرق عن الزهري، به. وسلف برقم (24301).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 31، ص 126، رقم 24578. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى 241هـ). المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ).

ترجمہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نماز میں یہ دعا کرتے تھے:

”اے اللہ! میں آپ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے، اور مسیح دجال کے فتنہ سے، اور حیات و موت کے فتنہ سے۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ گناہوں اور قرض کے بارے۔“

مسئلہ 13 دعاء سے فارغ ہو کر دائیں بائیں جانب سلام پھیریں۔ سلام پھیرتے وقت گردن اتنی موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آجائیں۔

حدیث نمبر 39:- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدَيْهِ". (صحیح مسلم رقم 119-582)

ترجمہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھتا کہ آپ ﷺ دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتا۔“

حدیث نمبر 40:- حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

الأحوص. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» حَتَّى يُرَى بَيَاضَ خَدَيْهِ.

تحقيق

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي - فمن رجال مسلم. وكيع. هو ابن الجراح الرؤاسي. وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه أبو يعلى (5214) من طريق وكيع شيخ أحمد. بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (3130)، وأبو داود (996)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 267/1. وابن حبان (1993)، والطبراني في الكبير (10173) من طرق عن سفيان به.

وأخرجه الطيالسي (308)، وعبد الرزاق (3130)، وابن أبي شيبة 299/1 وأبو داود (996) والنسائي في المجتبى 63/3. وفي الكبرى (1245)، وأبو يعلى (5102)، وابن حبان (1991)، والطبراني في الكبير (10173) من طرق عن أبي إسحاق به.

وأخرجه النسائي في المجتبى 63/3-64. وفي الكبرى (1248)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 268/1، والدارقطني في السنن 357-356/1، والبيهقي في السنن 177/2 من طريق حسين بن واقد عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (10176) من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك بن الحسين عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة ومسروق وعبيدة سليمان عن عبد الله.

وسلف برقم (3660)، وذكرنا هناك أطرافه. (مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٦٧، ص ٢٢٩ رقم 3699. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني عمه (المتوفى ٢٤١ هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں
”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ کہہ کر سلام
پھیرتے تھے یہاں تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آجاتی
تھی۔“

باب 9

نماز کے بعد دعا واذکار

9.1: نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا

مسئلہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے کرتے ہوئے اتنا اٹھائیں کہ وہ سینے کے سامنے آجائیں اور دعا سے فراغت کے بعد انھیں چہرے پر پھیر لیں۔

حدیث نمبر 1: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: "أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟" قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ".

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ الدُّعَاءِ فِيهِ أَفْضَلُ أَوْ أَرْجَى" وَنَحْوَ هَذَا

(سنن الترمذی رقم 3499)

ترجمہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: "کون سی دعا بارگاہ خداوندی میں زیادہ سنی جاتی اور قبول کی جاتی ہے؟" - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وہ دعا جو رات کے آخری حصہ میں کی جائے اور وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے۔"

وضاحت: حدیث پاک میں لفظ "الدُّعَا" عام ہے جو دعائے حاجت اور دعائے ماثورہ

دونوں کو شامل ہے۔ لہذا اسے دعائے ماثورہ کے ساتھ خاص کرنا خلاف اصول ہے۔ نیز حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرض نماز کے بعد کے مستحب ہونے کا ثبوت بے تکلف ثابت ہوتا ہے۔

حدیث نمبر 2:- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي

عَمَّارٍ، اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: «اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: «كَيْفَ اسْتَغْفَرُ؟» قَالَ: تَقُولُ: «اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اسْتَغْفِرُ اللَّهَ». (مسلم رقم: 135-591 ترجمہ نواد عبد الباقی)

ترجمہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ کلمہ استغفار پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور اس کے بعد کہتے:

«اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»۔ اے اللہ! تو ہی سالم ہے (اور محفوظ و منزہ ہے، ہر عیب و نقص سے، حوادث و آفات سے، ہر قسم کے تغیر و زوال سے)۔ اور تیری ہی طرف سے اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے سلامتی (جس کے لیے چاہے اور جب چاہے سلامتی کا فیصلہ کرے، اور جس کے لیے نہ چاہے، نہ کرے)۔ تو برکت والا ہے۔ اے بزرگی و برتری والے، تعظیم و اکرام والے۔

اس حدیث کے راوی حضرت ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اوزاعی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ استغفار کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا: ”آپ یہ کہیں:

«اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اسْتَغْفِرُ اللَّهَ»۔

ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

حدیث نمبر 3:- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ

سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمِيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ مَثَلِي مَثَلِي، تَشْهَدُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ، وَتَضَرَّعُ وَتَخْشَعُ وَتَمْسُكُنْ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ". يَقُولُ: "تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونَيْهِمَا وَجْهَكَ، تَقُولُ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ!". فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا".

تحقق

إسناده ضعيف، عبد الله بن نافع بن العمياء مجهول، قال البخاري في "تاريخه" 213/5: لم يصح حديثه، وقال الدارقطني: ضعيف.

وهو في "مسند عبد الله بن المبارك" (53)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (385)، والنسائي في "الكبرى" (615) و(1440)، والبغوي (740)، وعلقه البخاري في "تاريخه الكبير" 283/3 عن ابن المبارك في ترجمة ربيعة بن الحارث، وقال: هو حديث لا يتابع عليه، ووقع عندهم إلا الترمذي: "فمن لم يفعل ذلك، فهي خداج".

وأخرجه أبو يعلى (6738)، وابن خزيمة (1213)، والطبراني 18/757، والبيهقي 487/2 - 488 من طرق عن الليث بن سعد، به، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 186/13 بعد أن أورده من طريق الليث به: هذا إسناد مضطرب ضعيف لا يحتاج بمثله.

وسياتى في مسند المطلب بن ربيعة (17523، 17525) من طريق شعبة، عن عبد ربه، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع، عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3 ص 15 رقم 1799، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني عمه (المتوفى 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421هـ)

وقال ابن خزيمة بعد تخرجه الحديث:

وَفِي هَذَا الْخَبَرِ زِيَادَةٌ شَرَحَ ذِكْرَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِيَقُولَ: اَللّٰهُمَّ! اَللّٰهُمَّ! وَفِي خَبَرِ اللَّيْلِ قَالَ: تَرْفَعُهُمَا اِلَى رَبِّكَ، تَسْتَقْبِلُ بِهِمَا وَجْهَكَ. وَتَقُولُ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُدِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ. وَهَذَا دَالٌّ عَلَى اَنَّهُ اِنَّمَا اَمْرَةٌ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَالدُّعَاءِ. (ابن خزيمة في صحيحه: ج ۲ ص ۲۲۱ تحت رقم ۱۲۱۳)

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَطْلُبِ بْنِ وَدَاعِهِ. وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَالِحٌ لِلْعَمَلِ فَقَدْ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ. وَذِكْرُ الْبَغْوَى فِي فَصْلِ الْحَسَانِ مِنْ مَصَابِيحِ السَّنَةِ وَصَدَّرَهُ الْمُنْذَرِيُّ بِ"عَنْ" فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ. وَذَلِكَ عَلَامَةٌ كَوْنِ الْحَدِيثِ مَقْبُولٍ عِنْدَهُ. وَصَنِيْعُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكَلِ الْأَثَارِ: ۲/۲۳/۲۶. وَاضِحٌ فِي أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيْحٌ عِنْدَهُ

ترجمہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نماز (نفل) دو دو رکعت ہے۔ تشهد پڑھو ہر دو رکعت میں، اور اظہار خشوع، عجز اور مسکنت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ یعنی ہتھیلی کے باطنی حصہ کو چہرے کے سامنے اٹھاؤ اور یارب! یارب! کہو یعنی دعا مانگو اور جو شخص یہ نہ کرے۔ اس کی نماز ایسی ویسی ہے یعنی ناقص ہے۔“

امام ابن خزيمة رضی اللہ عنہ اس حدیث کی تخریج کے بعد لکھتے ہیں: ”اس حدیث پاک میں رفع یدین کے ذکر کی تشریح ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا و سوال کرے گا اور سلام سے پہلے بحالت تشهد رفع الیدین نماز کی سنت سے نہیں ہے۔ نیز یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ ﷺ نے نمازی کو حکم دیا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ کر سلام کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ سے دعا اور سوال کرے۔“

حدیث نمبر 4: - حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ التُّجَيْبِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيُّ، عَنْ الصُّنَابِيحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! إِنِّي لِأَجِبُكَ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي! يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَنَا أُجِيبُكَ. قَالَ: أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدْعُنِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ:

«اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» قَالَ: وَأَوْضَى بِذَلِكَ مُعَاذُ: الصُّنَابِجِيُّ، وَأَوْضَى الصُّنَابِجِيُّ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَوْضَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ.

تحقيق

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم، فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان التجيبي، وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري، والصنابجي: هو عبد الرحمن بن عَسَيْلَةَ.

وأخرجه أبو داود (1522)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (109)، والبزار في «مسنده» (2661)، وابن خزيمة (751)، وابن حبان (2020) و(2021)، والطبراني في «الكبير» 20/ (110)، وفي «الدعاء» (654)، والحاكم 273/1 و273/3-274، وأبو نعيم في «الحلية» 1/241 و5/130 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» 3/53 من طريق عبد الله بن وهب، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (118) من طريق يحيى بن يعلى، كلاهما عن حيوة بن شريح، به. وأخرجه الطبراني 20/ (250) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عقبة، به.

وأسقط من إسناد الصنابجي، وابن لهيعة سبب الحفظ.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» 20/ (218)، وفي «الشاميين» (1650) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح ابن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن معاذ ومحمد بن إسماعيل ضعيف، وسيأتي (22126).

وقد سلف هذا الدعاء من حديث أبي هريرة برقم (7982) دون تقييده دبر الصلاة. (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 329 رقم 22119 المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله (المتوفى 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ

ترجمہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے فرمایا: ”اے معاذ! مجھے تجھ سے محبت ہے“۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! مجھے بھی آپ ﷺ سے محبت ہے“۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(تو اس محبت کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ) ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کرو، اور اسے کبھی نہ چھوڑو:

اللَّهُمَّ! أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ..

ترجمہ اے اللہ! میری مدد فرما، اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی، اور اپنی اچھی عبادت کی۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وصیت اپنے شاگرد حضرت صنابحی رضی اللہ عنہ کو فرمائی اور انھوں نے اپنے شاگرد حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد حضرت عقبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔

حدیث نمبر 5:- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ مَوْلَى لَأُمِّ سَلْمَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّه سَمِعَ أُمَّ سَلْمَةَ، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا..

تحقیق إسناده ضعيف لإبهام مولى أم سلمة. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابن عُبادة.

وأخرجه الطيالسي (1605)، وابن أبي شيبة 234/10، وعبد بن حميد في

المنتخب (1535)، وابن ماجه (925)، وأبو يعلى (6950)، والطبراني في الكبير-

23/ (686)، وفي الدعاء (671)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (54)، و

(110)، والبيهقي في الدعوات (99)، والحافظ في نتائج الأفكار 312/2 من طرق

عن شعبة، بهذا الإسناد. وسقط اسم أم سلمة من مطبوع الطيالسي.

واستدر كناه من "نتائج الأفكار" وقد سلف برقم (26521).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ۳۴ ص ۲۲۱ رقم 26602. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ھ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ

حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کا سلام پھیرتے تو دعا کرتے: "اے اللہ! میں آپ سے علم نافع، رزق واسع اور عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں۔"

حدیث نمبر 6:- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ: "اللَّهُمَّ! خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَضَعْفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا."

تحقیق

صحیح دون قولہ: دبر صلاۃ الظهر وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. وعبيد الله بن إبراهيم لم نجد له ترجمة. وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير 41/5. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/5. وابن حبان في الثقات 9/7: عبد الله مكبر- ابن إبراهيم القرشي. يروى عن مولى لهم عن جابر بن عبد الله. روى عنه أيوب السخيتاني. ولم يذكروا اختلافاً في اسمه.

وممن يروى عن أبي هريرة إبراهيم بن عبد الله بن قارظ الزهري. ويقال: عبد الله بن إبراهيم الزهري. وهو قرشي.

وانظر ما سلف برقم (7260).

(مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ۱۵ ص ۱۶۲ رقم 9285. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمته (المتوفى ۲۴۱ھ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرشد وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ١٣٢١ھ

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَمَا سَلَّمَ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلْبَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَضَعْفَةَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ».

(تفسير القرآن العظيم، ج ٢ ص ٣٩٠، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي رحمته الله (المتوفى ٤٤٣هـ). المحقق: سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية، ١٣٢٠هـ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ رہتے ہوئے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور دعاء کی: ”اے اللہ! ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ اور کمزور مسلمانوں کو جو کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ راستے سے واقف ہیں۔ کفار کے ہاتھوں نجات اور خلاصی دے دیجئے۔“

حدیث نمبر 7:- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ بِدَعْوَابٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ».

(المعجم الكبير، ج ١٣ ص ١٣٩ رقم 324، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته الله (المتوفى ٣٦٠هـ). المحقق: حمدى بن عبد المجيد السلفى. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (5496/ قلعي) و (45/4 ابن دهب) عن

المصنف، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (169/10) وقال: رواه الطبراني، وترجم له فقال: "محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير"، ورجاله ثقات. ورواه الضياء في "المختارة" (336/9) من طريق المصنف، به.

(المُعْجَمُ الكَبِيرُ للطبراني المُجَلَّدَانِ الثَّالِثُ عَشَرَ والرَّابِعُ عَشَرَ ج ١٣ ص ٢٦٦ رقم 14907 المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة ٣٦٠هـ). تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي)

(رواه الطبراني وترجم له. فقال: محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير ورجاله ثقات. مجمع الزوائد: ج ١٠ ص ١٩٣ رقم ١٤٣٣٥، دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ حضرت محمد بن ابی یحییٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انھوں نے ایک شخص کو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھائے دیکھا تو جب نماز پڑھ چکے تو اس شخص سے فرمایا: "حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد ہاتھوں کو (دعا کے لیے) اٹھاتے تھے۔"

ان احادیث مبارکہ کے عموم سے ظاہر ہے کہ نوافل و فرائض کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

حدیث نمبر 8:- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ

الْجَارُودِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا شَدَّادُ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكْفَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا."

(المعجم الكبير، ج ٦ ص ٢٥٣ رقم 6142 المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى سنة ٣٦٠هـ). المحقق: حمدى بن

عبد المجيد السلفى دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ١٠ ص ٦٩ رقم 17341 المؤلف: أبو الحسن نور

الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (المتوفى ٨٠٤هـ). المحقق: حسام الدين

القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ١٣١٢هـ)

ترجمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس قوم نے بھی اپنی ہتھیلیوں کو اللہ کی جانب اٹھایا کسی چیز کو مانگتے ہوئے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی مانگی ہوئی چیز رکھ دیں گے۔“

حدیث نمبر 9:- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، ثنا ابْنُ

لَهَيْعَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفَهْرِيِّ... سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ

وَيُؤْمِنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللَّهُ». الْحَدِيثُ

(المعجم الكبير ج ٣ ص ٢١ رقم 3536. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي الشامي. أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى ٣٦٠هـ). المحقق: حمدى بن عبد

المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

رَوَاذُ الطَّبْرَانِيِّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ لَهَيْعَةَ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ١٠ ص ٤٠ رقم 17347 المؤلف: أبو الحسن نور

الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته (المتوفى ٨٠٤هـ). المحقق: حسام الدين

القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ١٣١٢هـ)

(وابن لهيعة الراوى عنه فى هذا الحديث هو عبد الله بن يزيد المقرئ وهو أحد

العبادلة الذين تعد روايتهم عن ابن لهيعة أعدل وأقوى)

ترجمہ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے

ہوئے سنا: ”قوم (مسلم) جب جمع ہوتی ہے اور ان میں سے بعض دعا کرتے اور

بعض آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔“

وضاحت: ان دونوں حدیث پاک سے اجتماعی دعا اور اس کی قبولیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ پھر یہ

اجتماع عام ہے کہ نماز کے وقت میں ہو یا کسی اور وقت میں۔ حدیث میں اس کی کوئی

تخصیص نہیں ہے۔

حديث نمبر 10:- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَلُوا

اللَّهُ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ، وَلَا تَسَلُوهُ بِظُهُورِهَا".

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَمَّارِ بْنِ خَالِدِ الْوَاسِطِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 10، ص 169، رقم 17346، المؤلف: أبو الحسن نور

الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمته الله (المتوفى 805هـ). المحقق: حسام الدين

القدس. الناشر: مكتبة القدس، القاهرة 1412هـ.)

حَدَّثَنَا الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ

أَيُّوبَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَخْرَمُ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ

مَالِكِ الْمَزْنِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ

بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا".

(تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، ج 2، ص 195، 206، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد

الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني رحمته الله (المتوفى 330هـ).

المحقق: سيد كسروي حسن. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة:

الأولى، 1410هـ.)

تحقيق

منها عن أبي بكر مرفوعاً به. أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/224) من

طريق أبي جعفر الأخرم حدثنا عمار بن خالد حدثنا القاسم بن مالك المزني عن

خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. وهذا رجاله ثقات رجال

الشيخين غير عمار بن خالد وهو ثقة، وكذا من دونه.

وقد قال الهيثمي (10/169): رواه الطبراني ورجال الصريح غير عمار بن

خالد الواسطي وهو ثقة. وقد صح عن خالد بإسناد آخر له مرسلًا، فقال ابن أبي

شيبه في "المصنف" (12/21/1): أنبأنا حفص بن غياث عن خالد عن أبي قلابه

عن ابن محيريز مرفوعاً به. وهذا سند مرسل صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين

واسم ابن محيريز عبد الله. لكن أخرجه يعقوب بن أحمد الصيرفي في المنتقى من

فوائده" (2/257) من طريق أبي نعيم حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابه عن

عبد الرحمن بن محيرز به. ولعل هذا أصح. فقد ذكره ابن أبي حاتم (2/206) من رواية بشر بن المفضل عن خالد الحذاء به. وقال: "قال أبي: يقال: هو عبد الله بن محيرز. الصحيح. وكذلك قال خالد عن أبي قلابة".

قلت: فإن كان هو عبد الله فالسند صحيح وإن كان عبد الرحمن. فمحمّل للصحة لأنه قد أوردته ابن حبان في "الثقات" (1/129) وقد روى عنه جماعة. فهو صالح للاستشهاد به.

(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فروعها وفوائدها ج 2 ص 123 تحت رقم 595. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم. الأشقودري الألباني رحمته (المتوفى: 1420هـ). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة: الأولى. (المكتبة المعارف) 1415هـ)

ترجمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اپنے ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ سے اللہ سے مانگا کرو باہری حصے سے نہیں۔"

حدیث نمبر 11:- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفِّكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَعْتَ فَاْمَسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ.

(سنن ابن ماجہ باب من رفع یدیه فی الدعاء و مسح بہما وجہہ. رقم 1181۔)

وأخرجه أبو داود (1485) من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق. عن حدثه عن محمد بن كعب القرظي. عن ابن عباس مرفوعا. وقال: روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. وهذا الطريق أمثلها. وهو ضعيف أيضا. (حكم الألباني: ضعيف)

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَجْرٍ فِي أَمَالِيهِ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء. ص 44. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي رحمته (المتوفى: 911هـ) الناشر: مكتبة المنار -

(الأردن)

وذلك نظر الى شواهدہ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم اللہ سے دعا کرو تو باطن ہتھیلی سے دعا کرو، ہتھیلی کے ظاہر سے دعا نہ کیا کرو اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔“

حدیث نمبر 12:- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنِي ضَمُضٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ، أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُونِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ: «لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ - يَعْنِي مَالِكُ بْنُ يَسَارٍ -»
صحیح لغیرہ، وهذا إسناد حسن، أبو ظبية - ويقال: أبو طيبة - هو الكلاعي الحمصي، ثقة، وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلدة مستقيمة، وهذا منها.
ضمضم: هو ابن زرعة بن ثوب الحضرمي، وشريح: هو ابن عبید بن شريح، وأبو بحرية: هو عبد الله بن قيس السكوني.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 57/43 من طريق أبي داود بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأحاديث والمثاني" (2459)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 47/3، والطبراني في "مسند الشاميين" (1639)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 56/43، وابن الأثير في ترجمة مالك بن يسار من "أسد الغابة" 5/56، والمزني في ترجمة مالك بن يسار من "تهذيب الكمال" 168/27 من طريقين عن إسماعيل بن عياش، به.

وله شاهد من حديث ابن عباس السالف قبله.

وآخر من حديث أبي بكره عند الطبراني كما في "فض الوعاء" للسيوطي (43)، وعلى بن عمر الحرابي في "الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي" (141)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 224/2، ورجاله ثقات.

وثالث مرسل صحيح من حديث ابن محيريز وهو تابعي كبير عند ابن أبي شيبة 10/286. والعقيلي في "الصحابة" - كما في "الإصابة" - 208/5.

ورابع من حديث رجل رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أحجار الزيت يدعو بأسطاً كفيه. سلف عند المصنف برقم (1172). وإسناده صحيح.

وخامس من حديث عمير مولى أبي اللحم عند أحمد (21944). وابن حبان (879) وإسناده صحيح.

وسادس من حديث أنس سيأتي بعده.

(سنن أبي داود ج 2 ص 208 رقم 1486. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن

إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني رحمته الله (المتوفى: 245هـ).

المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بلي الناشر: دار الرسالة العالمية.

الطبعة: الأولى 1430هـ)

ترجمہ حضرت مالک بن یسار عوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اندرونی ہتھیلیوں سے دعا مانگا کرو۔ ہتھیلیوں کے باہری حصہ سے نہ مانگا کرو۔“

حدیث نمبر 13:- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَغَيْرُ

وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَيْسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحْطِهُمَا حَتَّى

يَمْسَحَ بِهِنَّ وَجْهَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ

بِهِنَّ وَجْهَهُ.

قال أبو عيسى: هذا صحيح حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى.

وقد تفرّد به وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان

الجمحي هو ثقة، وثقة يحيى بن سعيد القطان.

(سنن ترمذی کتاب الدعوات: ص 305 رقم 3386 طبع دار المعرفۃ، بیروت 1423ھ)

(المستدرک علی الصحیحین ج 1 ص 19 رقم 1967. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني

النيسابوری المعروف بابن البیع (المتوفى ۳۰۵ھ) تحفین: مصطفیٰ عبد الفادر

عطا الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت (الطبعة: الأولى ۱۳۱۵ھ)

(وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: أخرجه الترمذی وله شواهد منها حديث

ابن عباس: عند أبي داود. ومجموعها يقتضى أنه حديث حسن (بلوغ المرام ج ۱

ص ۲۲۸، ۲۲۷ تحت رقم الحديث ۱۵۵۳). وأقر الحافظ على ذكر ذلك الأ مير الصنعاني في

سبل السلام: (ج ۳ ص ۳۲، طبع دار المعرفة، بیروت) واستدل بالحديث على

مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء وأقره أيضاً المحدث

عبدالرحمن المبارك فوری في تحفة الا حوذی: (ج ۹ ص ۳۲۹)

ترجمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے

ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کو اس وقت تک واپس نہیں لوٹاتے تھے جب تک کہ دونوں

ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہیں پھیر لیا کرتے تھے۔“

حدیث نمبر 14:- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

إسناده ضعيف لجهالة حفص بن هاشم بن عتبة. ولسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه أبو داود (1492) ومن طريقه البيهقي في الدعوات (184) عن قتيبة بن

سعيد. بهذا الإسناد.

وسلف الحديث عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه برقم (16563) و

(16564) ومنتنه مغاير لهذا المتن: كان إذا دعا جعل باطن كفيه إني وجهه

وفي باب مسح الوجه عقب الدعاء عن عمر بن الخطاب عند الترمذی (3386).

والطبرانی في الدعاء (212). والحاكم 536/1 وعن ابن عباس عند أبي داود

(1485) وابن ماجه (1181) و(3866) وابن نصر في مختصر قيم النيل

ص 327. والحاكم 536/1. وإسناده ضعيف. قال أبو داود: روى هذا الحديث من

غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. وهذا الطريق أمثلها. وهو ضعيف أيضاً.

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ۲۹ ص ۳۶۲ رقم 17943 المؤلف: أبو عبد الله أحمد

تحقیق

بن محمد بن حنبل بن ہلال بن أسد الشیبانی رضی اللہ عنہ (المتوفى ۲۴۱ھ) المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ۱۴۲۱ھ

(وفيه ابن لهيعة. روى عنه قتيبة بن سعيد. ورواية قتية عنه صحيح وشيخ ابن لهيعة في هذا الحديث، حفص بن هاشم وهو مجهول لكن رجح ابن حجر في تهذيب التهذيب: ج ۲ ص ۴۲۰ ان شيخ ابن لهيعة في هذا الحديث هو حبان بن واسع دون حفص بن هاشم وحبان بن واسع ذكره ابن حبان في الثقات)

ترجمہ حضرت سائب کے والد حضرت یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں ہاتھوں کو اٹھاتے تو (ختم دعا پر) ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے۔“

حدیث نمبر 15:- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهُوَ وَهْبٌ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُونَ، يُدِيرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ.

قال الشيخ الألباني: ضعيف

(الأدب المفرد، ص ۲۱۳ رقم 609 المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله رضی اللہ عنہ (المتوفى ۲۵۶ھ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت. الطبعة: الثالثة، ۱۴۰۹ھ)

ترجمہ حضرت ابو نعیم وہب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا: ”(ختم دعا پر) دونوں حضرات اپنی ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرتے تھے۔“

حدیث نمبر 16:- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ، وَأَنَا أَفْعَلُهُ.

(المصنف، ج ۲ ص ۲۳۷ رقم 3234، 3235 المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رضی اللہ عنہ (المتوفى: 211ھ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي رضی اللہ عنہ. الناشر: المجلس العلمي - الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي -

بیروت۔ الطبعة: الثانية، 1403)

(مصنف عبدالرزاق: ج ۲ ص ۱۶۱، رقم ۳۲۳۰، ۳۲۳۱ طبع دارالکتب العلمیہ)

(واسنادہ صحیح۔ هذا الحديث وان كان مرسلًا فالمرسل حجة عند كثير من

المحدثين والفقهاء لا سيما اذا اعتضد من المرفوع)

ترجمہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہاتھوں کو اپنے سینے تک اٹھاتے تھے پھر (ختم دعا پر) ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے تھے۔“

امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار ایسا کرتے دیکھا اور میں بھی اسی طرح دعائیں کرتا ہوں۔“

حدیث نمبر 17:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

بْنِ عَمْرِو بْنِ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمَلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(بخاری رقم 844؛ مسلم رقم 144-596؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مشکوٰۃ رقم 962)

ترجمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اسی کی حکومت اور فرماں روائی ہے اور وہی حمد و ستائش کا مستحق ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ اے اللہ! جو کچھ تو کسی کو دے دے، کوئی اسے روک سکنے والا نہیں اور جس چیز کے نہ دینے کا تو فیصلہ کر لے کوئی اسے روک سکنے والا نہیں۔

اور کسی سرمایہ والے کو اس کا سرمایہ تجھ سے مستغنی نہیں کر سکتا (یعنی بڑے سے بڑا سرمایہ دار اور صاحب جاہ و عظمت بھی ہر آن تیرے کرم کا محتاج ہے)۔

حدیث نمبر 18:- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْمَلِكِ بْنُ عَمِيْرٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأُوْدِيَّ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُ

بَنِيهِ هُوَ لَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ انْغِلْمَانَ الْكِتَابَةِ وَيَقُولُ: إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ دُبْرَ الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ!

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ"۔ (بخاری رقم 2822؛ مشکوٰۃ رقم 964)

ترجمہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعوذ کے یہ کلمات

سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد ان کلمات

کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے:

"اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ"۔

ترجمہ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے۔ اور تیری پناہ چاہتا ہوں بخل و کنجوسی

سے۔ اور تیری پناہ چاہتا ہوں نکمی عمر سے (یعنی ایسے بڑھاپے سے جس میں حواس اور

قوی صحیح سلامت نہ رہیں اور آدمی بالکل نکما اور دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے) اور

تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے۔

حدیث نمبر 19:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ:

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ

وَلَهُ الْفَضْلُ. وَلَهُ الْعَنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَلَوْ كَرِهَ

الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَ دُبْرَ

كُلِّ صَلَاةٍ. (مسلم: رقم 139-594)

ترجمہ حضرت ابوالزبیر رضی اللہ عنہ تابعی فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ اس منبر پر خطبہ دیتے ہوئے بیان فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد نماز کے ختم پر کہا کرتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں۔ اسی کی حکومت اور فرماں روائی ہے اور وہی حمد و ستائش کا مستحق ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت سب اللہ تعالیٰ ہی کے ارادہ سے ہے۔ اس کا کوئی معبود نہیں۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سب نعمتیں اسی کی ہیں۔ فضل و احسان اسی کا ہے۔ اچھی تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم پورے اخلاص کے ساتھ اسی کی بندگی کرتے ہیں اگرچہ منکروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔

9.2: دعائیں ہاتھ اٹھانے کی احادیث معنی کے لحاظ سے

متواتر ہیں

دعائیں ہاتھ اٹھانے کی احادیث کی کثرت کے پیش نظر شیخ محمد بن جعفر کتانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”امام سیوطی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ”اتمام الدرایۃ بشرح النقایۃ“ میں یہ بات گزر چکی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک جز (رسالہ) جمع کیا ہے: ”فی حدیث رفع الیدین فی الدعاء“ (دعائیں ہاتھ اٹھانے کی حدیث کے سلسلہ میں)۔ میرے سامنے مختلف طریقوں اور سندوں سے (اس کے ثبوت میں)

ایک سو (۱۰۰) احادیث آئی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی تقریب کی شرح میں منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ متواتر المعنی حدیث میں سے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث بھی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً سو (۱۰۰) احادیث ایسی مروی ہیں کہ جن میں دعا کے اندر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور میں نے ان سب احادیث کو ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے لیکن وہ احادیث مختلف حالات و واقعات کی ہیں۔ ان میں سے ہر واقعہ میں تو احادیث متواتر نہیں ہیں۔ البتہ ان سب میں جو بات قدر مشترک ہے، وہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔ پس یہ چیز مجموعی اعتبار سے متواتر ہے۔ فتح الباری میں استقواء میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ تصریح ہے کہ مصنف یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کے باب میں اس سے ہر دعا میں ہاتھ اٹھانے پر استدلال کیا ہے اور اس سلسلہ میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں جن کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ رسالہ میں جمع کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے تقریباً تیس (۳۰) احادیث کو ”شرح المہذب“ نامی کتاب میں نماز کے متعلق مسائل کی بحث میں نقل کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ استقواء کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی۔ اور وہ اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی مشکل ہے اور میں نے تقریباً تیس (۳۰) احادیث کو جمع کیا ہے۔ ”شرح المہذب“ کے نماز کی صفت کے باب کے آخر میں، میں نے ان کو ذکر کر دیا ہے۔

(نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، ج ۱ ص ۱۷۶، ۱۷۷. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدریس الحسنی الإدریسی الشهیر بـ الکتانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: 1345ھ). المحقق: شرف حجازی الناشر: دار الکتب السلفية - مصر)

ڈاکٹر محمود الطحان حفظہ اللہ تعالیٰ متواتر احادیث کی دوسری قسم متواتر معنوی کے تحت فرماتے ہیں:

”ہوما تواتر معناه دون لفظه. مثل: أحادیث رفع الیدین فی الدعاء، فقد ورد عنه صلی اللہ علیہ وسلم نحو مائة حدیث، کل حدیث منها فیہ: أنه رفع یدیه

فی الدعاء، لكنها فی قضایا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك بينها- وهو الرفع عند الدعاء- تواتر باعتبار مجموع الطرق... (تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى للسيوطى ج ٢ ص ١٨٠؛ تيسير مصطلح الحديث ص ١٩ طبع مكتبة البشرى، كراچى)

ترجمہ

تواتر معنوی وہ ہے جس میں الفاظ کے بجائے معنی کا تواتر منقول ہو۔ مثلاً دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی احادیث۔ جناب رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سو (100) احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے ہر حدیث میں یہ منقول ہے کہ آپ ﷺ نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے۔ اگرچہ یہ مختلف اوقات کی دعا میں منقول ہے۔ ہر وقت کی دعا کی احادیث اگرچہ متواتر نہیں ہیں۔ ان میں قدر مشترک کے طور پر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ اس طرح مجموعی طرق کے لحاظ سے یہ حدیث متواتر ہے۔

تنبیہ

مذکورہ کیفیت کے ساتھ فرض وغیرہ نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ان مذکورہ احادیث سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ لہذا اسے بدعت سمجھنا یا کہنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ نماز کے بعد اس طرح دعا مانگنا ایک امر مستحب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو اس پر انکار و ملامت مناسب نہیں۔

9.3: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

(قَوْلُهُ: بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ): أَيِ الْمَكْتُوبَةِ.

وَفِي هَذِهِ التَّرْجُمَةِ رَدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُشْرَعُ مُتَمَسِّكًا بِالحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا قَدَرًا مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّنْفِي الْمَذْكُورِ نَفْيُ اسْتِمْرَارِهِ جَالِسًا عَلَى كَيْدَتِهِ قَبْلَ السَّلَامِ إِلَّا بِقَدَرٍ أَنْ يَقُولَ مَا ذَكَرَ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ

إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ. فَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ بَعْدَ أَنْ يَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ. قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ: وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ سِوَاءِ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمَأْمُومِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلًا. وَلَا رُوِيَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِصَلَاتِي الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ. وَلَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلَا أُرْشِدَ إِلَيْهِ أُمَّتُهُ. وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحْسَانٌ رَأَاهُ مَنْ رَأَاهُ عِوَضًا مِنَ السُّنَّةِ بَعْدَهُمَا. قَالَ: وَعَامَّةُ الْأَدْعِيَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَاةِ إِنَّمَا فَعَلَهَا فِيهَا وَأَمَرَ بِهَا فِيهَا. قَالَ: وَهَذَا اللَّائِقُ بِحَالِ الْمُصَلِّي فَإِنَّهُ مُقْبِلٌ عَلَى رَبِّهِ مُنَاجِيهِ. فَإِذَا سَلَّمَ مِنْهَا انْقَطَعَتِ الْمُنَاجَاةُ وَانْتَهَى مَوْقِفُهُ وَقُرْبُهُ. فَكَيْفَ يَتْرُكُ سُؤَالَهُ فِي حَالِ مُنَاجَاتِهِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ، وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْأَلُ إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّ الْأَذْكَارَ الْوَارِدَةَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى بِهَا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا وَيَدْعُوَ بِمَا شَاءَ. وَيَكُونُ دُعَاؤُهُ عَقِبَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الذِّكْرُ لَا لِكُونِهِ دُبْرَ الْمَكْتُوبَةِ. قُلْتُ: وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ النَّفْيِ مُطْلَقًا مَرْدُودًا. فَقَدْ ثَبِتَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا مُعَاذُ! إِنِّي وَاللَّهِ! لَأَجِيبُكَ فَلَا تَدْعُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اَللّٰهُمَّ! اَعِيبِي عَلَيَّ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ وَالْحَاكِمُ. وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي قَوْلِ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِمْ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُرْهَانِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَحَدِيثُ سَعْدِ الْإِنِّي فِي بَابِ التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ قَرِيبًا. فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْمَبْتُوبِ. وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. الْحَدِيثُ. اَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ رَفَعَهُ: كَانَ يَقُولُ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: اَللّٰهُمَّ! اَصْلِحْ لِي دِيْنِي. الْحَدِيثُ. اَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّهٖ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. فَاِنْ قِيْلَ: الْمُرَادُ بِدُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ قُرْبَ اٰخِرِهَا، وَهُوَ التَّشَهُّدُ. قُلْنَا: قَدْ وَرَدَ الْاَمْرُ بِالذِّكْرِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ وَالْمُرَادُ بِهٖ بَعْدَ السَّلَامِ اِجْمَاعًا. فَكَذَا هَذَا حَتّٰى يَثْبُتَ مَا يُخَالِفُهٗ.

وَقَدْ اَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اُمَامَةَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَتَى الدُّعَاءَ اَسْمَعُ. قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ». وَقَالَ حَسَنٌ. وَاَخْرَجَ الطَّبْرِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّٰدِقِ، قَالَ: «الدُّعَاءُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلٰى النَّافِلَةِ».

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۱۱ ص ۱۳۳، ۱۳۴. المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی. الناشر: دار المعرفة. بیروت ۱۳۹۵ھ رقم کتبه و أبوابه و أحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه و صححه و أشرف علی طبعه: محب الدین الخطیب)

ترجمہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب الدعاء بعد الصلوٰۃ میں لکھا ہے کہ نماز سے مراد فرض نماز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس سے اس کا رد کرنا ہے جو نماز کے بعد دعا کو غیر مشروع کہتا ہے اور حدیث مسلم سے استدلال کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنا ٹھہرتے تھے: اَللّٰهُمَّ! اَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ. تَبَارَكَتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ کہہ لیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نفی مذکور سے مراد اسی نماز کی ہیئت سابقہ پر استمرارِ جلوس کی نفی ہے، کیونکہ یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ لہذا نماز کے بعد دعا والی احادیث کا محمل یہی ہوگا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف توجہ فرما کر (اجتماعی) دعائیں کرتے تھے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”الہدی النبوی“ میں کہا ہے: ”سلام نماز کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا خواہ امام کی ہو یا مفرد کی، یا مقتدی کی، کوئی بھی قطعاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باسناد صحیح یا حسن ایسا ثابت ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے نماز فجر اور عصر کے لیے اس کو خاص کیا ہے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے امت کو ہدایت کی گئی ہے۔ لہذا اس کو ان دونوں نمازوں کے بعد جس نے بھی مستحسن سمجھ کر کیا۔ گویا اس نے سنت کی جگہ ایک نئی بات ایجاد کی ہے۔

پھر لکھا کہ نماز کے بارے میں اکثر ادعیہ مرویہ کا تعلق نماز کے اندر پڑھنے سے ہے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اور اسی میں پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یہی نمازی کے لائق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے۔ اور سلام پھیر کر تو اس کی حالت مناجات ختم ہو جاتی ہے اور اس کا موقف و قرب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سے دعا کا کیا موقع ہے، جو وقت سوال کا تھا اس مناجات و قرب کے وقت تو دعا نہ کی۔ اور اب اس سے فراغت کے بعد دعا اور سوال کرتا ہے۔

البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد پہلے اذکار مسنونہ و ماثورہ پڑھے۔ پھر درود شریف پڑھے اور پھر جو چاہے دعائیں مانگے۔ تو اس طرح اس کی دعا اس دوسری عبادت (اذکار ماثورہ بعد الصلوٰۃ) کے عقب میں ہوگی۔ فرض نماز کے بعد نہ ہوگی۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات نقل کر کے لکھا۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ادعاء مذکور (نماز کے بعد دعا مانگنا مشروع نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ) نفی مطلق کی صورت میں مردود ہے کیونکہ مندرجہ ذیل احادیث سے اس کی تردید ہوتی ہے۔

1 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نماز کے بعد یہ دعا تلقین فرمائی: اَللّٰهُمَّ! اَعِيْنِيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ
(ابو داؤد، نسائی، صحیح ابن حبان و الجامع)

2 حدیثِ ابی بکر رضی اللہ عنہ میں ہے کہ حضور ﷺ ہر نماز کے بعد اَللّٰهُمَّ! اِنِیْ اَعُوْذُ بِكَ

من الکفر والفقر وعذاب القبر پڑھتے تھے (ترمذی، نسائی، صحیح الحاکم)

3 حدیثِ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو باب التعوذ من البخل بخاری میں ہے، اس کے بعض طرق

میں ہمارا مقصود ہے۔

4 حدیثِ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہ حضور ﷺ ہر نماز کے بعد اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ

شئٍ اَلْنَحْ پڑھا کرتے تھے (ابوداؤد، نسائی)

5 حدیثِ صہیب رضی اللہ عنہ مرفوعاً کہ نماز سے فارغ ہو کر اَللّٰهُمَّ! اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ اَلْنَحْ پڑھا

کرتے تھے (نسائی، صحیح ابن حبان)

اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ احادیث کے الفاظ میں جو دبر کل صلوة

کا لفظ آیا ہے۔ اس سے قرب آخر صلوة یعنی تشہد کے ساتھ دعا مراد لینا اس لیے صحیح

نہیں کہ ذکر بعد الصلوة کا امر بھی وارد ہوا ہے اور اس سے مراد اجتماعی طور سے سلام

کے بعد ہی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ مگر یہ کہ اس کے خلاف کوئی دلیل صحیح لائی

جائے۔ اور ترمذی میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے جو ف اللیل

الآخر (آدھی رات کے بعد یعنی تہجد کے وقت) اور فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کو

مقبول فرمایا ہے۔ اور محدث طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت امام جعفر بن محمد

صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا نفل نمازوں کے بعد کی دعا

سے زیادہ افضل ہے جیسا کہ خود فرض نماز کو نفل نماز پر فضیلت حاصل ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اجمالی تبصرہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ نماز کے بعد دعا اور اس

سے متعلقہ مسائل میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جمہور سلف سے الگ ہے۔ اس

لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقد ضروری سمجھا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری نے بھی

”المواہب“ میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ بالا ادعاء کا رد مدلل کیا ہے اور انہوں نے

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تعقب مذکور کا ذکر بھی اپنی تائید میں کیا ہے۔

(اعلاء السنن: ج ۳ ص ۲۰۴۔ المؤلف: مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ (البتونی ۱۳۹۳ھ)۔ ناشر: ادارة

القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی ۱۳۲۲ھ)

تنبیہ

9.4: علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو تفصیل سے اپنی کتاب: انوار الباری شرح صحیح البخاری (ج ۱ ص ۱۲ تا ۲۲) میں لکھا ہے۔ اس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کی روشنی میں اس مسئلہ کو خوب منقح کیا گیا ہے۔ یہاں اس کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب: الدعاء قبل السلام (سلام سے پہلے دعا کرنے کا باب) کے بعد باب: اذکار بعد الصلوٰۃ (نماز کے بعد اذکار کے بیان کا باب) قائم کیا ہے۔ جیسا کہ کتاب الدعوات میں پہلے باب: ادعیہ خلال صلوٰۃ (نماز کے دوران دعاؤں کے مانگنے کا باب) کے بعد باب: الدعاء بعد الصلوٰۃ (نماز کے بعد دعا مانگنے کا باب) لائیں گے۔ جس سے ثابت کریں گے کہ دعاء بعد الصلوٰۃ (نماز کے بعد دعا مانگنا) بھی مشروع ہے۔

دعائیں دو طرح سے مروی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں سے قبل کے لیے وارد ہیں۔ دوسری وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متفرق و منتشر اوقات میں ثابت ہوئی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف قسم اول کا بیان کر رہے ہیں۔ جس پر عمل کی صورت یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی ہے، کبھی دوسری۔ تو اسی طرح اس کا اتباع کیا جائے، کہ وقت کم ہوتا ہے۔ اس میں جمع کرنے سے سنن و نوافل نماز کے بعد والے میں تاخیر ہوگی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کبھی کوئی دعا آتی ہے، کبھی دوسری۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اتباع سنت کرنا ہوگا۔

(انوار الباری ج ۱ ص ۱۷)

9.5: نماز کے بعد ذکر اللہ بھی مستحب ہے

مسئلہ نماز کے بعد ذکر اللہ بھی مستحب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

حدیث نمبر 20:- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الْمَدْحِيِّ - قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو عَبْدِ مَوْلَى
سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا
وَثَلَاثِينَ، وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ
تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ. وَقَالَ: تَمَامَ الْيَاثَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ
مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ". (صحیح مسلم رقم 146-597)

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کہے: ہر
نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ، ۳۳ بار اللہ اکبر، پس یہ ۹۹ ہوئیں
- اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ ۱۰۰ کی تعداد پوری کرنے کے لئے کہے: ”لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“
تو اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

حدیث نمبر 21:- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ

بْنُ مِعْوَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عَتِيْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ
وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ
تَكْبِيرَةً. (صحیح مسلم رقم: 144-596)

حدیث نمبر 22:- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا حَمْرَةُ

الزِّيَّاتُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ
فَاعِلُهُنَّ - ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ
وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ". (صحیح مسلم رقم: 145-596)

ترجمہ حضرت کعب بن عجرؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرض نمازوں کے بعد کے یہ اذکار ہیں، جن کا کرنے والا نارا مراد نہیں ہوگا: ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر۔“

حدیث نمبر 23:- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرِ، بِطَرَسُوسٍ، كَتَبْنَا عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ.“

(السنن الكبرى، ج ۹ ص ۴۴ رقم 9848. المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي رحمه الله (المتوفى سنة ۳۰۳هـ). حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي. أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط. قدم له: عبد الله بن عبد المحسن الترمذي. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى ۱۴۲۱هـ) (عمل اليوم والليله، ص ۱۸۲ رقم 100. المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي رحمه الله (المتوفى سنة ۳۰۳هـ). المحقق: د. فاروق حمادة. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانية ۱۴۰۶هـ)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ.“

وَفِي رِوَايَةٍ: ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.“

رَوَاهُ الظَّهْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِأَسَانِيدٍ وَأَحَدَهَا جَيِّدٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۱۰ ص ۱۰۲ رقم 16922، 16923. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمه الله (المتوفى سنة ۸۰۷هـ). المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة سنة ۱۴۱۴هـ)

ترجمہ حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو جنت میں داخلہ سے سوائے موت کے اور کوئی نہیں روک سکتی۔“ دوسری روایت میں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھنے کا ذکر ہے۔

حدیث 24:- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، ثنا حَنْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقَاشِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْآخِرَى".

(المعجم الكبير، ج 3 ص 83 رقم 2733. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى 360هـ). المحقق: حمدي بن عبد

المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة: الثانية)

(الدعاء للطبراني، ص 213 رقم 674. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني رحمته (المتوفى 360هـ). المحقق: مصطفى عبد

القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، 1313هـ)

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 2 ص 138 رقم 2892؛ ج 10 ص 102 رقم 16924

المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيتمي رحمته (المتوفى 807هـ).

المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة 1313هـ)

ترجمہ فرزند علیؑ و نواسہ رسولؐ حضرت حسنؑ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے: ”جو شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ دوسری نماز تک اللہ کی

حفاظت میں رہے گا۔“

تنبیہ احادیث میں فرض نمازوں کے بعد بہت سے اذکار مروی ہیں۔ اس موقع پر بغرض

اختصار انہی پر اکتفاء کیا گیا ہے۔

مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق

عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھیں۔ صرف چند مقامات پر ان کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔

- 1 تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانے چاہئیں۔ اگر سردی کی وجہ سے ہاتھ چادر کے اندر ہوں، تب بھی جائز ہے۔ عورتوں کو ہر حال میں چادر سے ہاتھ نکالے بغیر کندھوں تک اٹھانے چاہئیں۔
- 2 تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینہ پر۔

- 3 مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا چاہیے اور دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر بچھانی چاہیے۔ عورتوں کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دینا چاہیے۔ حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہیں چاہیے۔

- 4 مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے کہ سر، سرین اور پشت برابر ہو جائیں۔ عورتوں کو اس قدر نہ جھکنا چاہیے بلکہ صرف اس قدر جھکیں جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔

- 5 مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنی چاہیے۔ عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنی چاہئیں۔

- 6 مردوں کو رکوع میں کہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی۔

- 7 مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنے چاہیے، اور عورتوں

کو نہیں۔

8 مردوں کو سجدے میں کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھنی چاہئیں اور عورتوں کو بچھی ہوئی۔

9 مردوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رکھنا چاہیے اور عورتوں کو نہیں۔

10 مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا چاہیے اور دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے۔ عورتوں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں پیر دائیں طرف نکال دینے چاہئیں۔ اس طرح کہ داہنی ران بائیں ران پر آجائے اور داہنی پنڈلی بائیں پنڈلی پر۔

11 عورتوں کو نماز میں کسی وقت بلند آواز سے قراءت کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ اُن کو ہر نماز میں آہستہ آواز سے قراءت کرنی چاہیے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق و صداقت پر قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ سوادا عظیم کی معیت و اتباع نصیب فرمائے اور اہل حق کے ساتھ تعصب و عناد اور ہٹ دھرمی سے جملہ اہل اسلام کو مامون و محفوظ رکھے۔

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى

مَنْ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔

اعجاز احمد اشرفی

اتوار، ۸۔ جمادی الثانی ۱۴۳۶ھ بہ مطابق ۲۹۔ مارچ ۲۰۱۵ء

منگل، 10۔ شعبان 1440ھ مطابق 16 اپریل 2019ء

بِسْمِ اللَّهِ

1 صفاتِ باری تعالیٰ اور عقائد کے بارے میں مفید کتابیں

- 1:- اِيضَاحُ الدَّلِيلِ فِي بَيَانِ صِفَاتِ الرَّبِّ الْجَلِيلِ (صفاتِ باری تعالیٰ اور مسلکِ اہلِ السنۃ والجماعت)
- 2:- صفاتِ باری تعالیٰ اور اکابرِ علمائے اُمت کے عقائد
- 3:- اَلتَّنْزِيْهَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ التَّشْبِيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اُسْتَوَى "استواءِ علی العرش"
- 4:- اَحْسَنُ الْبَيَانِ فِي تَنْزِيْهِ اللّٰهِ عَنِ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ "اللہ تعالیٰ بغیر جہت اور مکان کے موجود ہیں"
- 5:- اَلتَّنْزِيْهَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى عَقَائِدِ اَهْلِ التَّجْسِيْمِ وَالتَّشْبِيْهِ (صفاتِ مشابہات اور صحیح اسلامی عقیدہ)
- 6:- روشن حقائق اردو ترجمہ: اَلْحَقَائِقُ الْجَلِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَا اُوْرَدَهُ فِي الْفُتُوٰى الْحَمَوِيَّةَ (مصنف علامہ ابنِ جہل)

7:- عَقْدُ الْجَيِّدِ فِي عَقِيْدَةِ التَّوْحِيْدِ ("لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" کا مفہوم و مطلب)

8:- اَزْهَارُ الْقَلَائِدِ فِي تَوْضِيْحِ الْعَقَائِدِ: عقائدِ اہلِ السنۃ والجماعت

2 نماز کے بارے میں چند مفید کتابیں

- 1:- اِيضَاحُ الْمَرَامِ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ (ترکِ قراءتِ مقتدی)
- 2:- رَاحَةُ الْعَيْنَيْنِ فِي تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ (ترکِ رفعِ یدین)
- 3:- اَلدُّرُّ الشَّيْنُ فِي الْاِخْفَاءِ بِاَمِيْنٍ (اخفاءِ آمین) 4:- خواتین کا مسنون طریقہ نماز
- 5:- اَلسُّنَّةُ الْغُرَّةُ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتِ الشُّرَّةِ (نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ)
- 6:- اَلْحَبْلُ الْمَتِيْنُ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ (رحمۃ للعالمین صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا طریقہ نماز)
- 7:- اَنْوَارُ الْمَصَابِيْحِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ (نمازِ تراویح)

3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کے بارے میں مفید کتابیں

- 1:- شانِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 2:- فضائلِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم 3:- فضائلِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
- 4:- فضائلِ اہل بیت رضی اللہ عنہم حصہ اول: اہل بیت اور ان کی محبت و عظمت
- 5:- فضائلِ اہل بیت رضی اللہ عنہم حصہ دوم: فضائلِ اُمہاتِ المؤمنین رضی اللہ عنہن
- 6:- فضائلِ اہل بیت رضی اللہ عنہم حصہ سوم: فضائلِ حضرت خدیجہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا
- 7:- فضائلِ اہل بیت رضی اللہ عنہم حصہ چہارم: فضائلِ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا
- 8:- فضائلِ اہل بیت رضی اللہ عنہم حصہ پنجم: فضائلِ زینبِ طاہرہ نبویہ رضی اللہ عنہا
- 9:- فضائلِ اہل بیت رضی اللہ عنہم حصہ ششم: فضائلِ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہا
- 10:- فضائلِ اہل بیت رضی اللہ عنہم حصہ ہفتم: فضائلِ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ
- 11:- فضائلِ اہل بیت رضی اللہ عنہم حصہ ہشتم: فضائلِ حضراتِ حسنین رضی اللہ عنہما

رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ

کا طریقہ نماز



اردو بازار لاہور پتہ

0301-4441805